

فہرست مقالات



جلد ۲

حضرت مولانا مفتی محمد سعید عثمانی صاحب

باؤں قائمانگ کے جائز طریقے
پی ایل اس اکاؤنٹ کی حقیقت

قارآن اکیمیج یہ سرسریکشنا

ووٹ کی اسلامی حیثیت

قانون میعادناماعت کی شرعی حیثیت

کوئے کی حلت پر تحقیق

مرودہ موزوں پرس کا حکم

تا خیر کن کی وہ مقدار جس سے بخدا کیوں اچب ہوتا ہے۔

رمضان میں انقلاب کی جماعت

بیکوں اور مالیاتی اداروں سے ترکوہ

اسلام میں علیح کی حقیقت

ستقبل کی تاریخ پر تحریک و روند

میر امداد پبلیشنز

میر امداد

فقهي مقالات



شیخ الحدیث مولانا منظی محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



ترجمہ و ترتیب

محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلیشورز

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

مقالات : حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم
 ترجمہ و ترتیب : مولانا عبداللہ میمن صاحب
 تاریخ اشاعت : 2011/
 باہتمام : محمد مشہود الحنفی کلیانوی : 0313-9205497
 ناشر : میمن اسلامک پبلشرز
2 : جلد
 قیمت : / روپے = حکومت پاکستان کا پر رائٹس رجسٹریشن نمبر:

ملفوظ کا پتے

- ☆ میمن اسلامک پبلشرز، کراچی۔ 20 88-241-0322
- ☆ مکتبہ دارالعلوم، کراچی۔ ۱۷۔ مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور۔
- ☆ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی۔
- ☆ ادارۃ المعارف، دارالعلوم، کراچی۔ ۱۷۔
- ☆ مکتبہ معارف القرآن، دارالعلوم، کراچی۔ ۱۷۔
- ☆ کتب خانہ اشرفیہ، قاسم سینٹر، اردو بازار، کراچی۔
- ☆ مکتبہ العلوم، سلام کتب مارکیٹ، بنوری ٹاؤن، کراچی۔
- ☆ مکتبہ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی، نزد جامعہ فاروقیہ، کراچی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

پیش لفظ

اللّٰہ تعالیٰ نے استاد مکرم و مریٰ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم
العالیٰ کو ہر میدان میں اور خاص طور پر فقہی میدان میں جو بلند مقام عطا فرمایا
ہے وہ محتاج بیان نہیں، آپ نے جس دقيق فقہی موضوع پر بھی قلم اٹھایا، احمد اللہ
اس موضوع پر سیر حاصل بحث فرمائی، اور اب تک آپ نے جو فقہی مقالات
تحریر فرمائے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر عربی زبان میں ہیں۔ چنانچہ فقہی
مقالات میں صرف وہی مقالات شامل کئے گئے تھے جو اصلاً عربی میں لکھے گئے
تھے۔ بعد میں احرقر نے ان کا اردو ترجمہ کیا۔

لیکن جب جلد اول حضرات علماء کرام کے پاس پہنچی تو بعض حضرات
علماء نے اس طرف توجہ دلائی کہ حضرت مولانا مدظلہم کے وہ فقہی مضامین جو
حضرت مولانا مدظلہم نے جدید فقہی موضوعات پر برآ راست اردو میں تحریر
فرمائے ہیں، اگر ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر کے شائع کر دیا جائے تو اس

پیش قیمت علمی ذخیرہ سے استفادہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ احقر نے حضرت مولانا مولیٰ ظلہم کے فقہی مضامین کی تلاش شروع کی تو الحمد للہ کچھ کامیابی ہوئی اور چند مضامین جمع ہو گئے۔ جن کا مجموعہ فقہی مقالات جلد ثانی کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہے۔

البتہ اس مجموعے میں دو مقالات ایسے شامل ہیں جو آپ نے عربی میں تحریر فرمائے تھے اور احقر نے ان کا ترجمہ کر دیا ہے۔ ان مقالات کے نام یہ ہیں۔

۱۔ مستقبل کی تاریخ پر خرید و فروخت

۲۔ ہاؤس فائینیانسگ کے جائز طریقے

اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور حضرت استاذ مکرم مولیٰ ظلہم کے علم، عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے علمی جواہر سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

عبداللہ میمن

دارالعلوم کراچی

۱۹ رمضان ۱۴۲۷ھ

اجمالي فهرست فتحی مقالات

صفحہ

- ۱۔ مرد جہ موزوں پر مسح کا حکم ۷
- ۲۔ تاخیر کرن کی وہ مقدار کیا ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہو ۲۵
- ۳۔ رمضان میں نفل کی جماعت ۳۳
- ۴۔ بنکوں اور مالیاتی اداروں سے زکوٰۃ کا مسئلہ ۵۷
- ۵۔ اسلام میں خلع کی حقیقت ۱۳۵
- ۶۔ مستقبل کی تاریخ پر خرید و فروخت ۱۹۳
- ۷۔ ہاؤس فانسگ کے جائز طریقے ۲۱۷
- ۸۔ غیر سودی کا ونڈ، یعنی پی ایل ایس اکاؤنٹ کی حقیقت ۲۲۵
- ۹۔ فارن ایکس چنج، بیر سٹریٹکلیش کا شرعی حکم ۲۶۳
- ۱۰۔ دوٹ کی اسلامی حیثیت ۲۸۳
- ۱۱۔ قانون میعاد سماعت کی شرعی حیثیت ۳۰۱
- ۱۲۔ کوئے کی حلت پر تحقیق ۳۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"أَنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْآتِمَةَ سَيَعْزُزُونَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَوْنٌ"
(سورة الاعماد: ١٢٠)

یعنی جو لوگ کہاں ہوں کارکتاب کرنے ہیں، قیمت کے درج
ان کے اعمال کی ممتازی جائز کی جو وہ لوگ یہاں پہنچ کر کر رکھتے ہیں۔

مروجہ موزوں پر محکم

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ



میمن اسلامک پبلیشرز

عرض ناشر

چجزے کے موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں تمام حضرات علماء کا اتفاق ہے۔ لیکن موجودہ دور کے ایک مشہور مفکر کو خیال ہے کہ اونی، سوتی، اور نائیلوں کے موزوں پر بھی مسح کرنا درست ہے، چنانچہ اس بارے میں ایک صاحب نے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مظلہم کے پاس سوال بھیجا، حضرت مولانا مظلہم نے اس کا تفصیلی جواب تحریر فرمایا، جو ماہنامہ البلاغ کے شمارہ جمادی الاولی ۱۳۹۷ھ میں شائع ہو چکا ہے، اب ہم اس کو دوبارہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا وش کو فبول فرمائے، اور ہم سب کو اس پر اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔

محمد مشہود الحنفی
کلیانوی

مروجہ موزوں پر پسح کا مسئلہ اسٹافنے اس

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ کن موزوں پر پسح کرنا کیا درست ہے؟

الف — جمال تکمیل جمڑے کے موزوں پر پسح کا تعلق ہے اس کے جواز پر تقریباً تمام علماً علمائے کرام کا اتفاق ہے۔

البیت اولیٰ "سوئی" اور نائیلوں وغیرہ کے موزوں پر پسح کے جائز ہونے کے بارہ میں کچھ اختلاف ہے، پیشتر فقہاء اولیٰ اور سوئی موزوں پر پسح جائز ہونے کے بارہ میں کچھ شرائط رکھتے ہیں۔

لیکن دور حاضر کے ایک مشور صاحب فکر و بصیرت فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے موزوں پر کسی قید کے بغیر پسح کرنا درست ہے۔

ب — فقہائے کرام نے جو شرائط موزوں پر پسح کے جائز ہونے کی روکھی ہیں، انکے بارہ میں مشور مفکر فرماتے ہیں کہ۔

"میں نے اپنی امکانی حد تک یہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان شرائط کا مأخذ کیا ہے؟ مگر سنت میں کوئی الیٰ چیز نہ مل سکی۔"

"سنت سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں اور جوتوں پر پسح فرمایا ہے۔" نبی کے سو اکتب سنن میں اور مسنداً حمد میں مخبرہ ابن شعبہؓ کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور (سَعَى إِلَى الْجُوَرِ بَيْنَ وَالنَّعْلَيْنِ) اپنی جرابوں اور جوتوں پر پسح فرمایا۔ ابو داودؓ کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، براء ابن عازبؓ، انس بن مالکؓ، ابو امامہ، سہیل بن سعدؓ اور عمر بن حربؓ نے جرابوں پر پسح کیا نیز حضرت عمرؓ اور

حضرت عباس " سے بھی یہ فعل مردی ہے، بلکہ یہ حق نے ابن عباس " اور انس بن مالک " سے طحاوی نے اولیں ابن اوس " سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو توں پر مسح فرمایا۔ اس میں جرابوں کا ذکر نہیں ہے، اور یہ یہ عمل حضرت علی " نے بھی منقول ہے، ان مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف جراب اور جرابیں پہنچنے ہوئے جوتے پر بھی مسح کرنا اسی طرح جائز ہے جس طرح چڑے کے موزوں پر مسح کرنا درست ہے۔ ان روایات میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیاء کی تجویز کردہ شرائط میں سے کوئی شرط بیان فرمائی ہو اور نہ تھی یہ ذکر کسی جگہ ملتا ہے کہ جن جرابوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مسح فرمایا وہ کس چیز کی تھیں۔

اس لئے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ فقیاء کی عائد کردہ ان شرائط کا کوئی عمل نہ مافذ نہیں اور فقیاء چونکہ شارع نہیں اس لئے ان کی شرطوں پر اگر کوئی عمل نہ کرے تو وہ گنہگار نہ ہو گا۔ اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر قسم کے موزوں پر اطمینان کے ساتھ مسح کیا جاسکتا ہے چاہے وہ ادنی ہوں یا سبق، ناثرون کے ہوں یا کسی اور ریشے کے، چڑے کے ہوں یا آنکھ کلاختہ کے اور ریگزین کے حدیہ کہ اگر پاؤں پر کپڑا پیٹ کر بھی مسح کر لیا جائے تو اس پر بھی جائز ہے۔

ان مفکر کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ " نے بھی اپنے فتویٰ کی کتاب جلد دوم میں بھی یہ فتویٰ دیا ہے۔ اور حافظ ابن قیم اور علامہ ابن حزم کا بھی یہ یعنی مسلک ہے، کہ کسی قید کے بغیر ہر قسم کے موزے پر مسح کیا جاسکتا ہے۔

آخر میں متدعی ہوں کہ اپنے مصروف اوقات میں سے اس دینی مسئلہ کو حل فرمائکر مرسل فرمادیں گے۔ فتویٰ مدلل اور مفصل درکار ہے۔ آپ کے فتویٰ کا منتظر ہوں گا تاکہ اس الجھن سے نکل کر راہ راست پا سکوں۔

المتظر الجواب

محمد طاہر غوری معرفت مدرسہ تعلیم النساء چشتیاں، ضلع بہاولنگر

الجواب بالله التوفيق

جس قسم کے سوتی، اوپنی یا نائیلوں کے موزے آجکل رانجیں، ان پر
مسح کرنا ائمہ مجتهدین میں سے کسی کے نزدیک جائز نہیں، آپ کا خیال غلط ہے کہ
اس مسئلے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسے باریک
موزوں کے بارے میں تمام ائمہ مجتهدین اس پر متفق ہیں کہ ان پر مسح کرنا جائز نہیں
ہے چنانچہ ملک العلماء کا سانی رحمة اللہ علیہ لکھتے ہیں:-

فَإِنْ كَانَا رَقِيقِينَ يُشْفَانُ الْمَاءُ لَا يَجُوزُ

الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا بِالْأَجْمَاعِ

پس اگر موزے استے باریک ہوں کہ ان میں سے پانی چمن
نکتا ہو تو ان پر بہ اجماع مسح جائز نہیں ہے۔

(بدائع الصنائع ص ۱۰ ج ۱)

اور علامہ ابن نجیم رحمة اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:-

وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُورُوبِ الرَّقِيقِ مِنْ
غَزْ لٰ او شعْرٰ بلا خلاف، ولو كان
ثخيناً يمشي معه فرسخاً فصا
عدا فعل الخلاف

(ابجر الرائق ص ۱۹۲ ج ۱)

اس سے معلوم ہوا کہ جن موزوں میں "ثخین" کی شرائط نہ پائی جاتی
ہوں، یعنی ان میں پانی چمن جاتا ہو، یا وہ کسی چیز سے باندھے بغیر بھض اپنی
موٹائی کی بنا پر کھڑے نہ رہ سکتے ہوں، یا ان میں ایک کوس تک بغیر جوتو کے چنان
ممکن نہ ہو، ان پر مسح کرنا کسی بھی مجتهد کے ذہب میں جائز نہیں، ہاں جن موزوں

میں یہ تینوں شرائط پائی جاتی ہوں، ان پر مسح کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہے۔

جہاں تک جناب سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے بہت سے مسائل میں جمورو امت سے الگ راستہ اختیار کیا ہے، یہ مسئلہ بھی ایسا ہی ہے جس میں انہوں نے جمورو فقہاء کی مخالفت کر کے سخت غلطی کی ہے، آپ نے ان کے جو دلائل ذکر کئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف نے مسئلہ کی اصل حقیقت کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش ہی نہیں فرمائی۔ آپ کے اطمینان کے لئے مسئلہ کی حقیقت مختصرًا عرض کی جلتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں وضو کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے اس میں پوریوضاحت کے ساتھ پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، نہ کہ ان پر مسح کرنے کا۔ لذرا قرآن کریم کی اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ وضو میں ہمیشہ پاؤں دھونے جائیں، اور ان پر مسح کسی صورت میں بھی جائز نہ ہو۔ ماں تک کہ جب کسی شخص نے چڑی کے موزے پسند ہوئے ہوں اس وقت بھی مسح کی اجازت نہ ہو، لیکن چڑی کے موزوں پر مسح کی جواہازت با جماعت امت دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے موزوں پر مسح کرنا اور اسکی اجازت دینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے تواتر کے ساتھ ثابت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ اگر مسح علی الخفین کے جواز پر دو تین ہی حدیثیں ہوتیں تب بھی ان کی بناء پر قرآن کریم کے نذکورہ صریح حکم میں کوئی تقيید درست نہ ہوتی، کیونکہ اخبار احادیث سے قرآن کریم پر زیادتی یا اسکا نفع یا اس کی تقيید جائز نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ مسح علی الخفین کی احادیث معنی متواتر ہیں، اس لئے ان متواتر احادیث کی روشنی میں تمام امت کا اس پر اجماع منعقد ہو گیا کہ قرآن کریم کی آیت میں پاؤں دھونے کا حکم اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جب انسان نے "خفین" (یعنی چڑی کے موزے) نہ پسند رکھے ہوں، چنانچہ:- امام ابو حنیفة فرماتے ہیں:-

ماقلت بالمسح حتى جاء في فيه
ضوء النهار (الجرارائق ص ٢٤٣ ج ١)

میں سعی علی الخفین کا اس وقت تک قائل نہیں ہوا جب تک میرے پاس روز روشن کی طرح اس کے دلائل نہیں پہنچ گئے۔
چنانچہ "سعی علی الخفین" کا حکم اسی (٨٠) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں:-

وقد صرخ جمع من الحفاظ بان المسح
على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته
فجاوزوا الشمائين منهم العشرة

(تلل الاوطار ص ٢٧٦ ج ١)

حافظ کی ایک بڑی جماعت نے قصر کی ہے کہ سعی علی الخفین کا حکم متواتر ہے، اور بعض حضرات نے اس کے روایت کرنے والے صحابہ کو جمع کیا تو وہ اسی (٨٠) سے متجاوز تھے جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔
اور حضرت حسن بصری "فرماتے ہیں:-"

ادركت سبعين بدريا من الصحابة
كلهم كانوا يرون المسح على الخفين

(تلميذ العجيز ص ١٥٨ ج ١ و بدرائع ص ٧ ج ١)

اگر سعی علی الخفین کا حکم ایسے تواتر یا استفاضے کے ساتھ ثابت نہ ہوتا تو قرآن کریم نے پاؤں دھونے کا جو حکم دیا ہے اس میں کسی تخصیص یا تنقید کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ امام ابو یوسف "فرماتے ہیں:-"

اما يجوز نسخ القرآن بالبستة اذا اوردت
كوى زوال المسح على الخفين في الا ستفاضة
(أحكام القرآن للجعفاص ص ٢٢٥ ج ٢)

۱۱

”سنت نبویہ سے قرآن کریم کے کسی حکم کو منسوخ (معنی مقید) کرنا اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب وہ ساتھیے تواتر سے ثابت ہو جیسے مسح علی الخفین ثابت ہے۔“

خلاصہ یہ ہے کہ وضو میں پاؤں دھونے کا قرآنی حکم ایسی چیز نہیں ہے جسے دو تین روایتوں کی بنیاد پر کسی خاص حالت کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے، بلکہ اس کے لئے ایسا تو اکثر درکار ہے جیسا کہ علی الخفین کی احادیث کو حاصل ہے۔ اب ”خفین“ (چڑے کے موزوں) کے بارے میں تو یہ تواتر موجود ہے کہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سع خود بھی فرمایا اور ورسوں کو بھی اس کی اجازت دی، لیکن ”خفین“ کے سوا کسی چیز پر سع کرنے کے بارے میں ایسا تو اکثر موجود نہیں ہے۔ اور ”خفین“ چونکہ عربی زبان میں صرف چڑے کے بوزوں کو کہتے ہیں، کچڑے کے موزوں کو ”خف“ نہیں کہا جاتا، اس لئے یہ اجازت صرف چڑے ہی کے موزوں کے ساتھ مخصوص رہے گی، دوسرے موزوں کے بارے میں قرآن کریم کے اصلی حکم یعنی پاؤں دھونے پر ہی عمل ہو گا۔ ہاں اگر کچڑے کے موزے اتنے تھین (موٹے) ہوں کہ وہ اپنی خصوصیات اور اوبیاف میں چڑے کے ہم پاپا ہو گئے ہوں، یعنی نہ تو ان میں پانی چھپتا ہو، نہ انہیں کھڑا رکھنے کے لئے کسی یہودی سارے کی ضرورت ہو اور انکو پہن کر میل دو میل چل کئے ہوں تو ایسے موزوں کے بارے میں فقیاء کے درمیان اختلاف ہو گیا، بعض فقیاء نے فرمایا کہ چونکہ ایسے موزے چڑے ہی کے معنی میں آگئے ہیں اس لئے ان پر بھی سع جائز ہونا چاہئے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ”چونکہ سع کرنا تو اکثر کے ساتھ صرف خفین (چڑے کے موزوں) پر ہی ثابت ہے، اس لئے ان پر سع کرنا درست نہیں، کویا موزے تین قسم کے ہوئے۔“

(۱) چڑے کے موزے جنہیں خفین کہا جاتا ہے، ان پر سع با جماع جائز

(۲) وہ باریک موزے جو نہ چڑے کے ہوں، اور نہ ان میں چڑے کے اوصاف پائے جاتے ہوں، جیسے آجکل کے سوتی، اونی یا نائیلوں کے موزے، ان کے بارے میں اجماع ہے کہ ان پر صحیح جائز نہیں کیونکہ ایسے موزوں پر صحیح کرنا ایسے دلائل سے ثابت نہیں جن کی بناء پر پاؤں دھونے کے قرآنی حکم کو چھوڑا جاسکے۔

(۳) وہ موزے جو چڑے کے تو نہیں ہیں، لیکن ان میں موٹے ہونے کی بناء پر اوصاف چڑے ہی کے پائے جاتے ہیں۔ ان پر صحیح کے جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو موزے چڑے جیسے نہ ہوں، ان پر صحیح کے عدم جواز میں مجتہدین امت کا کوئی اختلاف نہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاؤں دھونے کے قرآنی حکم کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جاسکتا جب تک کہ صحیح کا حکم ایسے تو اتر سے ثابت نہ ہو جائے جس تو اتر سے صحیح علی الخفین کا جواز ثابت ہے۔ لذ المقاماء کرام نے کپڑے کے موزوں پر صحیح کے لئے جو شرطیں لگائی ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں لگائیں، بلکہ ان موزوں میں چڑے کے اوصاف کے تحقق کے لئے لگائی ہیں۔ اور اس میں بھی اختلاف رہا ہے کہ ان شرائط کے تتحقق کے بعد بھی ان پر صحیح جائز ہے یا نہیں۔

حقیقت مسئلہ کی اس وضاحت کے بعد اب ان روایات کو دیکھئے جن میں جو بریان (جورابوں) پر صحیح کا ذکر آیا ہے، سارے ذخیرہ حدیث میں یہ کل تین حدیثیں ہیں ایک حضرت بلاںؓ سے مردی ہے، ایک حضرت ابو موسیٰ الشعراؑ سے، اور ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ (رضی اللہ عنہم) سے۔ حضرت بلاںؓ کی حدیث مجمم صیر طبرانی میں ہے، اور حضرت ابو موسیٰؑ کی ابن ماجہ "اور یہی" دیگرہ نے روایت کی ہے، لیکن حافظ زیلیعی "نے ان دونوں کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں سنداً ضعیف ہیں۔

(نصب الایم م ۱۸۳ ج ۱)

اور حضرت ابو موسیٰ کی حدیث کے بارے میں تو امام ابو داؤد نے بھی لکھا ہے کہ لیس بالمتصل ولا بالقوی (بذل المجهود م ۹۶ ج ۱) لذما یہ دونوں روایتیں تو خارج از بحث ہیں۔

اب صرف حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث رہ جاتی ہے، اس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ امام ترمذی نے اس کو "حسن صحیح" کہا ہے، لیکن دوسرے جلیل القدر محدثین نے امام ترمذی کے اس قول پر سخت تقدیم کی ہے، امام ابو داؤد اس حدیث کو روایت کر کے لکھتے ہیں:-

وكان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدث
بهذه الحديث لأن المعروف عن المغيرة ان النبى
صلى الله عليه وسلم مسع على الخفين-

(بذل المجهود م ۹۶ ج ۱)

حضرت عبد الرحمن بن مهدی یہ حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ حضرت مغیرہ سے جو معروف روایتیں ہیں وہ مسع علی الخفين کی ہیں، (نہ کہ جو ریبن پر سع کی)
امام نسائی سنن کبری میں لکھتے ہیں:-

لا نعلم احدا تابع انه ابا قيس على هذه
الرواية، والصحيح عن المغيرة انه عليه
السلام مسع على الخفين

(نصب الایم م ۱۸۳ ج ۱)

یہ روایت ابو قیس کے سوا کسی نے روایت نہیں کی، اور ہمارے علم میں کوئی اور راوی اسکی تائید نہیں کرتا، البتہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت مسع علی الخفين ہی کی

ہے۔

اُسکے علاوہ امام مسلم "امام بیہقی" ، سفیان ثوری "امام احمد" پیغمبر بن محبیں "علی بن الدینی" ، اور دوسرے محدثین نے اس روایت کو ابو قیم اور هنzel بن شریبل دونوں کے ضعف کی بنا پر ضعیف قرار دیا ہے ، اور علامہ نووی "شارح صحیح مسلم لکھتے ہیں:-

کل واحد من هولاء لو انفرد قدم على
الترمذی، مع ان الجرح مقدم على التعديل،
و اتفق الحفاظ على تضعيقه، ولا يقبل قول
الترمذی انه حسن صحيح -

(نسب الرأی بحوالہ بالا)

جن حضرات نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اگر ان میں سے ہر ایک تھا ہوتا بھی وہ امام ترمذی پر مقدم ہوتا، اس کے علاوہ یہ قاعدة ہے کہ جرج تعديل پر مقدم ہوتی ہے، اور حفاظ حدیث اسکی تضیییف پر متفق ہیں، لہذا ترمذی کا یہ قول کہ، یہ "من صحیح ہے" قابل قبول نہیں۔

یہ ہے اس حدیث کی اسنادی حیثیت ہے مودودی صاحب نے اپنی دلیل میں پیش کیا ہے، آپ نے دیکھا کہ اول تو اکثر حفاظ حدیث کے نزدیک یہ حدیث ضعیف اور ناقابل استدلال ہے۔

دوسرے اگر بالفرض امام ترمذی کے قول کے مقابلہ اسے صحیح مان لیا جائے تو

پورے ذخیرہ حدیث میں تھا یہ ایک روایت ہوگی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رہیں پر سع کرنا فرماد کر رہے ہے۔

اب آپ غور فرمائیے کہ قرآن کریم نے پاؤں دھونے کا جو صریح حکم دیا ہے اسے صرف اس ایک روایت کی بنا پر کیسے چھوڑ دیا جائے، جب کہ ائم-

حدث نے اپر شدید تقدیم بھی کی ہے؟ آپ یچھے دیکھ پکے ہیں کہ مسح علی الخفین کا حکم اس وقت ثابت ہوا جب اسکی احادیث متواتر کی حد تک پہنچ گئیں، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر مسح علی الخفین کی احادیث اتنی کثرت کے ساتھ نہ ہوتیں تو پاؤں دھونے کے قرآنی حکم کو چھوڑنے کی مجباش نہ تھی۔ لیکن مسح علی الجور بین کی احادیث متواتر تو کیا ہوتیں، پورے ذخیرہ حدیث میں اسکی صرف تین روایتیں ہیں، ان میں سے دو توبالاتفاق ضعیف ہیں اور ایک کو اکثر محدثین نے ضعیف کہا ہے، صرف امام رنزی "اسے صحیح کرتے ہیں۔ الی روایات کی بناء پر قرآن کریم کے کسی حکم میں کوئی تخصیص یا قید پیدا نہیں کی جاسکتی، چنانچہ امام ابو بکر جصاص رحمة اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:-

"وَالا صل فيه انه قد ثبت ان مزاد الاية
الغسل على ماقد منا، فلوم ترد الآثار المتواترة
على النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على
الخفين لما اجزنا المسح ولما لم ترد الا
ثارى جواز المسح على الجور بین في وزن
ورودها فى المسح على الخفين ابقينا حكم
الغسل على مزاد الاية" -

(أحكام القرآن للجصاص ص ۲۲۸)

مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ آیت کی اصلی مراد پاؤں دھونا ہے جیسے کہ یچھے گزر چکا، لہذا اگر آخر خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح علی الخفین کی متواتر احادیث ثابت نہ ہوتیں تو ہم کبھی مسح علی الخفین کو جائز قرار نہ دیتے..... اور چونکہ جور بین (کپڑے کے موزوں) پر مسح کی احادیث اس وزنی طریقے سے مروی نہیں ہیں جس وزنی طریقے سے مسح علی الخفین کی احادیث مروی ہیں۔ اس لئے ہم نے وہاں آیت قرآنی کی اصل مراد یعنی پاؤں دھونے کے حکم کو برقرار رکھا

اب صرف یہ سوال رہ جاتا ہے کہ جن حضرات صحابہ کرام سے مقول ہے کہ انہوں نے جور بین پر مسح کیا یا اسکی اجازت دی تو ان کے اس عمل کی کیا وجہ تھی؟ اسکا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ان آثار میں کہیں بھی یہ صراحت نہیں ہے کہ جور بین کپڑے کے باریک موزے تھے، اور جب تک یہ صراحت نہ ہو اس وقت تک ان آثار سے باریک موزوں پر مسح کا جواز کیے ثابت ہو سکتا ہے؟ چنانچہ مشہور اہل حدیث عالم علامہ شمس الحق صاحب عظیم آبادی لکھتے ہیں:-

ان الجورب يتخذمن الا ديم وكذا من
الصوف وكذا من القطن ويقال لكل من هذه
انه جورب، ومن المعلوم ان هذه الرخصة
بهذا العموم لا ثبت الا بعد ان يثبت ان الجوربين
الذين مسح عليهمما النبي صلى الله عليه وسلم
كانا من صوف الخ

(عن العبدوس ۶۲ ج ۱)

”یعنی جور بین کھال کے بھی ہوتے ہیں، اون کے بھی اور روپی کے بھی، اور ہر ایک کو جورب کہا جاتا ہے، اور ہر قسم کے موزے پر مسح کی اجازت اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کے جور بین پر مسح فرمایا۔“ بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ثابت ہے کہ ان حضرات نے جن جور بین پر مسح فرمایا وہ یا تو چڑے کے تھے یا اپنی موہائی کی وجہ سے چڑے کے موزوں کی طرح تھے، اور ان میں چڑے کے موزوں کی صفات پائی جاتی تھیں، چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے:-

حدثنا هشيم قال أخبر نابونس عن الحسن
وشعبه عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن

انهما قالا: يمسح على الجوربين اذا كانا
صفيقين
(مصنف ابن أبي شيبة م ۱۸۸ ج ۱)

حضرت سعید بن میمت" اور حضرت حسن بصری "فرماتے ہیں کہ جوابوں پر
سچ جائز ہے، بشرطکہ وہ خوب موئی ہوں۔ واضح رہے کہ ثوب صفیق اس کپڑے
کو کستے ہیں جو خوب مضبوط اور دینیز ہو ملاحظہ ہو قاموس اور مختار الصحاح
وغیرہ۔

حضرت حسن بصری "اور حضرت سعید بن المیب" دونوں جلیل القدر
تابعین میں سے ہیں اور انہوں نے صحابہ کرام "کامل دیکھ کر ہی یہ فتوی دیا
ہے۔

الذان حضرات کے عمل اور فتوی سے جوبات ثابت ہوئی وہ اس سے زائد
نہیں کہ جو موزے بہت موئی ہونے کی بنا پر چڑے کے اوصاف کے حال ہوں،
ان پر سچ جائز ہے، اور اس موئائی کی وضاحت کے لئے میں نے وہ تین شرائط ذکر کی
ہیں کہ ایک تو ان میں پانی نہ چھپنے دوسرے وہ کسی چیز سے باندھے بغیر اپنی موئائی
کی وجہ سے خود کھڑے رہیں، اور تیسرا یہ کہ ان کو پہن کر میل دو میل چلتا ممکن
ہو، ایسے موزے چونکہ چڑے کے اوصاف کے حال ہوتے ہیں، اس لئے ان کو بھی
اکثر فقہاء نے "سچ علی الخفین" کی احادیث کی دلالت النص اور مذکورہ آثار
صحابہ کی بنا پر "خفین" کے حکم میں داخل کر لیا، چنانچہ علامہ ابن الہمام
تحریر فرماتے ہیں:-

ج

لا شك ان المسح على الخف على
خلاف القياس، فلا يصلح العاق غيره به، الا اذا
كان بطريق الدلالة، وهوان يكون في معناه،
ومعناه الساتر لمحل الفرض الذي هو بعد دمتابعة
المشي فيه في السفر وغيره۔

(جع القدری ص ۱۰۹ ج ۱)

”اس میں کوئی بھک نہیں کہ سعی علی الخفین کی مشروطیت خلاف قیاس ہوتی ہے۔ لہذا کسی دوسری چیز کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، الایہ کہ وہ دلالۃ البنص کے طریقے پر خفین کے معنی میں داخل ہو، اور خفین کے معنی ایک ایسے موزے کے میں جنہوں نے پاؤں کو بالکل ڈھانپ رکھا ہوا ران میں سفر وغیرہ کے دوران مسلسل چلنا ممکن ہو۔“

لہذا فقیاء نے جور بین پر سع کے لئے جو شرائط مقرر کی ہیں، ان کی یہ تعبیر بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ حدیث میں سع علی الجبور بین کی اجازت مطلق تھی، اور انہوں نے اپنی طرف سے شرائط عائد کر کے اسے مقید کر دیا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اصولی اعتبار سے پاؤں دھونے کے فریضے کو چھوڑ کر سع کرنے کا حکم اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر احادیث متواترہ موجود نہ ہوں، خفین میں چونکہ ایسی احادیث موجود تھیں، اس لئے وہاں سع کی اجازت دیدی گئی، لیکن جور بین پر سع کسی ایسی حدیث سے بھی ثابت نہیں جو متفق علیہ طور پر صحیح ہو، لہذا ہنا پر سع کی اجازت نہیں دی جاسکتی تھی، الایہ کہ وہ جور بین خفین کی صفات کے حامل ہو کر خفین کے حکم میں بدلالۃ البنص داخل ہو جائیں، اور چونکہ صحابہؓ و تابعین سے ایسے ہی موزوں پر سع ثابت تھا، اس لئے یہ شریف فقیاء نے اسکی اجازت دی۔ اور ”خفین“ کی بنیادی صفات کو نہ کوہ تین شرائط کے ذریعہ بیان کر دیا۔ اور اس پر تمام ائمہ مجتہدین کا اجماع منعقد ہو گیا۔

جہاں تکب علامہ ابن حرسؓ یا علامہ ابن تیمیہؓ اور علامہ ابن قیمؓ کا تعلق ہے، ان کا مقام بلند اپنی جگہ ہے لیکن انہوں نے بہت سے مسائل میں جھسور امت سے الگ راہ اختیار کی ہے جسے امت نے بحیثیت مجموعی قبول نہیں کیا، بالخصوص اس مسئلے میں تو انہوں نے اپنے سلک پر کوئی دلیل بھی نہیں دی۔ لہذا پوری امت کے فقیاء، محدثین اور مجتہدین کے مقابلے میں صرف ان تین حضرات کی

رانے پر عمل کر کے پاؤں دھونے کے قرآنی حکم کو ترک کر دیا ایک تجھیں جسارت ہے اور اس "اجتہاد" کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ "اگر پاؤں پر کپڑا پیٹ کر بھی مسح کر لیا جائے تو اس پر بھی مسح جائز ہے۔" ساری امت کے تمام فقماء، تمام محدثین اور تمام مجتہدین کے بارے میں تو یہ الزام ہے کہ ان کے اس قول کا کوئی مانند نہیں، حالانکہ ان کے ناقابل انکار دلائل آپ چھپے دیکھے چکے ہیں اور دوسری طرف اپنا خود "اجتہاد" یہ ہے کہ بلا وجہ پاؤں پر کپڑا پیٹ کر اپر بھی مسح کیا جاسکتا ہے۔ کیا اس لایتنی حرکت کی خاطر پاؤں دھونے کے قرآنی حکم کو ترک کرنے کا بھی کوئی مانند ہے؟

آپ نے جناب سید ابوالاعلی مودودی صاحب کی جو عبارت نقل فرمائی ہے اس میں چونکہ جو توں پر مسح کرنے کا بھی ذکر ہے، اس لئے اسکی حقیقت بھی آخر میں مختصر اعرض ہے۔

جوریں اگر موٹے ہوں تو ان پر مسح کرنے کے تبعض فقماء قائل بھی ہیں، لیکن جو توں پر مسح کرنا تو کسی بھی امام کے مذہب میں جائز نہیں:-

"لَمْ يَذْهَبْ أَحَدْ مِنْ الائِمَّةِ إِلَى جُوازِ

المسح عَلَى النَّعْلَيْنِ

(حدائق السنن ص ۷۳۳ ج ۱)

امر میں سے کوئی بھی جو توں پر مسح کرنے کا قائل نہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو توں پر مسح کرتا اس وقت ثابت ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے باوضو ہوتے تھے، لیکن نئی نماز کے لئے تازہ وضو فرماتے تھے، ایسی حالت میں چونکہ وضو پہلے سے ہوتا تھا، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دھونے کے بجائے اپنے جو توں پر ہاتھ پھیر لیتے تھے، چنانچہ صحیح ابن حزمہ" میں روایت ہے:-

عن علی انه دعا بکوز من ماء ثم توضا
وضوء خفينا وسح على نعليه،
ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلی اللہ
علیہ وسلم للطاهر مالم يحدث.

(صحیح ابن حیۃ" میں ۱۰۰ ارج ۱۵۳ حد ۳۰۰)

"حضرت علی" نے پانی کا ایک گلاس منگوایا اور بت مختصر وضو کیا اور اپنے جو توں پر سح کیا، پھر فرمایا: طہارت کی حالت میں جب تک وضو نہ ٹوٹا ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس وضاحت کے بعد "جو توں پر سح" ثابت کرنے والی روایات سے ہے وضو آدمی کے لئے جو توں پر سح کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

المرا

اس کے تمام مستند فقماء و مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ باریک موزے جن سے پانی جاتا ہو، یادہ کسی چیز سے باندھ میں بغیر پہنچا پر کھڑے نہ رہتے ہوں، یا ان میں میں دو میل مسلسل چلانا ممکن نہ ہو، ان پر سح جائز نہیں ہے اور نہ جو توں پر سح درست ہے۔ اور چونکہ ہمارے زمانے میں جو سوتی، اولنی، ہائیلوں کے موزے رانج ہیں وہ باریک ہوتے ہیں اور ان میں مذکورہ اوصاف نہیں پائے جاتے، اس لئے ان پر سح کسی حال میں جائز نہیں ہے، اور جو غُصہ ایسا کرے

گا تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بلکہ کسی بھی محمدؐ کے سلک
میں اسکا وضو صحیح نہیں ہو گا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب

احقر مجرم تقدی عثمانی عنی عن

(بشكريہ ماہنامہ البلاغ، جادی الائی ۱۳۹۷ھ)



تا خیر کن کی وہ مقدار کیا ہے؟
جس سے بجدہ سہو واجب ہو

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مذہب

ضبط و ترتیب
محمد عبد اللہ سیمن

میمن اسلامک پبلیشرز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكُم مَّا يَعْصِي رَبَّكُمْ لَا يُضُرُّ كُمْ مِّنْ ضَلَالٍ إِذَا هُدَيْتُمْ
إِنَّ اللَّهَ مَوْلَانَا وَمَوْلَى أَهْلَ بَيْتِهِ وَمَوْلَى الْعَالَمِينَ
جَمِيعَ أَفْلَامِنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"
(سورة الْأَنْبَيْتُ، الآية ١٥)

اے ایمان والو! تم اپنے آپ کی خبر لو، اگر تم سید ہے راستے پر آگئے
(تم نے ہدایت حاصل کر لی۔ صحیح راستہ اختیار کر لیا) تو جلوگ گراہ ہیں۔
ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے
وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو۔

تاخیر کن کی وہ مقدار کیا ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہو؟

سوال:

منیۃ المصلی میں لکھا ہے کہ پہلی رکعت اور تیسرا رکعت میں محض بیٹھنے سے سجدہ سو لازم آتا ہے اور یہ عبارت ہے و یجب سجدة السهو بمجرد الجلوس اور صاحب مفتتاح الصلاوة نے ایک تبع کی مقدار بیٹھنے کی قید لگائی ہے۔ اور شامی نے لکھا ہے کہ مجرد جلوس موجب سو نہیں ہے بلکہ یقین بقدر جلس استراحت اگر سوا کوئی شخص جلد کرے تو سجدہ سو واجب نہیں کیونکہ یہ جلس استراحت کا اختلاف میں الشافعیہ والحنفیہ اختلاف فی السنیۃ و عدم السنیۃ ہے پس جس نے جلس استراحت کی مقدار جلد کیا اس نے سوا ترک سنت کیا اور سجدہ سو ترک واجب سے ہوتا ہے نہ ترک سنت سے۔ خود مجھے ایسا اتفاق آیک مرتبہ ہو گیا تو میں نے شامی کی رائے کو راجح سمجھ کر اس

پر عمل کر لیا تھا مگر پھر بھی اپنے جی کو اس مسئلہ میں پورا اطمینان نہیں ہے اس نے یہ معلوم کرتا ہے کہ اس مسئلہ میں حضور کی کیا تحقیق ہے۔

جواب از مولانا اشرف علی تھانوی رحمة اللہ علیہ

الجواب مجھ کو بھی مدت سے تردود ہے مگر عمل اس پر ہے کہ بمجرد

جلوس سجدہ سو کرتا ہوں لا لا نہ ترک السنۃ بل لان فیہ التاخیر فِ الْقِيَام۔ اور ایک تسبیح کی مقدار تو عادة جلوس ہو ہی جاتا ہے اس میں ذرا غور کیجئے ۲۰ ذی قعده ۱۳۳۳ھ (ابو الفتوح ج ۱ ص ۲۵۱)

تحقیق! از مولانا محمد تقی عثمانی مد ظالم

اقول و بالله آستین :- عبارات ذیل زیر بحث مسئلے میں قابل

غور ہیں :-

(۱) قال فی ملتقی الا بحر ويجب ان يرافق رکوع اوقعود او قدم رکنا او اخره او كرره او غيره او اجبا او ترکه كركوع قبل القراءة و تأخير القيام الى الثالثة بزيادة على التشهد، وقال شارحه العلامہ شیخ زادہ واختلافوای مقدار الزیادة فقال بعضهم بزيادة حرف وكلام المصٹب بشیرالی هذا وقال بعضهم بقدر رکن وهو الصیح کما فی اکثر الكتب (مجموع الانہر ص ۱۳۸ ج ۱)

(۲) وقال تحته شارحه العلامہ ابن عابدین بقدر رکن (باجواة المسطورة)

(۳) قال الا مام ظهير الدين المرغيني لا يجب بقوله اللهم صل على محمد واما المعتبر مقدار ما يودي فيه ركنا كذلك الظهيرية (برجندی شرح دنایہ ص ۱۴۷)

(۴) قال ابن البزار الكردري سهانی صلوته انها الظهر او العصر او غير ذلك ان تفكر قبل ما يودي فيه رکن كالرکوع لزم ان قليلا فان شك في صلوة صلواها الخ
(المباحث الوجيز على ما مشتمل من التدريب ص ۲۰۷)

ان تمام عبارات سے مشترک طور پر یہ نتیجہ لکھا ہے کہ تأخیر واجب کی مقدار اکثر فقهاء نے یہ قرار دی ہے کہ اتنی در تأخیر ہو جائے جس میں کوئی رکن مثلاً رکوع یا سجدہ وغیرہ ادا ہو سکے، اور وہ تین مرتبہ سچوان بینی العظیم کرنے کے وقت میں ہوتا ہے، به صرح الطحطاوی ” فی حاشیتہ علی المرافق حيث قال ولم يبينوا قدر الرکن وعلى قیاس ماتقدم ان يعتبر الرکن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبیحات (طحطاوی ص ۲۵۸)

اس قول کے علاوہ بھی بست سے اقوال ذکر کئے گئے ہیں جن میں سے یادو مرجوح ہیں یادہ ہیں کہ جن کامال یعنی نکلتا ہے۔

صاحب تنویر الابصار نے اس مسئلہ کو وجہ ذکر کیا ہے۔ اور بظاہر دونوں صنف معلوم ہوتا ہے، یا بحسب مصلوۃ میں ان کی معرفت ہے،
(فإن زاد عامتاً كره) فتعجب الأعادة (او ساہیا وجب عليه سجود السهو اذا قال اللهم صل على محمد) فقط (على المذهب) المفتى به لا الخصوص الصلوۃ بل لتأخير القيام (شامی ص ۲۷۷)

اس کے تحت علامہ شامی نے کئی اقوال نقل کر کے بحر زیلیعی، شرح منیہ بکری، وغیرہ سے اسی کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ رملی اور شرح منیہ صغری سے وعلی ال محمدی

زیادتی کا منع ہونا ذکر کیا ہے۔

اور باب بحود السهو میں صاحب تنویر فرماتے ہیں
(وتا خیر قیام الی الثالثة بزيادة على التشهد بقدر رکن)
اور صاحب درختار نے لکھا ہے و قيل بحرف وف الزيلعی الاصح
وجوبه باللهem صل علی محمد۔ علامہ ابن عابدین ” نے اس
تعارض کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا (قوله و الزيلعی الخ) جزم به
المصنف فی متنه فی فصل اذا اراد الشروع وقال انه السذهب
واختاره فی البحر. تبعا للخلاصة والخانية والظاهرانه لا ينافي
قول المصنف هنا بقدره کن تامل (شامہ ص ۲۹۲ ج ۱) جس سے معلوم ہوا
کہ اللهم صل علی محمد اور بقدره کن دونوں اقوال کا حاصل اور مال ایک ہی
نکل ہے، تو گویا جس جس نے اللهم صل علی محمد کو مقدار تاخیر قرار دیا
ہے اس نے بقدره کن کے قول کے پہنچ کی بات نہیں کی، وبا الفکر۔

رہی وہ عبارت جو منیۃ المصلى میں ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی یا تیسرا
رکعت کے آخر میں بیٹھ جائے تو مطلق بیٹھ جانے ہی سے سجدہ سو واجب ہو
جائے گا، خواہ مقدار رکن بیٹھا ہو یا نہیں۔ اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ جلس
استراحت سے سجدہ کو لازم آ جائیگا، (کبیری ص ۳۲۲) سواس بارہ میں تحقیق
وہ ہے جو درختار اور رالمحترم میں لکھی گئی و موندا:

(۱) قال العلامة الحصيفی فی واجبات
الصلوة و ترك قعود قبل ثانية او رابعة وكل زيادة تخلل بين
الفرضين۔ وقال الشامی تعتمد وكذا القعدة فی اخر الركعية
الا ولی الثالثة فيجب تركها ويلزم من فعلها ايضا

تأخير القيام الى الثانية او الرابعة عن محله وهذا اذا كانت التعددة

طويلة اما الجلسة الخفيفة التي استعجبها الشافعى ”

فتركتها غير واجب عند نابل هو الا فضل۔ (ثاني من ٢٣٨ ج ١)

(٢) قال في الدوالختار و يكير للتهوض على صدور
قد سبه بلا اعتناد و قعود استراحة ولو فعل لا باس، وقال الشامي ”
تحته قال شمس الانية الحلواني الغلاف في الا نفل حتى لو فعل
كما هو مذہبنا لا باس به عند الشافعى ولو فعل كما هو مذہبنا لا باس
به عندنا كذلك المحيط اه قال في الحلة والا شبه انه ستة
او سبعة عند عدم العذر وبكره فعله تبرأ بهالمن ليس به عذر اه
وتبه في البحر — اقول ولا ينافي هذا ماقدمه الشارح في
الواجبات حيث ذكر منها ترك قعود قبل ثانية ورابعة لا ان ذاك
محمول على القعود الطويل (روالدالختار من ٤٣٧ ج ١)

اصلیہ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ دورکھتوں کے درمیان جلس خفیف
عما جائز ہے اور شامی ”کی تصریح کے مطابق ترک قعود جو واجب ہے، وہ
قعود طویل ہے، قصیر نہیں۔ اور درایت کا مقتنص بھی یہی ہے کیونکہ یہ نفل
عما جائز ہے تو سہوا بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہئے، نیز چونکہ یہ
قول ”لقدر رکن“ کی تقدیر کے مطابق ہے اس لئے اسی کو ترجیح ہونا چاہئے۔ اور
جب اس درایت کے ساتھ شامی ”کی یہ روایت بھی مل گئی تو اس دعوے میں مزید
قوت پیدا ہو گئی اور خود علامہ ابراہیم حلی ”کی تصریح علامہ شامی“ نے نقل فرمائی
ہے کہ عن شرح المثلیہ انه لا ینبغی ان یسداگ عن الدراية ای
الدلیل اذا افتتها رواية۔

خلاصہ یہ کہ جو مقدار جلسہ استراحت کی شرائی کے بیان مسنون ہے اس مقدار
تک بیٹھنے سے بعدہ سولازم نہ آنا چاہئے۔

هذا ما بدلی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب

احترم حمد و تقدیم عثمانی غفران اللہ

بیکم حمدم الرام ۱۳۸۰

الجواب صحيح
بنده موسیٰ عزیز

الجواب صحيح
بنده کرشمہ لہر

رمضان میں نفل کی جماعت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ

ضبط و ترتیب
محمد عبد اللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

عرض ناشر

۱۹۵۹ء میں ایک صاحب " محمود حسن " نے رمضان المبارک میں نفل کی جماعت سے متعلق ایک استفقاء حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ارسال کیا تھا۔ اور استفقاء کے ساتھ اسی مسئلہ سے متعلق حضرت مولانا حسین احمد مدñی رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ جواب بھی ارسال کیا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استفقاء جواب کے لئے اپنے فائق اور لائق صاحبزادے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے پروردگاریا۔ جو اس وقت دورہ حدیث میں داخلہ لینے والے تھے۔ گویا کہ اس وقت ان کا ضابطے کا طالب علمانہ دور بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت مولانا مدظلہم نے اپنے والد محترم کے ایماء پر اس استفقاء کا تحقیقی جواب تحریر فرمایا۔ جو پیش خدمت ہے۔

رمضان میں نفل کی جماعت

الاستفتاء

در خدمت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة اللہ علیہ

س: حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبی "الجمعیۃ شیخ الاسلام نمبر" میں شائع ہوا ہے، جس میں رمضان میں تجدی کی نماز تدائی کے ساتھ بھی انفل ہونا درج ہے، اور حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ نے فتاویٰ رشیدیہ میں رمضان میں تجدی کی جماعت کو اگر بالتدابی ہو، مکروہ تحریکی بتایا ہے۔ اس کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قول مرجوح پر مبنی قرار دیا ہے، میں نے بہت سارے حضرات کو لکھا، کسی کے یہاں سے قیملہ کن جواب موصول نہیں ہوا، بجز حضرت والا کے اس وقت اس کے متعلق کہیں سے مجھے اس کی توقع بھی نہیں ہے، بڑے بڑے کام کے مفتی حضرات چل لے، مسئلہ زیر بحث بنت اہم ہے۔ اس کی وجہ سے ایک نیا باب بدعت کا کھل جانے کا اندازہ ہے، خود مجھے بھی تردد پیدا ہو گیا، یہاں گزشتہ رمضان میں پچاس ساتھ بھی بھی سو سے زائد آدمی تجدی کی نماز جماعت سے او اکرنے لگے، اس کا اہتمام ہونے لگا، میں نہ شریک ہوا، نہ کسی کو شریک ہونے کو کہا، نہ کسی کو منع کیا۔ البتہ اپنے احباب خود ہی دریافت کرتے تو ان سے کہہ دیتا تھا کہ فقماء تو مطلق طور پر تدائی کو نوافل میں مکروہ ہی لکھتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں سے کسی کا عمل بھی مجھے اس کے متعلق سننے میں نہیں

حضرت والا ذرا مفصل طور پر حضرت ملنی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کے
متعلق سمجھ تحریر فرمادیں۔ اگرچہ حضرت والا کو تکلیف ہو گئی، لیکن کیا کیا جائے،
کسی سے اطمینان بخش جواب نہیں ملا۔

حضرت مولانا حسین احمد ملنی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب مسلک ہے۔
کمترین بندہ محمود حسن عفی عن
کراچی۔

جواب از حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ

منقول از "بغض الاسلام فبر" صفحہ ۵۲ روزنامہ الجمعیة، دہلی

جواب سوال از بحافت نوافل در رمضان غیر ترافع۔ (منقول از مکتوبات
مخطوط)

"فتح القدر" ج اول، باب الاستقاء ص ۳۳۸ میں ہے۔

وقد صرخ الحاکمہ ایضاً باب صلوٰۃ الکسوف میں، الکاف بقولہ
”ویکرہ صلوٰۃ التطوع جماعتہ مانخلاً قیام رمضان وصلوٰۃ
الکسوف، وهذا خلاف ما ذكر شیخ الاسلام“

اور رد المحتار ج ۱ صفحہ ۵۲۳ پر ہے: ”قلت ویویدہ ایضاً میں
البدائع میں قوله اذ الجماعة ف التطوع لیست بسنة الا فی قیام
رمضان اہ، وفيه و النفل بالجماعۃ غیر مستحب، لأنہ لم یفعله
الصحابۃ فی غیر رمضان“ اہ۔

ذکورہ بالخصوص میں قیام رمضان کی تصریح فرمائی گئی ہے، اس کی تفصیل
ترافع کے ساتھ نہیں کی گئی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری شب
تک اور صحابہ کرام سے آخری شب تک نوافل با جماعت پڑھنا منقول ہے،
جیسا کہ موطا امام مالک میں بکثرت مردی ہے، اس لئے تمام وہ نوافل جو رمضان کی
راتوں میں پڑھے جائیں، خواہ ترافع ہوں، یا تتجدد، اوائل شب میں ہوں، یا واخر
شب میں، جماعت کی اجازت ہوگی۔

موطا امام مالک صفحہ ۱۱۱ میں ہے:

”قال محمد: وبهذا ناخذ، لا بأس بالصلة“

ف شیهر رمضان ان يصلی الناس بامام

تطوعاً، لأن المسلمين قد اجمعوا على

ذلك اه“

فتح الباري ج رابع صفحه ٢١٥ باب "فضل من قام رمضان" میں ہے

"ای قیام لیالیہ مصلیا، و المراد من قیام اللیل ما يحصل به مطلق القيام، كمیا قد مناه فی التهجد سواه کان قليلا او كثیرا، وذکر النحوی ان المراد بقام رمضان صلوة التراویح، يعني انه يحصل بها المطلوب من القيام، لأن قیام رمضان لا يكون الا بها، واغرب الكرسائی فقال :اتفقوا علىـ ان المراد بقیام رمضان صلوة التراویح اهـ قلت :قال انحوی المراد بقیام رمضان صلوة التراویح، ولكن اتفاق من این اخذہ بل المراد من قیام اللیل ما يحصل به يطلق القيام، سواه کان قليلا او كثیرا،اهـ وقال

العینی حج فی الجزء الاول صفحه ٢٨١ من کتاب الایمان من عدۃ القاری مانعہ، و يعني من قام رمضان من قام بالطاعة فی لیال رمضان ويقال یريد صلوة التراویح، وقال بعضهم، لا یختص ذلك بصلوة التراویح، بل فی ای وقت صلی تطوعا حصل له ذلك الفضل" اهـ

نصوص مذکورہ بالاسے مندرجہ ذیل امور معلوم ہوتے ہیں :

- (۱) ہر لفظ نماز کی جماعت مطلقًا مکروہ نہیں ہے۔ بلکہ اس سے کچھ مستثنیات بھی ہیں۔

(۲) مستثنیات میں لفظ قیام رمضان اور کوف کو ذکر کیا ہے۔
 (۳) امام محمد، اور حاکم اور صاحب بداع وغیرہ متقدیں نے (رحمہم اللہ تعالیٰ) لفظ قیام رمضان ذکر فرمایا ہے، جو کہ مخصوص بالترافق نہیں ہے۔
 (۴) قیام رمضان کو مخصوص بالترافق کرنا قول مرجوح ہے۔ جو کہ علامہ کرمانی اور علامہ نووی رحمہمہا اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اس کے خلاف حافظ ابن حجر عسقلانی اور امام عینی رحمہمہا اللہ تعالیٰ قیام رمضان سے تمام نوافل مراد لے رہے ہیں خواہ ترافق ہو یا تجد ہو، یا دیگر نوافل۔ اور امام نووی کے قول کو مول قرار دیتے ہوئے اپنے قول کی طرف لوٹاتے ہیں، اور کرمانی کے قول کو غریب اور مندوش فرمادیتے ہیں۔ اور یہی امر مدلول مطابقی بھی ہے۔

بانبریں فتاویٰ رشیدیہ کی تصریح جلد ثالث صفحہ ۵۶ اور جلد اول صفحہ ۳۹ جس میں مستثنیات کو محصر ترافق کے ساتھ کیا گیا ہے، قول مرجوح پر مبنی ہے، پس رمضان کی جملہ نوافل کی جماعت، خواہ بالتداعی ہو۔ یا بلا تداعی، سب ماذون فیہ بلکہ متحب ہونگی، اور "من قام رمضان" کے تحت کے تحت داخل ہوگی، اس پر نکیر کرنا غیر صحیح ہو گا، بلکہ جملہ طاعات، طواف نفل یا عمرہ نافلہ وغیرہ اسی میں محسوب اور مرغوب فیہ قرار دیتے جائیں گے۔ کما ذکر العینی رحمہ اللہ تعالیٰ۔

ہم نے حضرت قطب العالم حاجی امداد اللہ صاحب قدس اللہ سرہ العزز کا عمل بھی مکہ مععظمہ میں اسی پر پایا ہے۔ اور حضرت شیخ المند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ العزز کا بھی یہی معمول تھا۔ اور حرمن شریفین میں قدیم سے عمل سنت عشریہ وغیرہ کا جو کہ بالخصوص شوافع، اور چالیس رکعت کا عمل جو کہ موالک کا معمول بہ تھا، اور اہل مکہ کا قدیمی عمل ہر ترویج پر اس برع طواف کا اسی کا مسوید ہے۔ واللہ اعلم

نگ اسلام

حسین احمد غفرل

۱۹ / ذی الحجه ۷۲۱۴ھ دارالعلوم دیوبند

خط کا جواب از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کرم بندہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔

یہ معاملہ نفس مسئلہ کی حیثیت سے تو کچھ اہم نہ تھا، لیکن حضرت مولانا مفتی کے فوتو پر تنقید کی حیثیت سے اس کو اتنا مضمون بنا دیا کہ اس میں کافی بحث و تحقیق کے بغیر قلم اخانا مشکل تھا، رمضان میں مجھ سے بالکل یہ کام نہیں ہوتا، اس لئے اپنے چھوٹے لڑکے محمد تقیٰ سلمہ کو جو اس سال دوزہ حدیث میں شریک ہونے والا ہے، یہ مسئلہ حوالے کیا، خیال یہ تھا کہ اس کو مشق ہوگی، اور کتابوں کے حوالے یہ نکال کر پیش کر دے گا تو پھر میں کچھ لکھوں گا، مگر ماشاء اللہ یہ لڑکا ذہین ہے، اس لئے تمام کتابوں کے حوالے بھی بغیر میری کسی امداد کے نکالے۔ پھر ان کے اقتباسات لے کر خود ہی ایک تحریر لکھ دی، اب جو تحریر دیکھی تو میری نظر میں بالکل کافی و اُنیٰ تھی، اس لئے اسی پر تقدیم لکھ دی، وہ بیچ رہا ہوں۔

والسلام

بندہ محمد شفیع عطا اللہ عنہ

۱۳۷۸ / شوال

جواب حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مد ظالم العالی الجواب وهو الموفق للصواب

ترافق، استقاء اور کسوف کے علاوہ دوسری نفلوں کی جماعت اگر بالتداعی ہو تو برصورت مکروہ تحریکی ہے، خواہ وہ نظیں رمضان میں پڑھی جائیں، یا غیر رمضان میں، یعنی مسلک عام فقیاء و محدثین کا ہے، اور اسی پر سلف صالحین کافتوی اور تعامل رہا ہے۔

(۱) بدائع الصنائع میں ہے:

”اذا صلوا التراویح ثم ارادوا ان يصلوها
ثانياً يصلون فرادی لا بجماعۃ،
لان الثانية تطوع مطلق والتتطوع المطلقاً
بجماعۃ مکروہ۔“
(بدائع الصنائع ج ۱ ص ۲۹۰)

علامہ ابن نجیم ”فرماتے ہیں：“

”ولیو صلوا التراویح، ثم ارادوا ان يصلوها
ثانياً يصلون فرادی“ اہ
(ابن حجر العسکری راجح ج ۲ ص ۷۳)

نماوی عالمگیری میں ہے:

”ولو صلوا التراویح ثم ارادوا ان يصلوها
ثانياً يصلون فرادی“ کذای التمارخانیہ
(عالمگیری راجح ج ۱ ص ۱۲۳)

نماوی برازیہ میں ہے:

صلوا بجماعۃ، ثم ارادوا اعادتها بالجماعۃ يکرہ،
لان النفل بجماعۃ على التداعی يکرہ الا

بالنص "اہ-

(بنازیہ علی حامش الہندی، ج ۳ ص ۳۱)

مذکورہ الصدر نصوص سے معلوم ہوا کہ تراویح کا اعادہ جماعت کے ساتھ جائز نہیں، اور بدائع و فتاوی بنازیہ میں اس کی علت کی تقریب بھی فرمادی گئی کہ دوسری مرتبہ پڑھی جانے والی تراویح نقل مطلق (یعنی وہ نقل جس کے اندر جماعت کی نص نہیں ملتی) ہو جائے گی، اور نقل مطلق جماعت کے ساتھ مکروہ (تحریکی) ہے، تو معلوم ہوا کہ حضرات فقہاء "کے نزدیک نقل کی جماعت (علی التداعی) بھر صورت مکروہ ہے۔ خواہ رمضان میں ہو۔ یا غیر رمضان میں۔ کیونکہ اگر رمضان کی نظیں علی الاطلاق اس حکم سے مستثنی ہوتیں تو تراویح کا اعادہ جماعت کے ساتھ ناجائز ہوتا، کما ہو ظاہر۔

(۲) علامہ طاہر بن عبدالرشید بخاری "خلاصۃ الفتاوی" میں تحریر فرماتے ہیں:

"ولوزاد علی العشرين بالجماعة يكره عندنا"

بناء على أن صلوة التطوع

بالجماعة مکروہ"

(خلاصۃ الفتاوی، ج ۱ ص ۶۳)

اگر رمضان کی نظیں جماعت کے ساتھ علی الاطلاق جائز ہوتیں تو میں بے زیادہ رکعتیں بالجماعہ مکروہ نہ ہوتیں۔

(۳) در مختار میں ہے:-

و لا يصل الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان ای یکرہ ذلک لو

على سبيل التداعی بان يقتدى اربعة بواحد، کماي الدرر"

(شانی ج ۱ ص ۶۶۳)

علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

والنفل بالجماعۃ غیر مستحب، لانه لم تفعله

(رواہ الحتاریج اص ۲۶۳)

علامہ کاسانی "تحریر فرماتے ہیں :-"

الجماعۃ فی التطوع لیست بسنة الای قیام
رمضان وفی الفرض واجبة او سنۃ سوکدۃ"
(بدائع الصنائع ج ۱ ص ۲۹۸)

محقق ابن حام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

وقد صرخ الحاکم ایضا فی باب صلوة
الکسوف من الکافی بقوله "ویکره صلوة
التطوع جماعة مداخلا قیام رمضان و صلاة
الکسوف" (فتح التدیریج اص ۳۳۸)

نصوص مذکورہ بالامین صلوة النفل بالجماعۃ کی کراہت کے حکم سے قیام رمضان کو
متین کیا گیا، اور تراویح کے بجائے قیام رمضان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس
کے عموم سے شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم صرف غیر رمضان کے لئے مخصوص ہے،
لیکن دراصل یہ قیام رمضان کا لفظ (عرف فقہاء کے اعتبار سے بالخصوص مسئلہ
جماعت میں) عام نہیں، بلکہ تراویح کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسا کہ انشاء اللہ ہم
عنقریب بالتفصیل بیان کریں گے، واللہ الموفق۔

(۲) حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب "شرح موطا میں فرماتے
ہیں کہ :-

قال الزرقانی رحمہ اللہ ظاہرہ (ای حدیث
افضل الصلوة صلوتکم فی بیوتکم الا
السکتبة) یشمل کل نفل، لکنہ عمول علی
مالا یشرع له التجییع کا التراویح والعیدین، اہ
(اویز المسالک ج ۲ ص ۷)

حضرت الشیخ مولانا خلیل احمد سانپوری "شرح ابو داؤد میں لکھتے ہیں:

فان خیر صلاة المرء وهذا عام لجميع النوافل والسنة الا النوافل
التي من شعائر الاسلام كالعيدين والكسوف والاستسقاء، قلت:
وهذا يدل على ان صلوة التراويح في البيت افضل، والجواب عن
الذين قالوا بافضليتها من المسجد جماعة ان رسول الله صلى الله عليه
 وسلم قال ذلك لخوف الافتراض، فإذا زال الخوف بوفاته عليه السلام ارتفع
 المانع، وصار فعله في المسجد افضل، فاشبه صلاة العيد"

(بذل الجهود ج ۲ ص ۳۳۶)

ان نصوص میں لفظ تراویح استعمال کیا گیا ہے۔ قیام رمضان نہیں کہ اس کے عموم
 سے عموم حکم کا شبہ ہو۔

(۵) عنایہ شرح هدایہ میں ہے:-

(فصل بی قیام شهر رمضان) ذکر
التراویح فی فصل علی حدۃ لا ختصاصها بـ مالیس
لمطلق النوافل "

(عتابہ علی ہاشم الشعجی ج ۱ ص ۳۳۳)

البخاری میں ہے:-

(تحت قول الکنز "و سن بی رمضان
عشرون رکعت" الخ) بیان لصلة
التراویح، و امام بذکر هامع السنن الموکدة قبل
النوافل المطلقة لکثرة شعبها ولا ختص
صها بعکم من بین سائر السنن و النوافل
وهو الاداء بجماعۃ"

(ابخاری ج ۱ ص ۲۷)

اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا جماعت سے ادا کیا جاتا تمام سنن و نوافل کے مقابلے میں اس کی خصوصیت ہے۔

(۶) فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

ویستحب اداء ها (ای التراویح)
بالجماعۃ، وقال مالک حج و البشافعی حج فی القديم:
الانفراد افضل کسانر السن، انتہی - وفيه بعد
ذلک - والصحیح ان اداء ها بالجماعۃ فی
المسجد افضل، لأن فیه تکثیر للجماعۃ، وكذلک
فی المكتوبات

(غایی علی حامش الہندیہ ج ۱ ص ۲۱۳)

پہلی نص میں اشارہ فرمادیا گیا کہ تراویح اور چند اور منصوص سنن کے علاوہ تمام سنن میں ہم بھی شوافع و غیر ہم کے قدیمی قول سے متفق ہیں کہ اس میں انفراد افضل ہے۔ دوسری نص میں فرمایا گیا کہ تراویح اس حکم میں مکتوبات کی شریک ہے، اگر رمضان کی بقیہ نفلوں میں بھی جماعت جائز ہوتی تو تصریح کر دی جاتی۔

(۷) حضرت مولانا رشید احمد گنلو ہمی قدس اللہ سره العزیز تحریر فرماتے ہیں:
”جماعت نوافل کی سوائے ان مواقع کے کہ حدیث سے ثابت ہیں، مکرہ تحریر ہے، فتنہ میں لکھا ہے کہ اگر تداعی ہو، اور مراد تداعی سے چار آدی کا ہوتا ہے، پس جماعت صلوٰۃ کسوف، استقاء، تراویح کی درست اور باقی سب مکروہ ہیں،
کذافی کتب الفقه“

(فتاویٰ رشیدیہ ص ۲۸۹)

حضرت حکیم الامم مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ شہید کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”مثلاً اگر تراویح کے بعد یہ عمل ہو تو نفل کی جماعت مجمع کثیر کے ساتھ ہونا، جو کہ مکروہ ہے“

(امداد الفتاویٰ ص ۳۰۰ ج ۱)

ان حضرات نے بالکل تصریح اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا کہ نفل کی جماعت (تراویح کے سوا) رمضان میں بھی اسی طرح ناجائز ہے جس طرح غیر رمضان

میں۔

(۸) ان روایات کے علاوہ درایت بھی اس کی مقتضی ہے کہ نفل با جماعت رمضان میں بھی جائز نہ ہو، اس لئے کہ تراویح کی جماعت خلاف قیاس ہے کیونکہ تراویح نسلوں میں سے ہے۔ اور تطوعات میں اخفاء مطلوب ہے۔ برخلاف فرائض کے۔ اسی لئے تطوعات کو نہ صرف بلا جماعت، بلکہ گمراہ میں پڑھنا افضل ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:

صلوة المرء في بيته افضل من صلوته في
مسجدى هذا الا المكتوبة“

تو بابت ہوا کہ تراویح کی جماعت خلاف قیاس ہے۔ اور یہ اصول کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ ”امر خلاف قیاس اپنے مورد پر محصر رہتا ہے“ اس پر قیاس کر کے کسی دوسرے سلسلے کو اسی کے حکم میں کر دینا جائز نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نوافل میں جماعت کا مورد کیا کیا ہیں؟ نوافل میں جماعت کا مورد صلوٰۃ الکسوف، صلاة الاستقاء اور صلوٰۃ العیدین (علی قول من عد حامن النوافل) اور صلوٰۃ التراویح ہیں، رمضان کی کسی اور نفل مثلاً تجد وغیرہ میں کہیں کسی سے جماعت منقول نہیں۔ البتہ ایک دو روایتیں اس قسم کی ملتی ہیں۔ لیکن وہاں پر جماعت لا علی سبیل النداعی ہے۔ جو بااتفاق بہم صورت جائز ہے، مثلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ مشہور واقعہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجد میں مشغول تھے، تو میں آپ کے بائیں پہلو میں

جاکر کہ اہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (ایک روایت کے مطابق ہاتھ سے) پکڑ کر دائیں جانب گھما دیا، اس میں مقتدی صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ مولانا انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہ العزیز کی تقریر ترمذی میں ہے کہ:

”وَبَيْنَ التِّرَاوِيْحِ وَالْتَّهَجُّدِ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ فِي الرَّكَعَاتِ، بَلْ فِي الْوَقْتِ وَ
الصَّفَةِ إِذَا التِّرَاوِيْحُ تَكُونُ بِالْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ،
بِخَلَافِ التَّهَجُّدِ“

(العرف الشذی م ۲۳۰ ج ۱)

اور حضرت مولانا شید اخہ صاحب گنگوہی رحمة اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں
”اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجد کو یہیش منفردًا
پڑھتے تھے، کبھی بہ تداعی جماعت نہیں فرمائی، اگر کوئی شخص
اکٹرا ہوا تو مضائقہ نہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما خود ایک دفعہ آپ کے پیچے جا کھڑے
ہوئے تھے، بخلاف تراجم کے کہ اس کو چند بار تداعی کے ساتھ
جماعت کر کے ادا کیا۔“

(تفاوی رشیدیہ م ۳۰۷)

جب یہ معلوم ہو گیا کہ نقل کی جماعت صرف تراجم، کسوف، استثناء اور عیدین
میں مشروع ہے تو بحکم مقدمہ ثانیہ دوسری نوافل مثلاً تجد وغیرہ میں اس
حکم کو متعدد نہ کیا جائے گا، کیونکہ اس میں جماعت منقول و ماثور نہیں۔ لذا
منصوصہ نوافل کے علاوہ تمام نوافل میں خواہ وہ رمضان میں ہوں، یا غیر رمضان
میں، جماعت بالتداعی کروہ تحریکی ہو گی۔

قیام رمضان کی تحقیق

حضرت شیخ مولانا عینی رحمة اللہ علیہ نے اپنے استدلال میں وہ نصوص پیش فرمائی ہیں، جو نمبر ۳ میں اوپر گزدیں، اور اس کے علاوہ موطا امام مالک کی ایک عبارت پیش فرمائی ہے۔ ان سب میں مستثنیات میں ”قیام رمضان“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد علامہ عینی اور علامہ عقلانی کی عبارتیں پیش کی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیام رمضان سے مراد صرف تراویح نہیں، بلکہ ”ما یہ حصل بِ الْقِيَامِ“ مطلقاً مراد ہے، اور پھر نتیجہ دونوں کو ملا کر یہ نکالا ہے کہ فقماء نے قیام رمضان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور عینی و عقلانی کی عبارتوں سے اس کا عموم معلوم ہوتا ہے، لہذا رمضان کی شریعت میں جماعت جائز ہے۔ لیکن قیام رمضان کا لفظ لغوی اعتبار سے تو پیشک عام ہے، مگر عرف عام فقماء اور عام محدثین کا یہ ہے کہ اس کو صرف تراویح میں خاص کرتے ہیں۔ اور تراویح کے بجائے قیام رمضان کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ ہدایہ کی شرح میں علامہ بابری^۱ نے یہ نقل کی ہے:

”وترجمہ بقیام رمضان اتباعاً
للنظر العدیث قال صلی اللہ علیہ وسلم :ان الله
تعالیٰ فرض عليکم صیامہ و سنتت لكم قیامہ“
(عثایہ علی حاشیۃ المسنون ج ۱)

(۱) فقماء رحمہم اللہ کے اس قول کا مطلب (کہ قیام رمضان کے علاوہ دوسرے نوافل کی جماعت مکروہ ہے) عمدۃ القاری اور فتح الباری سے اخذ کرنے کے بجائے بہتر اور انسب یہ ہے کہ خود فقماء کی عبارتوں سے اخذ کیا جائے، جو مسئلہ زیر بحث میں نفس کا درج رکھتی ہیں۔ بخلاف عمدۃ القاری اور فتح الباری کے، کہ ان کے پیش نظر اس مقام میں جماعت کی بحث نہیں، بلکہ حدیث ”من قام رمضان ایمانا“ کی تشرع ہے، اس لئے ہم یہاں فقماء کی چند وہ عبارتیں

پیش کرتے ہیں، جو مسئلہ جماعت میں نص ہیں۔ اور جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک مسئلہ جماعت میں قیام رمضان سے مراد تراویح ہی ہے:

(الف) علامہ مرغینانی نے ہدایہ میں "فصل فی التراویح" کی جگہ "فصل فی قیام رمضان" کا عنوان لگا کر تراویح کے سائل ذکر فرمائے ہیں، اور شرمن حدا یہ مثلاً محقق ابن حام نے اس عنوان کے تحت قیام رمضان کی تشریح کرنے کے بجائے تراویح کی تفسیر شروع کر دی:

(فصل فی قیام رمضان) التراویح جمع
ترویحة" (فتح التدریس ج ۳۲۲ ص ۱)

اور علامہ بابری نے یہی عنوان لگا کر تراویح کو سنن و نوافل سے مبعدہ ذکر کرنے کی وجہ بیان کرنی شروع کر دی۔ (جیسا کہ اوپر نمبر ۵ میں گزرا)

(عنایہ بحوالہ مذکور)

(ب) ملک العبداء علامہ کاسانی نے بدائع میں جہاں قیام رمضان کا لفظ استعمال کیا ہے، وہیں آگے چل کر دلالۃ اس کی تشریح فرمادی ہے۔ کہ مراد تراویح ہے، آپ نے فرائض و نوافل کے درمیان مابین الفرق امتیازات کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:-

و منها إن الجماعة في التطوع ليست
بسنة إلا في قيام رمضان، وفي الفرض واجبة
او سنة موكدة"

پھر دونی سطروں کے بعد اس فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:-

و اما عرفنا الجماعة سنة في التراویح
بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع
الصحابة"

(بدائع الصنائع ج ۱ ص ۲۹۸)

اس کے علاوہ وہ مسئلہ کہ ترافق کا اعادہ جماعت کے ساتھ ناجائز ہے۔ اس سے بھی ثابت یہ ہوتا ہے کہ صاحب بدائع نے قیام رمضان سے مراد ترافق لی ہے، اور جماعت نفل کو رمضان وغیر رمضان دونوں میں ناجائز قرار دیتے ہیں، وہ وظاہر۔

(ج) علامہ شمس الائمه سرخسی ”فرماتے ہیں:-

الفصل الخامس فی کیفیۃ النیۃ و
الختلفوا فیها، و الصحیح ان ینوی
”التراویح او قیام اللیل“

(مبسوط للسرخسی م ۱۳۵ ج ۲)

(د) فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

”ان بنوی التراویح او سنۃ الوقت او قیام
اللیل فی رمضان جاز“

(غاییہ علی حامش عالمگیریہ م ۲۲۶ ج ۱)

کوی قیام اللیل فی رمضان اور ترافق دونوں ہم معنی لفظ ہیں، ترافق کی نیت کرتے وقت ترافق کا لفظ استعمال کرلو، یا قیام رمضان کا، برابر ہے۔

(جواب نمبر ۲) احادیث و آثار میں بھی جماں قیام رمضان کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر اس سے ترافق ہی مراد لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں

مثال: (الف) عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ

قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فی آخر یوم من شعبان، فقال : يَا ایها

الناس، قد اظلکم شهر عظیم شهر مبارک،

شهر فیه لیلة خیر من الف شهر، جعل اللہ

صیامہ فریضة و قیامہ تطوعاً“

اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ :- "افترض اللہ علیکم صیامہ و سنت لكم قیامہ" یہاں پر "قیام" سے مراد تراویح کے علاوہ کچھ اور ہوئی نہیں سکتا، کیونکہ قیام سے اگر تجد مراد لیا جائے گا، تو "قیامہ طفوہا" کا یہ جملہ بیکار ہو جائے گا، اس لئے کہ تجد کے طفوع ہونے میں رمضان کی کیا تخصیص ہے؟ وہ تو غیر رمضان میں بھی طفوع ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں "قیام" سے مراد تراویح ہی ہے، اور اس "قیام" سے تراویح ہی مراد لینے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ فقیاء رحمہم اللہ اس حدیث کو تراویح کے اثبات میں نقل فرماتے ہیں۔ (کافی الفتح ص ۳۲۳ ج ۱، والبزادی ص ۳۱، و مراتی الفلاح علی حامش الطھطاوی علی المراتی، ص ۳۲۳)

(ب) "عن السائب بن يزيد الصحابي

قال : كانوا يقسمون على عهد عمر رضي

الله عنه بعشرين ركعة و على عهد عثمان

وعلى رضي الله عنهمما مثله" (عدمة القاري بحوالہ بیہقی ص ۲۶۷ ج ۵)

اس حدیث کا سیاق و سابق واضح طور پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں قیام سے مراد تراویح ہے، اور حنفیہ رحمہم اللہ اس حدیث کو تراویح کی بیس رکعت ہونے پر انتدال میں پیش کرتے ہیں۔ (کافی العدۃ)

(۳) عام طور پر شرح حدیث بھی قیام رمضان سے مراد تراویح ہی لیتے ہیں چنانچہ :

(الف) صحیح مسلم میں اس طرح عنوان قائم فرمایا گیا ہے :- (اگرچہ تراجم امام مسلم کے قائم کردہ نہیں ہیں، تاہم یہ تراجم مستند محدثین نے لگائے ہیں)

"باب الترغیب فی قیام رمضان

وهو التراویح" (صحیح مسلم ص ۲۵۹ ج ۱)

(ب) حضرت شیخ مولانا انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہ العزز تقریر ترمذی میں لکھتے

”باب ماجاء فی قیام شہر رمضان ای

الترواوح“ (العرف الشذی ص ۳۲۹ ج ۱)

(ج) حضرت شیخ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمة اللہ علیہ تقریر ترمذی میں نص فرماتے ہیں:

باب فی قیام شہر رمضان، هذا القیام

کان عاماً ثم اختص بالترواوح،

فمطلقه يراد به الترواوح“

(اللوكب الدری ص ۳۷ ج ۱)

(د) موطا امام محمدؐ کی وہ عبارت جو مولانا مدنی رحمة اللہ علیہ کے جواب میں تحریر کی گئی ہے۔ اس کے سیاق و سبق سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں پر جو امام محمدؐ نے قیام شہر رمضان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد تراویح ہی ہے۔ عبارت یہ ہے:

”قال محمد: و بهذا كله ناخذ، لباس

بالصلوة فی شهر رمضان ان يصلی الناس

تطوعاً بامام، لان المسلمين قد و

اجمعوا على ذلك“

اس مسئلہ کی جو دلیل پیش کی گئی ہے (یعنی مسلمانوں کا جماع) وہ صرف تراویح ہی

پر صادق آتی ہے۔ غیر تراویح پر نہیں، کیونکہ غیر تراویح میں جماعت پر جماع

تو درستار، اس کا نفس ثبوت ہی منقول نہیں، اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ادار مبارکہ میں کہیں غیر

تراویح ہیں بالند اعی جماعت نقل کا ثبوت نہیں ملتا۔

بہر کیف! ان تمام نصوص سے جو ہم نے اس سلسلے میں اب تک پیش کیں، کم از کم اتنی بات تو ہر صورت ثابت ہو جاتی ہے کہ جہاں فقہاء وغیرہ نے قیام رمضان کو کراحت، جماعت سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، وہاں پر تراویح ہی مراد لیا ہے۔ اگرچہ نفسہ ”قیام رمضان“ کا لفظ جو حدیث ”من قام رمضان ایخ“ میں مذکور ہے۔ وہ ہر نماز اور فعل طاعت کو عام اور شامل ہے۔

مسئلہ زیر بحث اور علامہ عینی

مندرجہ بالا عبارتیں وغیرہ تو اس بارے میں تھیں کہ ”قیام اللیل فی رمضان“ جس میں جماعت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس سے مراد تراویح ہی ہے، لیکن چند شرح حدیث نے قیام رمضان کو عام قرار دیا، جیسا کہ شارح بخاری علامہ بدرا الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جن کی عبارت کا حوالہ حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ بدرا الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ قیام اللیل فی رمضان یا میں ہے۔ تراویح وغیرہ تراویح سب کو، ”ما یحصل به القیام مطلقاً“ کے تحت قیام رمضان میں داخل مانا جائے گا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تووضات کے ساتھ یہ بات سامنے آجائے گی کہ علامہ بدرا الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول حدیث ”من قام رمضان ایمانا و احسانا غفرله“ کی تشرع کے تحت آیا ہے، اس لئے اس کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان پر جو ثواب اس حدیث میں موجود ہے، وہ صرف تراویح ہی پر نہیں۔ بلکہ مطلق ہر نماز پر جو رمضان کی رات میں ادا کی جائے، ثواب حاصل ہو گا، اس جگہ اس بحث سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ جماعت سے ادا کی جائے، یا بلا جماعت۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ جماعت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اس مسئلہ کا ذکر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ”باب صلوٰۃ اللیل“ میں کیا ہے، اس میں ان کی عبارت یہ ہے۔

(حدیث : ”صلوا ایها الناس فی بیوتکم، فان افضل الصلوة
صلوة المرء فی بیته“ کے تحت فرماتے ہیں) :

و استثنی من عموم الحديث عدۃ من
النواقل فعلها فی غير البيت اکمل، وہی
ماتشرع فیها الجماعة، كالعیدین،
والاستسقاء، والکسوف،
پھر چند طروں کے بعد فرماتے ہیں :

”قال الامام حمید الدين الفریر :
نفس التراویح سنة، اما اداء ها
بالجماعۃ فمستحب“

پھر ایک طریکے بعد ہے :

وی جوامع الفقه : التراویح سنة موکدة،
والجماعۃ فیها واجبة، وی الروضۃ لا صحابنا ان
الجماعۃ فضیلۃ، وی الذخیرۃ لا صحابنا عن اکثر
المشايخ ان اقامتها بالجماعۃ سنة علی الكفاية“
(محدث القاری، ص ۳۷۴ ج ۵)

خلاصہ یہ ہے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جماں قیام رمضان
کے عموم کو ذکر کیا ہے۔ وہاں مسئلہ جماعت ذکر نہیں کیا۔ اور جماں مسئلہ
جماعت بیان فرمایا ہے۔ وہاں مستثنیات میں قیام رمضان کو ذکر نہیں کیا، بلکہ
بلفظ تراقیع ذکر فرمایا ہے۔ لہذا ان کے قول سے کہ قیام شہر رمضان کا لفظ
عام ہے، تراقیع کے سوا دوسری نواقل رمضان کی جماعت جائز ہونے پر استدلال غیر
صحیح ہے،

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس بحث میں درحقیقت فقیماء علیم الرحمة میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے نزدیک جماعت صرف تراویح کی جائز ہے، البتہ کلام اس میں ہے کہ حدیث "من قام رمضان ایماناً میں جو فضیلت موجود ہے۔ وہ صرف تراویح کے لئے مخصوص ہے، یا مطلق صلوٰۃ پر وہ فضیلت حاصل ہوگی؟ اس میں علامہ عین رحمة اللہ علیہ نے عموم کا قول اختیار فرمایا ہے۔ اور علامہ نووی اور علامہ کرمانی رحمہما اللہ نے دوسرا (علی ما ذکرہ العینی") اس تفصیل سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمة اللہ علیہ جو جماعت دیوبند میں ابوحنیفہ عصر کا قلب رکھتے تھے، ان کا فتوی جسمور علماء و فقیماء کی تحقیق کے عین مطابق ہے، اس کو قول مرجوح پر عمل قرار دنا فرض عاجز سے بالا تر ہے۔ رہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب صهاجر کی اور حضرت شیخ النند مولانا محمود الحسن قدس اللہ سره العزیز کا عمل، تو حضرت حاجی صاحب رحمة اللہ علیہ کا عمل تو معلوم نہیں، البتہ حضرت شیخ النند" کے متعلق اتنی بات یقین کے درجہ میں معلوم ہے کہ آپ نے شروع میں تجدیکی جماعت لا علی سبیل التداعی ایک دو افراد کے ساتھ کی ہے۔ لیکن بعد میں جب لوگ زیادہ آنے لگے تو اسی کراحت کی وجہ سے آپ نے ساری رات تراویح کا معمول بنایا تھا، عموماً آٹھ دس پارے تراویح میں جماعت سے پڑھے جاتے تھے، اور تراویح ہی سحری کے وقت ختم کی جاتی تھی، جس کے شاہد دیوبند میں آج بھی سیکڑوں حضرات ہوں گے۔ واللہ اعلم بحقيقة الحال۔

ایک ضروری گزارش

آخر میں یہ گزارش ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد منی قدس اللہ سره العزیز کی عظمت شان، جلالت قدر اور علی تبرکے پیش نظر تو اس مسئلہ پر قلم اٹھانے کی جرات کسی بڑے عالم کو بھی نہیں ہوئی چاہئے، چہ جائیکہ مجھ بسی اطفال

کتب اس پر کچھ لکھے۔ لیکن الحمد للہ جماعت دیوبند کی خصوصیت اور انہیں بزرگوں کی تعلیم و تلقین نے ہمیں یہ صراط مستقیم دکھائی کہ مسائل شرعیہ میں آزادانہ اظہار رائے ترک ادب نہیں، بلکہ شاگردوں کا اظہار خیال اپنی بزرگوں کا معنوی فیض ہوتا ہے۔ اس لئے ہمام خد تعالیٰ جو کچھ اس میں تحقیق سے مجھے واضح ہوا وہ لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ بزرگوں کی شان میں ارنی ترک ادب بے بھی مجھے حفظ رکھیں، آئیں۔

اللهم ارنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه، وارنا
الباطل باطلًا و ارزقنا اجتنابه، و اخر دعوانا ان
الحمد لله رب العالمين۔

احقر العباد

محمد تقی عثمانی عفی عن

متعلم دارالعلوم کراچی نمبرا

۳۔ / شوال ۱۴۳۷ھ / ۱۳ اپریل ۱۹۵۹ء

للہ در العجیب حیث اصاب فيما اجابت و اجاد فيما افاد، مع
ملاختہ ادب الاکابر، و فقه اللہ تعالیٰ لما یحب و یرضی

بنده محمد شفیع عفی اللہ عنہ

صدر دارالعلوم کراچی نمبرا

بنکوں اور مالیاتی اداروں سے

زکوٰۃ کا مسئلہ

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ



ضبط و ترتیب
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

فِي الْكُوْنِ الْفُتُّالِقِ
شَيْسِيْمَهْجَبْسِيْشْقَوْ
سَلْقَوْدَرْدِيْونْوْشْبَوْ
وْمَنْشِيْمَهْجَبْسِيْشْقَوْ
مِنْحَلْفَثَلْقَادِرْ

فہرست مضمایں

صفحہ

مضمایں

۱۔	بنکوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم	۶۲
۲۔	نصاب زکوٰۃ	۶۵
۳۔	سال گزرنے کا مسئلہ	۶۷
۴۔	قرضوں کا مسئلہ	۶۸
۵۔	اموال ظاہرہ و باطنہ	۶۹
۶۔	زکوٰۃ کی نیت کا مسئلہ	۷۲
۷۔	بنک اکاؤنٹس کے قرض ہونے کی جیشیت	۷۵
۸۔	محاط طریقہ	۷۶
۹۔	سودی اکاؤنٹس اور زکوٰۃ	۷۷
۱۰۔	ترکے کامال	۷۸
۱۱۔	کپنیاں اور شیئرز	۷۸
۱۲۔	نابالغ کی زکوٰۃ	۷۹
۱۳۔	عشر بصورت نقد	۷۹
۱۴۔	چوتھائی پیداوار کا عشر سے استثنائی	۷۹

۸۰	تاریخ زکوٰۃ ۱۵
۸۰	قیمتی پھروں اور مچھلیوں کی زکوٰۃ ۱۶
۸۱	مصاف زکوٰۃ ۱۷
۸۵	تصدیقات ۱۹

اللہ

عرض ناشر

جس زمانے میں حکومت نے زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کے نفاذ کا اعلان کیا تھا، اور اس آرڈیننس اور مالیاتی اداروں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، اس پر غور کرنے کے لئے مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کے تین اجلاس ہوئے جن میں:

❖ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب[ؒ]۔ مفتی و مہتمم دار الافتاء والا ارشاد ناظم آباد کراچی،

❖ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب[ؒ]۔ مفتی جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ناؤں کراچی،

❖ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ مفتی دارالعلوم کراچی،

❖ حضرت مولانا ذاکر عبد الرزاق اسکندر صاحب۔ استاذ و ناظم تعلیمات جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ناؤں کراچی۔

❖ حضرت مولانا مفتی سجان محمود صاحب۔ مفتی و شیخ الحدیث دارالعلوم کراچی ۱۳

❖ حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف صاحب۔ معین مفتی دارالعلوم کراچی ۱۳

مجلس کی طرف سے جو متفقہ تحریر تیار کی گئی تھی وہ پیش خدمت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"اَنَّ الَّذِينَ يُكْسِبُونَ الْاَتِمَ سَيَعْزُزُونَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ" (الْمُرْدَلُ ١٣)

یعنی: جو لوگوں کا ارتکاب کر کے ہیں، فیکار کر کر دو،
ان کے ان اعمال کی مزادی جائے گی جو وہ لوگ پر یہاں پر یہاں کر کر تھے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکومت کا

بینکوں اور مالیاتی اداروں سے
زکوٰۃ وصول کرنے کا شرعی حکم

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَنِی
اما بعد !

حکومتِ پاکستان نے سرکاری سطح پر زکوٰۃ اور عشرتی وصولی اور تقسیم کے لئے ایک آرڈننس تافذ کیا ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں پر واجب الاداء زکوٰۃ کا ایک حصہ حکومت وصول کر کے اس کی تقسیم کا انتظام کرے گی۔
زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا انتظام اسلامی حکومت کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اور اگر حکومت یہ انتظام ٹھیک ٹھیک شرعی احکام کے مطابق قائم کرنے

میں کامیاب ہو جائے تو یہ نفاذِ شریعت کی طرف ایک نہایت مُبْتَدٰ تدم ہو گا اور انشاء اللہ اس ملک کے مسلمان اس کی دینیوی اور اُخْرَوی برکات سے بہرہ ور ہو سکیں گے، لیکن اس نظام کو سرکاری سطح پر جاری کرتے وقت حکومت کو یہ بات پوری طرح ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ نظام زکوٰۃ کا نفاذ اسلامی معیشت کے قیام کے لئے جتنا ضروری اور اہم ہے اُتنا ہی نازک اور توجہ طلب بھی ہے۔ زکوٰۃ دوسرے محاصل یا نیکوں کی طرح کوئی نیکس نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے جو اسلام کے پانچ اركان میں سے ایک اہم رُکن قرار دی گئی ہے۔ لہذا اس میں عبادت اور اطاعت خداوندی کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

حکومت زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا انتظام اپنے ذمے لے کر ایک ایسی گراف بار اور نازک ذمہ داری اپنے سر لے رہی ہے جو اس کے دینی جذبے، اس کے اخلاص اور اس کے حُسن انتظام کے لئے ایک زبردست آزمائش اور امتحان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں حکومت کو ایک طرف تو اس بات کا پورا لحاظ رکھنا ہو گا کہ کسی مسلمان کے ساتھ زکوٰۃ کی وصولی میں کوئی ناقصانی نہ ہونے پائے، اور جتنی رقم اس کے ذمے شرعاً واجب الاداء ہے اس سے ایک پائی بھی زائد وصول نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

﴿الْمُغَدِّيٌ فِي الصَّدَقَةِ كَمَا يَعْهَا﴾

”یعنی زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا ایسا ہی گنہگار ہے جیسے زکوٰۃ ادائے کرنے والا۔“

اور دوسری طرف اس بات پر کڑی نظر رکھنی ہو گی کہ زکوٰۃ سے حاصل ہو نے والی یہ مقدس رقم تھیک شریعت کے مطابق اس کے صحیح مستحقین تک

پہنچیں، اور اس میں کوئی خیانت، خرد بُرُد، بد عنوانی یا شرعی احکام سے تجاوز نہ ہونے پائے۔ زکوٰۃ کے تقدیس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مصاروف کا تعین انبیاء علیہم السلام پر بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اُسے بذاتِ خود قرآن کریم میں متعین فرمادیا ہے، چنانچہ جب تک زکوٰۃ کو ان مصاروف پر صحیح طور سے خرچ کرنے کا اطمینان بخش انتظام نہ ہو جائے، زکوٰۃ کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر حکومت زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم دونوں کا نظام صحیح طور سے مقرر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ اس کا ایک عظیم کارنامہ ہو گا، جس کی برکات انشاء اللہ کھلی آنکھوں محسوس ہوں گی!

لیکن اگر خدا نخواست زکوٰۃ کی ان مقدس رقم کو مستحقین تک پہنچانے کا انتظام صحیح نہ ہو سکا تو کروڑوں مسلمانوں کی عبادت خراب ہونے کا وباں بھی حکومت پر دنیا و آخرت میں بڑا عگین ہے۔ بلکہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو اس کڑی آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق کامل عطا فرمائے اور اس نازک مرٹے کو اس کے لئے آسان فرمائے، آمین۔

لیکن اس مقصد کے حصول لیکے پہلا قدم یہ ہونا چاہئے کہ زکوٰۃ و عشر کا جو قانون نافذ کیا گیا ہے، وہ شرعاً اعتبار سے درست ہو اور اس میں شرعی لحاظ سے کوئی سُقُم باقی نہ رہے۔ اور دوسرا قدم یہ ہونا چاہئے کہ اس قانون کے مطابق عمل بھی درست ہو۔ جہاں تک قانون کا تعلق ہے مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کے اجلاس میں حالیہ نکرہ و عشر آرڈیننس پر غور کیا گیا اور شرعی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لینے کے بعد مندرجہ ذیل تبصرہ اتفاقی رائے کے ساتھ منظور کیا گیا۔

نصابِ زکوٰۃ

اس آرڈیننس کی سب سے زیادہ سُکنیں غلطی یہ ہے کہ اس میں ہر اس

شخص پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم کرداری گئی ہے، جس کے بینک اکاؤنٹ میں زکوٰۃ منہا کرنے کے دن ایک ہزار روپے سے زائد رقم جمع ہو۔ اور بینکوں کے علاوہ دوسرے مالیاتی اداروں میں یہ ایک ہزار روپے کی قید بھی نہیں ہے، بلکہ ان اماثلوں کے حامل افراد کو ان کے اماثلوں کی مالیت کا لحاظ کئے بغیر لازمی طور پر زکوٰۃ کا مستوجب قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ شرعی لحاظ سے انتہائی غلطی ہے۔ اور عملًا اس قانون سے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ نیادتی ہو سکتی ہے کہ ان پر شرعاً زکوٰۃ واجب نہ ہونے کے باوجود ان سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے۔

شریعت کی رو سے زکوٰۃ صرف اس شخص پر فرض ہے جو نصاب یعنی سائز ہے باون تولہ چاندی یا اتنی ہی مالیت کی نقدی یا سونے یا مال تجارت کا ماںک ہو یا ان چاروں اشیاء میں سے بعض یا سب کا مجموعہ سائز ہے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کی ملکیت میں ہو، البتہ اگر کسی شخص کے پاس سونے کے سوا کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس کا نصاب سائز ہے سات تولہ سونا ہے۔ پھر اگرچہ شرعاً زکوٰۃ کی فرضیت کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر رقم پر علیحدہ سال پورا ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ سال کی ابتداء میں اور آخر میں کم از کم بقدر نصاب مالیت کا ماںک رہا ہو، آرڈیننس میں زکوٰۃ کی ان بنیادی شرائط کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔

لہذا اگر نظام زکوٰۃ کو واقعی شرعی اصولوں کے مطابق قائم کرنا ہے تو آرڈیننس میں ایسی ترمیم ناگزیر ہے، جس کی رو سے زکوٰۃ صرف انہی افراد سے وصول کی جاسکے جن کے ذمے شرعاً زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ دفعہ ۲۳ میں ”صاحب نصاب“ کی جو تعریف لکھی گئی ہے یعنی :

”صاحب نصاب سے نُراد وہ شخص ہے جس کے ذمے اس آرڈیننس کی رو سے زکوٰۃ، واجب الاداع ہو۔“

اسے تبدیل کر کے ”صاحبِ نصاب“ کی تعریف اس طرح کی جائے :

”صاحبِ نصاب“ سے مُراد وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی با اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا سونا یا سامانِ تجارت ہو، یا ان چاروں اشیاء میں سے بعض یا سب کا مجموعہ مل کر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔“

پھر ہر سال تاریخِ زکوٰۃ سے پہلے ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو قیمت ہو اس کا اعلان کر کے اس کی قیمت کو وصولیٰ زکوٰۃ کا معیار مقرر کیا جائے، یعنی صرف ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے جن کی اُتنی مالیت کی رقم بیکوں یا دیگر مالیاتی اداروں میں جمع ہوں۔

سال گزرنے کا مسئلہ

زکوٰۃ کی فرضیت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ مقدارِ نصاب پر پورا سال گزر چکا ہو۔ پورا سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ صاحبِ نصاب ہو جائے اور سال کے اختتام پر صاحبِ نصاب رہے (درمیان سال اگرچہ نصاب سے کم رہ جائے، البتہ بالکل ختم نہ ہو) تو سال کے اختتام پر جتنی بھی رقم اس کی ملکیت میں ہوگی اس ساری رقم پر شرعاً زکوٰۃ واجبُ الاداء ہوتی ہے، خواہ اس رقم کا کچھ حصہ ایک دن پہلے ہی اس کی ملکیت میں آیا ہو۔ لہذا ہر رقم پر سال گزرنा ضروری نہیں ہے۔

موجودہ آرڈیننس کے تحت ایسی صورتیں عملاً ممکن ہیں کہ جس تاریخ میں کسی شخص کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ وضع کی جائے، اس سے صرف چند روز پہلے ہی وہ صاحبِ نصاب بنا ہو، ایسی صورت میں اس سال ایسے شخص سے جبراً زکوٰۃ

وضع کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔

لہذا آرڈیننس میں الیک گنجائش موجود ہونی چاہئے کہ اگر کوئی شخص یہ ثابت کروے کہ اُسے مقدارِ نصاب کا مالک بننے ہوئے سال پورا نہیں ہوا تو اس کی زکوٰۃ وضع نہ کی جائے!

قرضوں کا مسئلہ

آرڈیننس میں قرضہ جات کو قابلٰ زکوٰۃ مالیت سے منہا کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اس مسئلے میں فقہائے امت کے مذاہب کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنفیؓ کے نزدیک ہر طرح کے قرضے زکوٰۃ سے منہا کرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ امام شافعیؓ کا قدیم قول بھی یہی ہے۔ امام مالکؓ کے نزدیک قرضے اموالِ باطنیہ کی زکوٰۃ سے مانع ہیں، اموالِ ظاہرہ کی زکوٰۃ سے نہیں۔ اور امام شافعیؓ کا قولِ جدید یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا قرض زکوٰۃ سے منہا نہیں ہو گا۔ (لاحظ ہوا بجموع شرح المہذب صفحہ ۳۱۲ و ۳۱۳ جلد ۵)

موجودہ حالات ایسے ہیں کہ جس کسی شخص نے اپنی ضروریاتِ زندگی کے لئے کوئی قرض لیا ہو، اس کو زکوٰۃ سے منہا نہ کرنا اس شخص پر زیادتی ہوگی۔ البتہ یہ مسئلہ ہمیشہ اہل علم کے نزدیک زیر غور رہا ہے کہ آج کل بڑے بڑے سرمایہ دار اپنی پیداواری اغراض کے لئے جو قرضے لیتے ہیں، اگر ان سب کو منہا کیا جائے تو ان پر بعض صورتوں میں شاید کبھی بھی زکوٰۃ واجب نہ ہو، جو مقاصدِ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اس لئے ایسے قرضوں کے بارے میں اگر امام شافعیؓ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ وہ زکوٰۃ سے منہا نہیں کئے جائیں گے تو یہ مناسب ہے۔

۱۳۹۹ھجری کو زکوٰۃ آرڈیننس کے جس مسودے کو رائے

عامتہ معلوم کرنے کے لئے مشتہر کیا گیا تھا، اس میں بھی قرضوں کی منہائی کی
مجباً نش موجود تھی، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے "مجلِ تحقیق مسائل حاضرہ"
نے اُس وقت بھی یہی رائے ظاہر کی تھی۔ (ملاحظہ ہوا مہماں پینات جمادی الثانیہ
(۱۳۹۹ھ، صفحہ ۸)

ہلذا مجلس کی رائے میں نصاب، حوالہ حوالہ اور قرضوں کے
بارے میں تجویز کو مدد نظر رکھتے ہوئے، آرڈیننس کی دفعہ ۳ مجوزہ ترمیم کے بعد
اس طرح ہونی چاہئے :

"آرڈیننس کے دوسرے احکام کے تابع ہر مسلمان صاحب
نصاب شخص سے شیدول نمبرا میں دی ہوئی تفصیل کے
مطابق ہر سال زکوٰۃ کے اختتام پر لازماً زکوٰۃ وصول کی جائے
گی۔ شرط یہ ہے کہ جو شخص یہ ثابت کرے کہ تاریخ زکوٰۃ
کے دن اس کی قابل زکوٰۃ جملہ مملوکات کو نصاب کی مقدار
تک پہنچے ہوئے پورا سال نہیں گزر ا تو اس کے مذکورہ
اثاثوں سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی۔ مزید شرط یہ ہے
کہ جو شخص یہ ثابت کرے کہ وہ مقروض ہے اور اس نے
قرضہ کسی پیداواری غرض سے نہیں لیا تو اس کے قرضے کی
رقم کو قابل زکوٰۃ رقم سے منہا کیا جائے گا۔"

اموال ظاہرہ و باطنہ

بینک اکاؤنٹ اور دوسرے مالیاتی اداروں سے زکوٰۃ منہا کرنے پر ایک
علمی اشکال یہ ہے کہ فہماء کرام کی تصریح کے مطابق حکومت کو اموال ظاہرہ
سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حق ہوتا ہے، اموال باطنہ سے نہیں۔ عام طور پر فہماء
نے مفت چراگا ہوں میں چرنے والے مویشیوں، کھیتوں اور باغات کی پیداوار اور

اس مال تجارت کو جو شہر سے باہر لے جایا جا رہا ہو، اموالِ ظاہرہ میں شمار کیا ہے اور نقدی، زیورات وغیرہ باقی تمام قابلِ زکوٰۃ اموال کو اموالِ باطنہ قرار دیا ہے۔ یہیک اکاؤنٹس چونکہ بصورت نقد ہوتے ہیں، اس لئے علمی طور پر یہ سوال قابلِ غور ہے کہ حکومت ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حق رکھتی ہے یا نہیں؟

اس سلسلے پر غور کرنے کے بعد مجلس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ :

”موجودہ دور میں یہیک اکاؤنٹس کو اموالِ ظاہرہ میں شمار کیا جاسکتا ہے۔“

اس سلسلے کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد مبارک میں اموالِ ظاہرہ و باطنہ کی کوئی تفہیق نہیں تھی، بلکہ دونوں قسم کے اموال سے زکوٰۃ سرکاری سطح پر وصول کی جاتی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب قابلِ زکوٰۃ اموال کی کثرت ہو گئی اور آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ اگر عاملینِ زکوٰۃ لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں پہنچ کر ان کی الملاک کی چھان بین کریں گے تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہو گی، اور اس سے ان کے مکانات، دکانوں، گوداموں اور محفوظ شخصی مقامات کی بخی حیثیت محروم ہو گی تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ صرف ان اموال کی زکوٰۃ حکومت کی سطح پر وصول کی جائے، جن کی زکوٰۃ وصول کرنے میں یہ مُصِرَّت لاحق نہ ہو، اور جن کا حساب کرنے کے لئے گھروں اور دکانوں کی تلاشی نہ لینی پڑے۔ ایسے اموال اس زمانے میں صرف دو قسم کے تھے، یعنی مویشی اور زرعی پیداوار۔ چنانچہ صرف ان کی زکوٰۃ آپ نے سرکاری سطح پر وصول کرنے کا اعلان فرمایا اور باقی اموال کو اموالِ باطنہ قرار دے کر ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی خود مالکان کی ذمہ داری قرار دے دی۔

بعد میں جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو انہوں نے شہروں کے باہر ایسی چوکیاں مقرر فرمادیں کہ جب کوئی شخص مالِ تجارت لے کر وہاں سے گزرے تو اس سے وہیں زکوٰۃ و صول کر لی جائے۔ اس موقع پر شہر سے باہر جانے والے مالِ تجارت کو بھی اموالِ ظاہرہ میں شمار کر لیا گیا۔ کیونکہ حکومت کو اس کی زکوٰۃ و صول کرنے اور اس کا حساب کرنے کے لئے مالکان کے گھروں، ڈکانوں اور بھی مقامات کی تلاشی کی ضرورت نہیں تھی۔

مذکورہ بالا صورتِ حال کی وضاحت کے لئے حضراتِ فقیہاء کرامؐ کی تصريحات درج ذیل ہیں :

(۱) علامہ ابن حمam رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :

﴿ظاہر قوله تعالیٰ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (الآلہ) توجب اخذ الزکاۃ مطلقاً للامام، وعلى هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفیتان بعده، فلما ولی عثمان رضى الله تعالى عنه وظهر تغیر الناس كره ان يقتبس السعاۃ على الناس مستوراً موالهم، فقوض الدفع الى الملائكة نيابة عنه، ولم يختلف الصحابة في ذلك عليه، وهذا لا يسقط طلب الامام اصلاً، ولهذا لو علم أنّ اهل بلدة لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها ﴿فتح القدير صفحہ ۴۸۷ جلد ۱﴾

(۲) امام ابوکبر جصاص رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :

﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً يَدْلِي عَلَى أَنْ أَخْذَ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْأَمَامِ وَإِنْ مَتَى أَدَاهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إِلَى

المساكين لم يجزه، لأن حق الامام قائم في اخذها فلا سبيل
إلى اسقاطه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجّه
العقال على صدقات المواشى وبأمرهم بأن يأخذوا على
المياه في مواضعها

آن تحرير فرماتے ہیں :

﴿اما زكاة الاموال فقد كانت تحمل الى رسول الله صلى
الله عليه وسلم وابي بكر و عمر و عثمان، ثم خطب
عثمان فقال "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين
فليؤده، ثم ليزك بقية ماله" ، فجعل لهم اداءها الى المساكين،
وسقط من اجل ذلك حق الامام في اخذها، لانه عقد
عقده امام من ائمة العدل، فهو نافذ على الامة لقوله عليه
السلام: ويعقد عليهم اولهم، ولم يلغنا انه بعث سعاة على
زكاة الاموال كما بعثهم على صدقات المواشى والتمارف في
ذلك، لأن سائر الاموال غير ظاهرة للامام، وإنما تكون
محبوبة في الدور والحوانيت والموضع الحريرة ولم يكن جائزًا
للسعفة دخول احرازهم ولم يجز ان يكلفوهم احضارها.
..... ولما ظهرت هذه الاموال عند التصرف بها
في البلدان اشبهت المواشى فتصب عليها عقال يأخذون
منها ما وجب من الزكاة، ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز
إلى عقاله أن يأخذوا ما يربه المسلم من التجارات من كل

عشرين ديناراً نصف دينار (۱)

(أحكام القرآن صفحه ۱۵۵ جلد ۳، مطبوعہ استنبول ۱۹۲۵)

نقطہ خنی کی معروف کتاب الاختیار میں ہے :

﴿لَأَنَّ الْأَخْذَ كَانَ لِلإِلَامِ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَوَرَضَهُ إِلَى الْمَلَائِكَ وَذَلِكَ لَا يُسْقطُ حَقَ طَلَبِ الْإِلَامِ، حَتَّى لَوْ عَلِمَ أَنَّ أَهْلَ بَلْدَةٍ لَا يَؤْذُونَ زَكَاتَهُمْ طَالِبُهُمْ بِهَا وَلَوْ مَرَبَّهَا عَلَى السَّاعِيِّ كَانَ لَهُ أَخْذُهَا﴾ (الاختیار صفحہ ۱۰۰ جلد ۱)

اور صاحب ہدایہ تحریر فرماتے ہیں :

﴿وَمَنْ مَرَّ عَلَى عَاشِرِ بَيْانَةٍ دِرْهَمٌ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ مَائِنَةً أُخْرَىٰ وَقَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحُولُ لَمْ يَرِكَ الَّتِي مَرَبَّهَا لَفْلَمَّا وَمَا فِي بَيْتِهِ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْحَمَاءِ﴾

(فتح التدبر صفحہ ۵۳۶ جلد ۲)

فقہاء کرام کی مندرجہ بالا تصریحات سے یہ بات واضح ہے کہ نقد روپیہ اور سامان تجارت اس وقت تک اموال باطنہ رہتے ہیں جب تک وہ پوشیدہ نجی مقامات پر مالکان کے زیرِ حفاظت ہوں، ایسے اموال کی زکوٰۃ وصول کرنے میں چونکہ ان نجی مقامات میں دخل اندازی کرنی پڑتی ہے، اس لئے انہیں حکومت کی وصولیابی سے مستثنی رکھا گیا ہے، لیکن جب یہی اموال مالکان خود نجی مقامات سے نکال کر باہر لے آئیں، اور وہ حکومت کے زیرِ حفاظت آجائیں تو وہ اموال ظاہرہ کے حکم میں آ جاتے ہیں، اور حکومت کو ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کا اختیار ہو جاتا ہے۔ گویا کسی مال کے اموال ظاہرہ میں شمار ہونے کے لئے دو بنیادی امور ضروری ہیں :

ایک یہ کہ وہ ایسے نجی مقامات پر رکھے ہوئے نہ ہوں جہاں سے ان کا حساب کرنے کے لئے نجی مقامات کی تفتیش کرنی پڑے، کافی العبارة الاولی والثانیة اور دوسرے یہ کہ وہ حکومت کے زیر حفاظت آجائیں۔ کافی العبارة الرابعة۔

اگر اس معیار پر موجودہ بینک اکاؤنٹس کا جائزہ لیا جائے تو ان میں یہ دونوں باتیں پوری طرح موجود ہیں، ایک طرف تو یہ وہ اموال ہیں جنہیں ان کے مالکان نے اپنی حرز (حفاظت) سے نکال کر خود حکومت پر ظاہر کر دیا ہے، اور ان کے حساب میں نجی مقامات کی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے یہ کہ یہ اموال حکومت کے زیر حمایت ہی نہیں بلکہ زیرِ ضانت آچکے ہیں، بالخصوص جب بینک سرکاری ملکیت میں ہیں اور ان کو جو سرکاری تحفظ حاصل ہے وہ عاشر پر گزرنے والے اموال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس لئے مجلس کی رائے یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹس اور دوسرے مالیاتی اداروں میں رکھے ہوئے اموال، اموال ظاہرہ کے حکم میں ہیں اور حکومت ان سے زکوٰۃ و صول کر سکتی ہے۔

اور اگر بالفرض انہیں یا ان میں سے بعض کو اموال باطنہ ہی قرار دیا جائے، تب بھی فقیہ کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ جس علاقے کے لوگ از خود زکوٰۃ ادا نہ کریں تو وہاں حکومت اموال باطنہ کی زکوٰۃ کا بھی مطالبہ کر سکتی ہے، جیسا کہ فتح القدير اور الاختیار کی عبارتوں میں اس کی تصریح گزر چکی ہے، اور یہی مسئلہ بداع الحثاب صحیح جلد ۲ میں بھی موجود ہے۔

زکوٰۃ کی نیت کا مسئلہ

بینک اکاؤنٹس اور دیگر مالیاتی اداروں سے جبراً زکوٰۃ وضع کرنے کے بارے میں ایک دوسرا علمی اشكال یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور دوسری عبادتوں کی طرح اس کی ادائیگی میں بھی نیت ضروری ہے، لیکن جب

مذکورہ اداروں میں جبرا زکوٰۃ وضع کی جائے گی تو اس میں مالکان کی طرف سے
شاید نیت نہ ہو سکے؟

فَهَبَّاَنَّ كَرَامَ الْمُتَصْرِّيَاتِ مِنْ أَسْبَابِ الْكَوَافِلِ كَأَبْحَى حَلٌ مُجَوَّدٌ هُوَ، وَرَوَهُ
يَهُ كَهُوكُومَتْ كُو جِنْ اموالَ كِي زَكُوٰۃَ وَصُولَ كَرَنَّ كَا حقَ هُبَ، انْ مِنْ حُوكُومَتْ كَا
وَصُولَ كَرَلِيَّا بَذَاتِ خُودَ نِيَّتَ كَهُ قَاتِمَ مقَامَ هُو جَاتَا هُبَ، چَنَانِچَه عَلَامَه شَامِي رَحْمَةَ
اللهِ عَلَيْهِ تَحْرِيرٌ فَرَمَّاتِ هِيَنَ :

﴿ وَفِي مُختَصَرِ الْكَرْخِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَنْخَذَهَا الْإِمَامُ
كُرْهَا فَوْضُعَهَا مَوْضِعُهَا أَجْزَاءُ لَانَ لَهُ وَلَا يَةُ أَنْخَذَ الصَّدَقَاتَ
فَقَامَ أَنْخَذَهُ مَقَامَ دَفْعِ الْمَالِكِ - وَفِي الْقِنِيَّةِ فِيهِ اشْكَالٌ، لَانَ
الْتِيَّةُ فِيهِ شَرْطٌ وَلَا تَوَجُّدُ مِنْهَا أَقْلَتُ : قَوْلُ الْكَرْخِيِّ رَحْمَهُ
اللهُ تَعَالَى، فَقَامَ أَنْخَذَهُ الْخَيْرُ يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ، تَأْمِلُ ﴾
(رد المخادر صفحہ ۲۳ جلد ۲)

بینک اکاؤنٹس کے قرض ہونے کی حیثیت

بینک اکاؤنٹس سے زکوٰۃ وصول کرنے پر تیرا شبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
بینکوں میں جو رُوْقَم جمع کرائی جاتی ہیں، وہ فَقِئِی اعتبار سے قرض کے حکم میں ہیں
اور مقروض کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ قرض خواہ کی رقم سے زکوٰۃ وصول
کر لے۔

لیکن غور رنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض بن جانے کے بعد تو یہ اموال
مضبوٰن ہونے کی بنا پر اور زیادہ سرکاری تحفظ میں آگئے ہیں، اس لئے قرض
ہونے سے حکومت کے وصولی زکوٰۃ کے حق پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ یہ بلاشبہ

دینِ قوی ہے، جس پر بالفاق زکوٰۃ فرض ہے۔ اور بینکوں کے سرکاری ملکیت ہونے کی وجہ سے یہ رقوم حکومت کے صرف علم ہی میں نہیں، بلکہ اس کے قبضے اور خانست میں آجاتی ہیں۔ اس لئے اگر حکومت ولایتِ عامہ کی بناء پر ان سے زکوٰۃ وضع کر لے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔

محتاط طریقہ

لیکن "مجلس" یہ سمجھتی ہے کہ بینک اکاؤنٹس اور دیگر مالیاتی اداروں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا محتاط طریقہ یہ ہو گا کہ جب کوئی شخص ان اداروں میں اپنی رقم رکھوانے کے لئے آئے تو وہ ایک فارم پُر کرے جس میں اس کی طرف سے متعلقہ ادارے کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ وہ تاریخ زکوٰۃ آنے پر اس کی رقم سے زکوٰۃ منہا کر کے زکوٰۃ فنڈ میں دے دے۔ اس طرح یہ ادارے مالکان کی طرف سے باقاعدہ وکیل باداۓ الزکوٰۃ ہیں جائیں گے، پھر اس میں نہ اموالِ باطنہ کی بیشاد پر کوئی اشکال باقی رہے گا، نہ نیت کی بیشاد پر اور نہ اکاؤنٹس کے قرض ہونے کی بیشاد پر۔

سودی اکاؤنٹس اور زکوٰۃ

بینک اکاؤنٹس سے زکوٰۃ وصول کرنے پر ایک اور خلجان بعض ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ یہ سودی اکاؤنٹس ہیں، اور سودا اور زکوٰۃ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اسلامی حکومت میں سودی کاروبار کا وجود اس کے ماتھے پر کلکٹ کا شرم ناک میکہ ہے اور بالخصوص زکوٰۃ کا نظام جاری کرنے کے بعد اس حرام و ناپاک ذریعہ آمدی کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لہذا یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ بعجلتِ بکثرہ مسلمانوں کو سودی نظام کی اس لعنت سے نجات دلانے۔

لیکن جہاں تک زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق ہے فہری اعتبار سے اگر کسی شخص کی آمدی حلال و حرام سے مخلوط ہو اور وہ مجموع پر سے زکوٰۃ نکال دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حلال آمدی کا ذہانی فی صد شرعاً زکوٰۃ ہو گا اور حرام آمدی کا ذہانی فی صد زکوٰۃ نہیں ہو گا، بلکہ وہ صدقہ سمجھا جائے گا جو حرام آمدی سے جان چھڑانے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ اصل شرعی حکم یہ ہے کہ سود لیتا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص سود وصول کر لے تو وہ سارے کا سارا واجب اتصدق ہے۔ اب اگر حکومت نے اس میں سے ذہانی فی صد زکوٰۃ فنڈ میں دے دیا ہے، (جب کہ زکوٰۃ فنڈ میں صدقاتِ نافلہ اور عطیات بھی شامل ہیں) تو مالکان پر شرعاً واجب ہے کہ باقی ماندہ سود بھی صدقہ کرو دیں نہ یہ کہ اس کی بناء پر اصل مال کی زکوٰۃ بھی ادا نہ کریں۔

مثال کے طور پر ایک شخص کے ایک ہزار روپے بینک میں جمع ہیں اور اس پر سورپے سود کا اضافہ ہو گیا تو حکومت پورے گیارہ سورپے پر ذہانی فی صد کے حساب سے ساڑھے ستا میں روپے وصول کرے گی، ان ساڑھے ستا میں روپوں میں سے پچھیں روپے تو اس شخص کے اصل ایک ہزار روپے کی زکوٰۃ ہے اور ذہانی روپے زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ سود کی جو رقم پوری کی پوری صدقہ ہونی چاہئے تھی اس کا کچھ حصہ ہے، اگر یہ بھی زکوٰۃ فنڈ میں چلا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ اس کا مصرف بھی فقراء ہی ہیں۔

نابالغ کی زکوٰۃ

امام ابوحنیفہ کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کے لئے صاحبِ نصاب کا عاقل و بالغ ہونا شرط ہے۔ جب کہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک نابالغ اور فاتر العقل کے مال پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ آرڈیننس میں چونکہ بالغ یا نابالغ کے اکاؤنٹس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا اس لئے اس میں غالباً شافعی مسلک اختیار کیا

گیا ہے، اور لوگوں کے موجود حالات کے پیش نظر اگر ضرورت داعی ہو تو اس کی
گنجائش ہے۔
ترکے کامال

البتہ بینک اکاؤنٹس میں بعض اموال ایسے ہو سکتے ہیں جو کسی مرحوم شخص
کا ترکہ ہوں، چونکہ مرحوم کے انتقال کے ساتھ ہی ان اموال پر ورثاء کا حن
ثابت ہو جاتا ہے اور ورثاء میں سے ہر ایک کا صاحبِ نصاب ہونا ضروری
نہیں، اس لئے اس مال سے بھی زکوٰۃ وصول کرنا درست نہیں ہو گا۔ لہذا
آرڈیننس میں یہ استثناء بھی ہونا چاہئے کہ :

”جو شخص زکوٰۃ وضع کرنے کے دن انتقال کر چکا ہو، اس کے
اکاؤنٹ سے زکوٰۃ وضع نہیں کی جائے گی۔“

کمپنیاں اور شیرز

آرڈیننس میں ”کمپنیوں“ کو بھی صاحبِ نصاب قرار دیا گیا ہے اور کمپنیوں
کے شخص کو بھی شینڈول نمبر(۱) میں درج کرنے کے ان سے زکوٰۃ وضع کرنے کا حکم
دیا ہے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر کمپنی کے بینک اکاؤنٹ سے
بجیشت فرد قانونی الگ زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور اس کمپنی کے حصہ داروں
سے ان کے حصے پر الگ زکوٰۃ وصول ہو گی۔ اگر واقعہ یہی ہے تو یہ طریقہ
شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی مال سے سال میں دو مرتبہ زکوٰۃ
وصول ہونے کا احتمال ہے جو کسی طرح جائز نہیں۔ لہذا اگر کمپنیوں سے زکوٰۃ
وصول کی جا رہی ہے تو حصہ داروں سے الگ زکوٰۃ وصول نہ کی جائے، اور اگر
حصہ داروں سے وصول کی جا رہی ہے، تو کمپنیوں سے وصول نہ کی جائے۔ ان
 دونوں صورتوں میں سے مجلس کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ شخص پر وصول کی
 جائے۔

عشر بصورتِ نقد

آرڈیننس میں عُشر کا بھی ایک حصہ لازماً وصول کرنے سے مستثنی رکھا گیا ہے، مثلاً بارانی زمینوں کی پیداوار کا پانچ فی صد اور اس کے علاوہ ہر قسم کی زمینوں میں کاشت کار کا حصہ مستثنی رکھا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ تصریح کردی ہے کہ ان پر شرعاً عُشر واجب ہے جسے مالکان اپنے طور پر ادا کریں گے۔ اس حکم میں شرعاً کوئی خرابی نہیں، البتہ آرڈیننس کی دفعہ ۵ ذیل ۵ میں صراحت کی گئی ہے کہ عُشر بصورتِ نقد وصول کیا جائے گا، صرف گندم اور دھان کے بارے میں یہ استثناء رکھا گیا ہے کہ اگر صوبائی زکوٰۃ کو نسل چاہے تو اُسے بصورتِ جنس وصول کر لے۔

مجلس کی رائے میں یہ حصہ بھی لا تکِ ترمیم ہے کیونکہ شرعاً عُشر کو بصورتِ نقد ادا کرنا لازم نہیں بلکہ شریعت نے اس میں مالک پیداوار کی سہولت کو ملحوظ رکھا ہے۔ لہذا یہ پابندی ختم کر کے اس معاملے کو مالک پیداوار کی صوابید پر چھوڑنا چاہئے۔

چوتھائی پیداوار کا عُشر سے استثناء

آرڈیننس میں زرعی پیداوار کے چوتھائی حصے کو اخراجات کی مدد میں عُشر سے مستثنی کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اگرچہ بعض ائمہ کے اقوال اس قسم کے منقول ہیں کہ زرعی پیداوار کے چوتھائی حصے کو اخراجات کی مدد میں مستثنی کیا جاسکتا ہے۔ (ملاحظہ ہو فتح الباری، باب خرص التمر صفحہ ۲۷۳ جلد ۳) لیکن فقہاء حنفیہ اور اکثر فقہاء کے مسلم میں یہ چھوٹ نہیں ہے۔ لہذا اگر حکومت یہ چوتھائی حصہ لازمی وصولی سے مستثنی کرنا چاہتی ہے تو ساتھ ہی یہ اعلان بھی کرنا

چاہئے کہ اس حصے کا عشر ماں کان خود ادا کریں۔

تاریخ زکوٰۃ

موجودہ آرڈیننس کے مطابق ہر زکوٰۃ کا سال کیم رمضان المبارک سے شروع ہو کر شعبان کے آخری دن پر ختم ہو گا۔ اور یہ بات اطمینان بخش ہے کہ شریعت کے مطابق زکوٰۃ کی تقسیم کے لئے ہجری سال کو اختیار کیا گیا ہے، لیکن مختلف امثالوں کی قیمت لگانے کے لئے شیڈول نمبر (۱) میں مختلف تاریخیں مقرر کی گئی ہیں، یہ صورتِ حال شرعاً درست نہیں ہے۔ شرعی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص صاحبِ نصاب بن جائے تو اس کی ہر رقم کے لئے الگ سال ثمار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے تمام امثالوں کے لئے زکوٰۃ کے وجوہ کی ایک ہی تاریخ ہوتی ہے، لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تمام امثالوں میں قیمت لگانے کی تاریخ ایک ہی رکھی جائے۔

المہت اس قیمت کی بنیاد پر زکوٰۃ وضع کرنے کی تاریخیں مختلف امثالوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔

قیمتی پتھروں اور مچھلیوں کی زکوٰۃ

آرڈیننس کے شیڈول نمبر (۲) میں ان اشیاء کی فہرست دی گئی ہے جن پر حکومت لازماً زکوٰۃ وصول نہیں کرے گی، بلکہ ماں کان پر بطورِ خود ان کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اس فہرست میں قیمتی پتھروں اور مچھلیوں پر بھی زکوٰۃ عائد کی گئی ہے حالانکہ ان دونوں اشیاء پر اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب تک تجارت کی نیت سے انہیں خریدا نہ گیا ہو۔ لہذا ان دونوں اشیاء کو اس شیڈول سے خارج کرنا چاہئے، کیونکہ بہ نیتِ تجارت خریداری کی صورت میں یہ

”اموالِ تجارت“ میں شامل ہو جائیں گے، جن کا ذکر شینڈول نمبر (۲) میں موجود ہے۔

مصارفِ زکوٰۃ

مصارفِ زکوٰۃ کے بیان میں آرڈیننس میں براہ راست فقراء کو زکوٰۃ پہنچانے کے ساتھ مختلف اداروں کے توسط سے فقراء کی امداد کا بھی ذکر ہے، اس میں یہ وضاحت ہوئی چاہئے کہ :

”ہر صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی مستحقِ زکوٰۃ کو بنا قاعدہ مالک پناکر کی جائے گی۔“

یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ آرڈیننس کے اردو ترجمے سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ ادارے اُسے تعمیر اور عملے کی تحریکوں پر صرف کر سکیں گے، جو شرعاً جائز نہیں۔ انگریزی متن اگرچہ نسبتاً بتتے ہے، لیکن اس میں بھی یہ وضاحت ضروری ہے۔



خلاصہ تباویز برائے حکومت

① صاحبِ نصاب کی موجودہ تعریف کی جگہ حسبِ ذیل تعریف لکھی جائے :

”صاحبِ نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں سارے باؤن تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ، سونا یا سامانِ تجارت ہو یا ان چاروں اشیاء میں سے بعض یا سب کا مجموعہ مل کر سارے باؤن تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔“

پھر ہر سال تاریخِ زکوٰۃ سے پہلے سارے باؤن تولہ چاندی کی جو قیمت ہو اس کا اعلان کر کے اس قیمت کو دصویٰ زکوٰۃ کا معیار مقرر کیا جائے۔ یعنی صرف ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے جن کی اتنی مالیت کی رقوم بینکوں یا دیگر مالیاتی اداروں میں جمع ہوں۔

② آرڈیننس کی دفعہ نمبر (۳) میں ترمیم کر کے اس کو اس طرح بنایا جائے :

”آرڈیننس کے دوسرے احکام کے تابع ہر مسلمان صاحبِ نصاب شخص سے شیڈول نمبر (۱) میں دی ہوئی تفصیل کے مطابق ہر سال زکوٰۃ کے اختتام پر لازماً وصول کی جائے گی۔

شرط یہ ہے کہ جو شخص یہ ثابت کر دے کہ تاریخِ زکوٰۃ کے دن اس کی قابل زکوٰۃ جملہ مملوکات کو نصاب کی مقدار تک پہنچے ہوئے پورا سال نہیں گزرا تو اس کے ذکرہ امثالوں

سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی۔

مزید شرط یہ ہے کہ جو شخص یہ ثابت کرنے کے ذریعہ مقروض ہے اور اس نے قرض کسی پیداواری غرض سے نہیں لیا ہے تو اس کے قرضے کی رقم کو قابل زکوٰۃ رقم سے منہا کیا جائے گا۔

مزید شرط یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں باضابطہ ذمہ سرٹیفیکٹ کے ذریعہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ وضع کرنے کی تاریخ میں انتقال کر چکا تھا تو بھی اس کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ وضع نہیں کی جائے گی۔

(۳) بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں میں رقم رکھوانے والوں سے ایک وکالت نامہ تحریر کرایا جائے جس میں وہ متعلقہ مالی اداروں کو یہ اختیار دے دیں کہ تاریخ زکوٰۃ آنے پر وہ ادارہ ان کی طرف سے زکوٰۃ وضع کر کے زکوٰۃ فذ میں جمع کرادے۔

(۴) کپینیوں اور ان کے حصص پر الگ الگ زکوٰۃ وصول نہ کی جائے بلکہ اگر کپینیوں سے وصول کی جاری ہے تو حصص پر وصول نہ کی جائے اور اگر حصص پر وصول کی جاری ہے تو کپینیوں سے وصول نہ کی جائے۔ ان دونوں صورتوں میں سے بہتر یہ ہے کہ حصص پر وصول کی جائے۔

(۵) عشر کے بصورتِ نقد وصول کرنے کی پابندی ختم کی جائے بلکہ یہ امر مالک پیداوار پر چھوڑا جائے کہ وہ چاہے تو بصورتِ جنس ادا کرے اور چاہے تو بصورتِ نقد۔

(۶) ہر زرعی پیداوار میں سے چوتھائی حصہ جو حکومت بطور منہائی اخراجات چھوڑ رہی ہے اس کے بارے میں یہ اعلان کیا جائے کہ اس حصے کا عشر ماں کا ان غدو ادا کریں۔

(۷) شیڈول نمبر (۱) کے تمام اہاٹوں کے لئے قیمت مقرر کرنے کی تاریخ (ولیویشن ڈیسٹ) ایک ہی مقرر کی جائے اور مختلف اہاٹوں کے لئے مختلف تاریخیں نہ رکھی جائیں، البتہ زکوٰۃ وضع کرنے کی تاریخیں مختلف اہاٹوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔

(۸) تینی پچھوں اور پھیلوں کو شیڈول نمبر (۲) سے خارج کیا جائے۔

(۹) شیڈول نمبر (۲) میں مویشیوں کی زکوٰۃ کی شرح بیان کرتے ہوئے پانچ سے پچھیں اونٹ تک کی شرح بہت بھل ہے، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانچ سے پچھیں اونٹوں تک ایک اونٹ واجب ہے۔ اس کی اصلاح کر کے واضح طور پر لکھنا چاہئے کہ پانچ سے پچھیں اونٹوں تک ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری واجب ہوگی۔

(۱۰) مصارفِ زکوٰۃ میں یہ وضاحت کی جائے کہ ہر صورت میں مستحقِ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کا مالک و قابض بنایا جائے گا اور ادارے یہ رقمیں تعمیرات اور اساتذہ کی تنخواہوں میں صرف نہیں کر سکیں گے۔

یہ چند تجویز ہیں، جو آرڈیننس کے فوری مطالعے سے سامنے آئیں،

﴿وَلَعَلَّ اللَّهُ يَعْدِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾

وآخر دعوا ان الحمد لله رب العلمين



تصدیقات

- حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب۔
- مفتی و مہتمم دارالاقناء والارشاد ناظم آباد کراچی
- حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب۔
- مفتی و مہتمم دارالعلوم کراچی
- حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔
- خادم دارالاقناء دارالعلوم کراچی
- حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب۔
- مفتی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ناؤن کراچی
- حضرت مولانا ذاکرؒ عبد الرزاق اسکندر صاحب۔
- استاذ و ناظم تعلیمات جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ناؤن کراچی
- حضرت مولانا مفتی سجان محمود صاحب۔
- دارالعلوم کراچی ۱۳۔
- حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف صاحب۔
- نائب مفتی دارالعلوم کراچی ۱۳۔



اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا أَعْشَى وَمَا أَخْفَى

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بینکوں اور مالیاتی اداروں



زکوٰۃ کا مسئلہ

(دُو سرا حِصہ)

الحمد لله وکفی وسلام على عباده الذين اصطفی

اما بعد

”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ نے اپنے ۲۱ شعبان ۱۴۹۹ھ کے اجلاس میں زکوٰۃ و عشر آرڈی ننس پر تبصرہ کرتے ہوئے جو تحریر مرتب کی تھی، اُسے اظہار رائے کے لئے ملک بھر کے معروف الٰہ فتویٰ علماء کی خدمت میں بھیج دیا گیا تھا، الحمد للہ! ان میں سے اکثر کے جوابات موصول ہو گئے۔ مندرجہ ذیل حضرات نے اس تحریر پر اصل مسئلے میں کسی ترمیم کے بغیر مجلس کی آراء سے انقاٰق کرتے ہوئے تصدیقی و تخطی ثبت فرمادیے :

① شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب، مہتمم دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ
ننگل۔

② حضرت مولانا مفتی عبد اللہ صاحب، مفتی و مہتمم مدرسہ قاسم العلوم، ملٹان
③ حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب، مفتی مدرسہ اشرفہ، سکھر
④ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مڈ ٹھیم، مہتمم جامعہ فاروقیہ ڈرگ
کالونی، کراچی (آپ نے نیت کے مسئلے میں قدرے تردُّد فرمایا، اور باقی امور سے
اتفاق فرمایا)۔

⑤ حضرت مولانا فاضل حبیب اللہ صاحب، مہتمم جامعہ رشیدیہ، ساہیوال۔
⑥ حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب، مفتی مدرسہ مطلع العلوم، بوری روڈ،
کوئٹہ۔

⑦ حضرت مولانا فضل محمد صاحب، مہتمم مدرسہ مظہر العلوم، منگورہ، سوات۔
⑧ حضرت مولانا مفتی محمد وجیہ صاحب، مفتی دارالعلوم الاسلامیہ، نندوالہ یار،
سندھ۔

⑨ حضرت مولانا مفتی محمد خلیل صاحب، مدرسہ اشرف العلوم، باغبان پورہ،
گوجرانوالہ۔

⑩ حضرت مولانا حبیب الحق صاحب، مدرسہ اشرف العلوم، باغبان
پورہ گوجرانوالہ۔

⑪ حضرت مولانا قاضی سعد اللہ صاحب، رکن مجلس شوریٰ قلات ڈویژن،
ستونگ بلوچستان (وحال رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان)۔

⑫ حضرت مولانا قاضی بشیر احمد صاحب، دارالافتاء راولاکوت، آزاد کشمیر۔
⑬ حضرت مولانا مقبول الرحمن صاحب قاسمی، دارالافتاء راولاکوت، پونچھ،
آزاد کشمیر۔

(۱۴) حضرت مولانا عبداللہ صاحب، ناظم دارالعلوم تعلیم القرآن، باغ، پونچھ، آزاد کشمیر۔

(۱۵) حضرت مولانا شاء اللہ صاحب خطیب جامع مسجد باغ، پونچھ، آزاد کشمیر۔

ان حضرات کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات نے مجلس کی تحریر پر مفصل یا مختصر تبصرہ تحریر فرمایا اور اس کے بعض نکات سے اختلاف بھی فرمایا :

(۱) حضرت مولانا مفتی جیل احمد صاحب تھانوی، مفتی جامدہ اشرفہ لاہور۔

(۲) حضرت مولانا مفتی عبد التاریخ صاحب، مفتی خیرالمدارس ملتان۔

(۳) حضرت مولانا عبدالنکور صاحب تندی، دارالعلوم حقائیہ، ساہیوال ضلع سرگودھا۔

(۴) حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صدر، مدرسہ نفرۃ العلوم گوجرانوالہ ان حضرات میں سے بعض نے کچھ تو مجلس کی تحریر کی چند فروگزاشتیوں پر مجلس کو متنبہ فرمایا، جس پر مجلس ان حضرات کی تردید سے منون ہے۔ وہ فروگزاشتیں درج ذیل ہیں :

(۱) مجلس کی تحریر میں "حوالہ حوالہ" کی شرط کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لئے یہ ضروری ہے کہ ماں نامی "بقدرِ نصاب" سارے سال کسی شخص کی ملکیت میں موجود رہا ہو، حالانکہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر سال کے اوّل و آخر میں نصاب کامل ہو اور اشائع حوالہ میں ناقص ہو جائے تو بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مجلس کی تحریر سابق میں یہاں تفصیل رہ گیا تھا، اب اس

لے جس کی وجہ یہ ہوئی کہ عبارات فتحیاء میں مطلقاً ماں نامی کو نصاب سے تعبیر کر کے قدر معہود کو "نصاب کامل" اور اس سے کم کو نصاب ناقص کہتے ہیں، وقت تحریر لفظ نصاب پر نظری ہی اور "بقدر" کا لفظ ہوا تحریر میں آگیا۔ مقصد یہ ہے کہ ماں نامی سارے سال موجود رہا ہو، مگر سال کے طریق نصاب کا کامل ہونا شرط ہے، اگرچہ در میان میں ناقص رہ گیا ہو۔

ubarat کو مجلس کی طرف سے کالعدم سمجھا جائے جس سے یہ مفہوم لکھتا ہے کہ زکوٰۃ کے وجوہ کے لئے کامل نصاب کا سارے سال ملکیت میں رہنا ضروری ہے۔

② صاحبِ نصاب کی تعریف سابقہ تحریر میں اس طرح کی گئی تھی :

”صاحبِ نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں سائز ہے باون تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا سونا یا سامانِ تجارت ہو یا ان چاروں اشیاء میں سے بعض یا سب کا مجموعہ سائز ہے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔“

اس تعریف میں اُس صورت کا حکم بیان سے رہ گیا تھا جس میں کسی شخص کے پاس صرف سونا ہی سونا ہو، چاندی یا نقدی بالکل نہ ہو۔ ایسی صورت میں سونے کا نصاب یعنی سائز ہے سات تولہ سونا شرعاً معتبر ہوتا ہے، چنانچہ اس فروگزاشت پر متقبہ ہونے کے بعد مجلس نے صاحبِ نصاب کی مجوزہ تعریف میں تبدیلی کر کے اُسے اس طرح کر دیا ہے :

”زرعی پیداوار اور مویشیوں کے علاوہ دیگر قابلِ زکوٰۃ اموال میں صاحبِ نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں سائز ہے باون تولہ (۳۵۴ گرام) چاندی یا سائز ہے سات تولہ (۲۸۷ گرام) سونا یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت کے برابر روپیہ یا سامانِ تجارت ہو یا مذکورہ بالا اشیاء میں سے بعض کا یا سب کا مجموعہ مل کر سونے یا چاندی کے وزن مذکور کی قیمت کے برابر ہو جائے۔“

مجلس نے اس ترمیم شدہ تعریف سے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی مطلع

لے اس صورت کا حکم اگرچہ تعریف میں درج ہونے سے رہ گیا تھا، مگر تعریف سے پہلے کی عبارت میں اس کی صراحت کردی گئی تھی۔

کرویا تھا، چنانچہ اب حکومت نے جو نیا ترمیم شدہ زکوٰۃ آرڈی فنسس ۱۹۸۰ء نافذ کیا ہے، اس میں بفضلہ تعالیٰ اس کی روشنی میں ترمیم کردی گئی ہے۔ (ملحوظ ہو زکوٰۃ دعیرت میں آرڈی فنسس ۱۹۸۰ء دفعہ ۳ ذیل الف)

(۳) مجلس کی تحریر میں لکھا گیا تھا کہ شہر سے باہر جانے والے اموال تجارت سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے چوکیاں مقرر فرمائی تھیں، اس سے تاثر یہ ہوتا تھا کہ ان چوکیوں کا یہ سلسلہ سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں ان چوکیوں پر زکوٰۃ وصول کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ (ملحوظ ہو بیسوٹ و کتاب الاتار وغیرہ)

یہ تو چند جزوی فروگز اشتھنی تھیں۔ لیکن مذکورہ چاروں حضرات نے بنیادی طور پر جس مسئلے سے اختلاف فرمایا ہے یا جس پر اپنے تردد کا اظہار کیا ہے وہ بینک اکاؤنٹس یا دوسرے مالیاتی اداروں سے زکوٰۃ وضع کرنے کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں ان حضرات کے دلائل یا شبہات پر مجلس نے دوبارہ غور کیا، لیکن غور و تحقیق کے بعد اس مسئلے میں مجلس کی رائے تبدیل نہیں ہوئی۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر قدرے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے۔

بینک اکاؤنٹس اور دیگر مالیاتی اداروں سے زکوٰۃ وصول کرنے پر جن شبہات کا اظہار کیا گیا ہے، بنیادی طور پر وہ تین شبہات ہیں :

(۱) حکومت کو صرف اموال ظاہرہ سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حق ہے، اموال باطنہ سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حق حکومت کو نہیں، بلکہ مالکان پر ان کی زکوٰۃ کی

میت کے ترکے کو سنتی کرنے کی شرط، تمام املاکوں کے لئے ایک ویلو یعنی ذیث کی تجویز وغیرہ۔

اداً سمجھی اپنے طور پر فرض ہے اور نقوص پونکہ اموالِ باطنہ میں سے ہیں، اس لئے بینک اکاؤنٹس بھی اموالِ باطنہ میں سے ہوئے، ان سے حکومت کو زکوٰۃ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔

(۱) بینک اکاؤنٹس درحقیقت بینک کے ذمے اکاؤنٹ ہولڈرزوں کا قرض ہے، جب یہ رقم مالک نے بینک کو دے دی تو وہ اس کی ملکیت سے نکل گئی، اور بینک کی ملکیت میں داخل ہو گئی، اب اصل مالک پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب وہ بینک سے اُس کو واپس وصول کرے گا، اُس سے پہلے جو زکوٰۃ بینک اکاؤنٹس سے وضع کی جا رہی ہے وہ وجوب ادا سے پہلے ایک ایسے مال سے وصول کی جا رہی ہے جس پر زکوٰۃ واجب الاداء نہیں، اور جو اکاؤنٹ ہولڈر کی ملکیت نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔

(۲) زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے اداکنندہ کا نیت کرنا ضروری ہے اور بینک اکاؤنٹس میں سے زکوٰۃ وضع کرتے وقت مالک کی نیت بسا اوقات نہیں ہوتی۔

ان تینوں مسائل پر قدرے تفصیل کے ساتھ ذیل میں بحث کی جاتی ہے۔

﴿وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوْفَق﴾

اموالِ ظاہرہ اور اموالِ باطنہ

جیسا کہ "مجلس" کی تحریر سابق میں امام ابو بکر جعاص رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے فقیہاء کرامؓ کی تقریبات کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمدرد مبارک میں اموالِ ظاہرہ اور اموالِ باطنہ کی کوئی تفریق نہیں تھی،

بلکہ ہر قسم کے قابلِ زکوٰۃ اموال سے سرکاری سطح پر زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اموال اور آبادی کی کثرت ہو گئی اور اندیشہ ہوا کہ لوگوں کے خجی مقامات وغیرہ میں زکوٰۃ نکے کارندوں کی مداخلت سے لوگوں کو تکلیف ہو گئی، اور اس سے فتنے پیدا ہوں گے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ کی تحصیل سرکاری سطح پر باقی رکھی اور اموالِ باطنیہ کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں مالکان کو حکومت کا نائب بنادیا۔

حضراتِ فتحاءِ کرامؐ کی تصریحات کی روشنی میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ کسی مال کے "اموالِ ظاہرہ" میں سے ہونے کے لئے دو امور ضروری ہیں: ایک یہ کہ ان اموال کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے مالکان کے خجی مقامات کی تفتیش کرنی نہ پڑے۔

دوسرے یہ کہ وہ اموال حکومت کے زیرِ حمایت ہوں۔ پھر عرض کیا گیا تھا کہ بینکوں اور دوسرے مالیاتی اداروں میں رکھوائی ہوئی رقموں میں یہ دونوں امور موجود ہیں، لہذا ان کو "اموالِ ظاہرہ" میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

اس پر بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا ہے کہ کسی مال کے ظاہر ہونے کی اصل علت "خروج من المصر" ہے، چونکہ اس دور میں شہر کے ناکوں پر حکومت کی طرف سے عاشر اس لئے بخھائے جاتے تھے کہ وہ گزرنے والوں کی جان و مال کی حفاظت کریں، اس لئے شہر سے نکل کر تمام اموال حکومت کے زیرِ حمایت آجائتے تھے، اور اس بناء پر حکومت ان کی زکوٰۃ وصول کرتی تھی، خجی مقامات کی تلاشی و تفتیش کی ضرورت نہ ہونا اس حکم کی حکمت ہے علت نہیں، لہذا حکم کا مدار "خروج من المصر" پر ہو گا اور چونکہ یہ علت بینکوں اور مالیاتی اداروں میں نہیں پائی جاتی، اس لئے ان کو اموالِ ظاہرہ میں داخل اگر کے ان سے سرکاری سطح پر زکوٰۃ وصول کرنا درست نہیں۔

مجلس نے اس نقطہ نظر پر مکرر غور کیا، اور اس مسئلے میں فقہ اور حدیث کے متعلقہ مواد کو سامنے رکھا، لیکن خور و تحقیق کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ سرکاری سطح پر زکوٰۃ کی وصولی کے لئے "خروج من المسر" کو علت قرار دینا اور اس پر حکم کا مدار رکھنا درست نہیں، بلکہ اصل علت وہی ہے کہ وہ اموال ایسے ہوں جن سے زکوٰۃ کی وصولی کے لئے نجی مقامات کی تفتیش کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں :

حدیث اور فقہ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بعد کے خلفاء و امراء سالانہ تنخوا ہوں اور وظائف کی تقسیم کے وقت انہی تنخوا ہوں اور وظائف سے زکوٰۃ کاٹ لیا کرتے تھے، اور اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین اور دوسرے فقهاء نے صرف یہ کہ کوئی تکمیر نہیں فرمائی، بلکہ اس طریقے کی تصدیق و تائید فرمائی ہے، چنانچہ مؤطاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے :

﴿قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اذا اعطى الناس اعطياتهم سأله الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فان قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وان قال: لا، سلم اليه عطاءه و لم يأخذ منه شيئاً﴾

(مؤطاً امام مالک صفحہ ۱۰۴، ۳ او ۱۰۴ الزکاة فی العین من الذهب والورق۔
و مصنف ابن ابن شیبۃ صفحہ ۱۸۴ جلد ۳ ما قالوا فی العطاء اذا اخذ -
و مصنف عبد الرزاق صفحہ ۷۶ جلد ۴۔ و کتاب الاموال لابن عبید
صفحہ ۴۱۱)

”حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت“

صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو (بیت المال سے
ملنے والی) تنخواہ یا وظائف دیتے تو ہر شخص سے پوچھتے کہ کیا
تمہارے پاس کوئی ایسا مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو؟ اگر
وہ کہتا کہ ہاں ہے، تو اس کی تنخواہ سے اس مال کی زکوٰۃ لے
لیتے، اور اگر وہ کہتا کہ ”نہیں“ تو اس کی تنخواہ پوری دنے
دیتے، اور اس میں سے کچھ نہ لیتے۔

اور امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے یہ الفاظ نقل فرمائے

ہیں :

﴿فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عِنْدَهُ مَا لَقِدْ حَلَّتْ فِي الزَّكَاةِ فَأَصْبِهِ﴾

ما يرید ان يعطيه، وان أخبره ان ليس عنده مال قد حلت

فِيَهُ الزَّكَاةَ سَلَمْ إِلَيْهِ عَطَاءُهُ﴾

(کتاب الاموال لابی عبید صفحہ ۴۱۱ فقرہ ۱۱۲۵ باب فروض زکاۃ الذهب
والورق)

”اگر وہ شخص یہ بتاتا کہ اس کے پاس ایسا مال ہے جس پر زکوٰۃ
فرض ہو چکی ہے تو جو تنخواہ آپ اُسے دیتا چاہتے اس میں سے
زکوٰۃ کاٹ لیتے تھے، اور اگر وہ بتاتا کہ اس کے پاس ایسا مال
نہیں ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہو تو اس کی تنخواہ اُسے پوری
دنے دیتے تھے۔“

نیز امام ابن ابی شہبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ

معمول نقل فرمایا ہے :

﴿عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْفَازِيِّ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ

فِي زَمْنِ عُمَرِ مَعْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَرْقَمِ : فَإِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ

جمع عمر رضی اللہ عنہ اموال التجارہ، فحسب عاجلہا
وأجلها، ثم يأخذ الزکاة من الشاهد والغائب ﴿۷﴾

(مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۱۸۴ جلد ۲)

”عبد الرحمن بن عبد القاری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عبد اللہ بن ارقم کے ساتھ بیت
المال پر مقرر تھے، فرماتے ہیں کہ جب (سالانہ) تنخوا ہوں کی
تقسیم کا وقت آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اموال
تجارت کو جمع فرمائیں کے نقد اور اونہار کا حساب فرماتے، پھر
حاضر اور غائب ہر طرح کے مال سے زکوٰۃ وصول فرماتے
تھے۔“

اور امام ابو عبدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل
فرمائی ہے :

﴿فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ الْتَّجَارِ، ثُمَّ حَسِبَهَا
شَاهِدَهَا وَغَائِبَهَا، ثُمَّ اخْذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدَ الْمَالِ عَلَى
الشَّاهِدِ وَالغَائِبِ﴾

(کتاب الاموال صفحہ ۴۲۵ فقرہ ۱۷۸ باب الصدقۃ فی التجارات والدین)

”جب تنخوا ہوں کی تقسیم ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تمام تاجریوں کے اموال جمع فرمائیں اس میں سے حاضر و غائب
سب کا حساب فرماتے، پھر موجود مال سے حاضر و غائب ہر طرح
کے مال کی زکوٰۃ وصول فرماتے۔“

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے
راویوں کی تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ :

﴿ وَسِنْدَهُ حَسْنٌ ﴾

(اعلاه الشتن صفحه ٤٣٠ جلد ۱۷ کتاب السیر باب العطاء بیوت صاحبہ
بعد مایستوہبہ)

لیکن اس روایت کی سند حسن ہے۔

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بارے میں تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان کے دور میں اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ
کی کوئی تفریق نہ تھی، اس لئے وہ ہر قسم کے اموال سے زکوٰۃ وصول فرماتے تھے،
لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے
یہ تفریق قائم فرمائی تھی، ان کے دور میں بھی شیخوں اور سے زکوٰۃ وضع کرنے کا یہ
سلسلہ بر ارجاری رہا۔ چنانچہ مؤطاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں مروی ہے :

﴿ عن عائشة بنت قدامة عن ابیها انه قال : كثت اذا
جئت عثمان بن عفان رضى الله تعالیٰ عنہ اقتض
عطائی، سأله هل عندك من مال وجبت فيه الزکاة؟ قال
فإن قلت : نعم اخذ من عطائی زکاة ذلك المال ، وان
قلت : لا ، دفع الى عطائی ﴾

(مؤطاً امام مالک صفحه ۱۰۴ - و مصنف عبدالرازاق صفحہ ۷۷ جلد ۴
حدیث ۷۰۲۹، و کتاب الام للشافعی صفحہ ۱۶ جلد ۲ طبع بولاق - و کتاب
الاموال لابی عیند صفحہ ۱۲۷ فقرہ ۱۲ (۱۱۲۷))

”عائشہ بنت قدامہ اپنے والد کا قول نقل فرماتی ہیں کہ جب
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی تنخواہ
وصول کرنے جاتا تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ کیا تمہارے پاس کوئی
مال ایسا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو؟ چنانچہ اگر میں یہ کہتا کہ

”ہاں“ تو میری تنوہ سے اس مال کی زکوٰۃ وصول فرمائیتے، اور میں کہتا کہ ”نہیں“ تو میری تنوہ مجھے دے دیتے۔“

نیز بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تنوہ سے زکوٰۃ وضع کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، البتہ ان کے بارے میں یہ صراحت ملتی ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کے اموالِ باطنیہ کی زکوٰۃ وصول کرتے تھے، جن کی تنوہیں یا وظائف بیت المال سے جاری ہوں، دوسرے لوگوں کی نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل تھا۔ (مؤطا امام مالک صفحہ ۲۷۳) اور حضرت ابن عباسؓ وابن عامرؓ بھی اسی کے قائل تھے۔ (حاشیہ مؤطا امام مالک صفحہ ۲۷۳)

نیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ وہ تنوہیں تقسیم کرتے وقت خود تنوہ کی زکوٰۃ بھی اُسی تنوہ میں سے وصول فرمائیتے تھے، پرانچہ مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ میں ہے :

﴿عَنْ هَيْرَةَ قَالَ : كَانَ أَبْنَ مُسْعُودَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

يَزْكُى عَطْلَاهُمْ مِنْ كُلِّ أَفْ خَمْسَةَ وَعَشْرِينَ ﴾

(مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۱۸۴ جلد ۳)

”حضرت ہبیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی تنوہ ہوں کی زکوٰۃ (اس حساب سے) وصال فرمایا کرتے تھے کہ ہر ہزار پر چھتیں وصول کر لیتے تھے۔“

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے روایوں کی تحقیق فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ :

﴿فَالإِسْنَادُ حَسَنٌ﴾ (اعلاه السنن صفحه ۴۲۹ و ۴۳۰ جلد ۱۲)

”یعنی یہ سند حسن ہے۔“

البئش چونکہ یہاں زکوٰۃ اُن تنوّاہوں کی وصول کی جاتی تھی، جو صاحب تنوّاہ کی ملکیت میں قبضہ کرنے کے بعد آتی ہے، اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریق کاریہ تھا کہ وہ پہلے تنوّاہ دے دیتے پھر اس سے زکوٰۃ وصول فرماتے تھے، چنانچہ مصنف عبدالرازاق میں ہے :

﴿عَنْ هِيَرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ﴾

(مصنف عبدالرازاق صفحہ ۷۸ جلد ۴ حدیث ۷۰۳۶ باب لاصدقۃ فی مال حتی بحول علیہ الحلول)

”بیہودہ بن یہیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ تنوّاہ دے دیتے پھر اس کی زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔“

اور مجمجم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ میں اس روایت کے الفاظ یہ ہیں :

﴿كَانَ يُعْطِي الْعَطَاءَ ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ﴾

اور علامہ نور الدین یمشی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الرواائد میں اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے :

﴿رجاله رجال الصحيح، خلاهییرة، وهو شقة﴾

نیز امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو زیادہ تفصیل اور وضاحت سے نقل فرمایا ہے :

﴿عَنْ هِيَرَةَ بْنِ يَعْوِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْعُودَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَعْطِينَا الْعِطَاءَ فِي زَبَلٍ صَغَارٍ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ الزَّكَاةَ﴾

(کتاب الاموال صفحہ ۴۱۲۸، فقرہ ۱۱۲۸ باب فروض زکاة الذهب والفضة)

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں چھوٹی تھیلیوں میں تنخواہ دیتے پھر اس سے زکوٰۃ وصول فرماتے تھے“۔

تنخواہوں اور وظائف سے زکوٰۃ وصول کرنے کا سلسلہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد بھی جاری رہا، چنانچہ مصنف ابن ابی شہبید رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے :

﴿عَنْ أَبْنَى عُوْنَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : رَأَيْتُ الْأَمْرَاءَ إِذَا أَعْمَلُوا الْعِطَاءَ زُكُوٰةً﴾ (مصنف ابن ابی شہبید صفحہ ۱۸۵ جلد ۳)

”ابن عون حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ (غالباً ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ) کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے امراء کو دیکھا کہ جب وہ تنخواہ دیتے تو اس کی زکوٰۃ وصول کر لیتے“۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اگرچہ اموالِ ظاہرہ و باطنہ کی تفہیق قائم ہو چکی تھی، لیکن ان کے بارے میں بھی مروی ہے :

﴿ عن عمر بن عبد العزیز انه کان یزکی العطا و الجائزہ ﴾
 (مصنف ابن ابی شيبة صفحہ ۱۸۵ جلد ۲)

”حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ
 تنخوا ہوں اور انعامات سے زکوٰۃ وصول فرماتے تھے۔“

اور مصنف عبدالرازاق میں اس روایت کے الفاظ یہ ہیں :
 ﴿ عن جعفر بن برقان ان عمر بن عبد العزیز کان اذا
 اعطى الرجل عطاً و اعماله اخذ منه الزكاة ﴾

(مصنف عبدالرازاق صفحہ ۷۸ جلد ۴، فقرہ ۷۰۳۷)

”جعفر بن برقان“ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ
 اللہ علیہ جب کسی شخص کو اس کا وظیفہ یا اس کی اجرت دیتے
 تو اس سے زکوٰۃ وصول فرمائیتے تھے۔“

یہ معاملہ صرف تنخوا ہوں اور وظائف کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ
 روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المال پر جس کسی مسلمان کا کوئی مالی حق ہوتا تو
 اس کی ادائیگی کے وقت اس کی زکوٰۃ وصول کرنے کا معمول قرون اولی میں جاری
 تھا۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شيبة رحمۃ اللہ علیہ اور سُنْنَة نبیِّنَ رحمۃ اللہ علیہ میں
 مروی ہے :

﴿ عن عمرو بن میمون قال : اخذ الوالی فی زمان عبد الملك
 مال رجل من اهل الرقة يقال له ابو عائشة عشرين الفاً ،
 فادخلت فی بیت المال ، فلما ولی عمر بن عبد العزیز اتاہ
 ولدہ ، فرفعوا مظلومہم الیہ فكتب الی میمون : ادفعوا الیہم . ﴾

اموالهم وخذوا زكاة عامه هذا ، فلولا انه كان مالا ضمارا
اخذ نامنه زكاة مامضى ﴿

(مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۰۲ جلد ۳ ماقالوا فی الرجل بذهب له المال
الستین واخرجہ ايضاً لیھی فی السنن الکبریٰ صفحہ ۱۵۰ جلد ۴)

”عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ عبد الملک کے زمانے میں اہل
رقة کے ایک شخص ابو عائشہ سے ایک گورنر نے زبردستی میں
ہزار وصول کر کے بیت المال میں داخل کر دیئے تھے، جب
حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہوئے تو اس شخص
کے لڑکوں نے آکر داد ری چاہی، اس پر حضرت عمر بن
عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے میمون کو لکھا کہ :
”ان کو ان کے اموال دے دو اور اس سے اس سال کی زکوٰۃ
وصول کرلو، اس لئے کہ اگر یہ مال خمار نہ ہوتا تو ہم اس سے
پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی وصول کرتے۔“

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند
کی تحقیق فرما کر ثابت فرمایا ہے کہ اس کے رجال شفات ہیں اور سند متصل ہے۔
(اعلاء السنن صفحہ ۹ جلد ۹ باب لازکات فی المال النمار)

نیز یہی واقعہ اجمالی طور پر دوسری سند سے مؤٹا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
میں بھی مردی ہے، اور اس میں بھی ایک سال کی زکوٰۃ وصول کرنے کا ذکر موجود
ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

لے مصنف ابن ابی شیبہ کے مطبوعہ نئے میں عبد الملک لکھا ہے، لیکن دوسرے نئے میں اور دوسری
کتابوں میں ولید بن عبد الملک کا ذکر ہے اور وہی صحیح ہے۔

﴿ ان عمر بن عبد العزیز کتب فی مال قبضه بعض الولاء
ظلماً يأ مربده الی اهله، وتوخذ زکاته لما مضى من
السنين، ثم عقب بعد ذلك بکتاب : لا توخذ منه الزکاة الا
زکاة واحدة، فانه كان ضماراً ﴾

(موطأ امام مالک صفحہ ۱۰۷ الزکاة فی الدین)

”حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے مال کے
بارے میں جس پر بعض نے ظلماً قبضہ کر لیا تھا، تحریر فرمایا کہ وہ
مال اس کے مالکوں کو واپس کر دیا جائے، اور اس کی پچھلے
سالوں کی زکوٰۃ بھی وصول کی جائے، لیکن اس کے بعد ایک
اور خط بھیجا کہ اس سے صرف ایک سال کی زکوٰۃ وصول کی
جائے، پچھلے سالوں کی نہیں، کیونکہ وہ مال ضمیر تھا۔“

ان تمام واقعہات میں نقدروپے کی زکوٰۃ سرکاری سطح پر وصول کی گئی، اور
وہ بھی عاشر پر گزرنے کی صورت میں نہیں، اور نہ مال کے شہر سے باہر ہونے کی
حالت میں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی
اللہ تعالیٰ عنہم کا طرزِ عمل تو یہ تھا کہ وہ تنخوا ہیں جاری کرتے وقت ان اموال کی زکوٰۃ
ان تنخوا ہوں سے وصول فرماتے تھے جو تنخوا دار کے گھروں، دکانوں یا دوسرے
مقامات پر ان کی ملکیت میں ہوتے تھے۔ یہ حضرات واحد، الاداع زکوٰۃ تنخوا سے
کاٹ کر باقی تنخوا لوگوں کے حوالے کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ
اللہ علیہ انھی تنخوا ہوں کی زکوٰۃ وصول فرماتے تھے، کیونکہ اگر مالک پہلے سے
لے بھی بندوستانی سخوں میں لفڑا لآلات کی غلطی سے حذف ہو گیا ہے، مجھ عبارت وہی ہے جو اپر
لکھی گئی (اوْزَانُ السَّالِكِ صفحہ ۲۳، جلد ۳)۔

صاحبِ نصاب ہو تو تنخواہ کی اس رقم پر مالِ مستقاد ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، البتہ یہ حضرات تنخواہوں سے زکوٰۃ کائیں کے بجائے پسلے تنخواہ حوالہ فرمادیتے، پھر مالک سے زکوٰۃ وصول فرماتے تھے۔ ہر صورت! اس نقد رقم سے سرکاری طور پر زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، اور یہ سلسلہ اموالِ ظاہرہ اور اموالِ باطنہ کی تفہیق قائم ہونے کے بعد بھی جاری رہا، بلکہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان رقم سے بھی زکوٰۃ وصول فرمائی جو بیت المال میں ظلماء داخل کروی گئی تھیں۔

اس طریق کا راستے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مال کے اموالِ ظاہرہ میں شمار ہونے اور اس سے سرکاری سطح پر زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے اس کا شہر سے باہر لے جانا ضروری نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے نجی مقامات کی تلاشی یا تفتیش کی ضرورت پیش نہ آئے، اور وہ فی الجملہ حکومت کے زیرِ حفاظت آگئے ہوں۔

تنخواہوں وغیرہ سے زکوٰۃ وصول کرنے کا یہ طریقہ اُس دور میں بھی بلا نکیر جاری رہا ہے، اور جو فقہاء حنفیہ نے بھی ان واقعات کو نقل کر کے اس کے تقدیق و تائید فرمائی ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنخواہوں اور وظائف سے زکوٰۃ وصول کرنا خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے اور لکھا ہے :

﴿قَالَ الْقَاسِمُ : وَكَانَ أَبُوبَكْرٌ أَذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاهُمْ

يَسْأَلُ الرَّجُلُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ قَدْ وُجِبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ

قَالَ : نَعَمْ، أَخْذَ مِنْ عَطَانِهِ زَكَاةً ذَلِكَ الْمَالُ ، وَإِنْ قَالَ لَا،

سَلَمْ إِلَيْهِ عَطَاءُهُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي

ختیفہ رحمہ اللہ ﷺ

(مؤطلاً امام محمد صفحہ ۱۷۰ باب الرجل یکن علیہ الدین، هل علیہ فیہ الزکاۃ؟)

اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عائشہ بنت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ روایت نقل کی ہے جو پیچے مؤطلاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گزر چکی ہے۔

نیز علامہ ابن حام رحمۃ اللہ علیہ اور شمس الائمه سرخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مذکورہ بالا واقعہ جس میں غصب شدہ مال کو واپس کرتے ہوئے اُس سے زکوٰۃ وصول کرنے کا ذکر ہے، ذکر فرمائے اُس سے مال ضمار پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے کے مسئلے میں استدلال فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مال سے ایک سال کی جو زکوٰۃ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وصول فرمائی، وہ حفیٰۃ کے نزدیک بھی معمول ہے، ورنہ وہ اس کی تردید یا توجیہ فرماتے۔

بلکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اموال باطنی کی زکوٰۃ کے بارے میں بھی حفیٰۃ کے نزدیک امام کو مکمل اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان کی زکوٰۃ کی وصولیابی کے لئے مصدق بھیج کر سرکاری سطح پر ان کی زکوٰۃ وصول کرے، اور چاہے تو مالکوں کے حوالے کروے کہ وہ اپنے طور پر زکوٰۃ ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے شرح معانی الآثار میں ایک مستقل باب قائم فرمایا ہے : باب الزکاۃ يأخذها الإمام أم لا؟ اور اس میں اپنی عادت کے مطابق دونوں نقطہ نظر بیان فرمائے کے بعد آخر میں لکھا ہے :

﴿وَما وَجَهَّهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَإِنَّا قَدْ رأَيْنَا هُمْ أَهْمَّ لَا يَخْتَلِفُونَ إِنَّ الْإِيمَانَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَى أَرْبَابِ الْمَوَالِيَّةِ السَّائِمَةِ﴾

حتیٰ يأخذ منهم صدقة مواشیهم اذا وجبت فيها الصدقة
و كذلك يفعل في ثمار هم ثم يضع ذلك في مواضع الزكوات
على ما أمره به عزوجل، لابن ذلك أحد من المسلمين،
فالنظر على ذلك ان يكون بقية الا موال من الذهب والفضة
واموال التجارات كذلك وهذا كله قول ابی
حنینۃؓ وابی يوسفؓ و محمدؓ

(شرح معانی الآثار للطحاوی صفحہ ۲۶۴ و ۲۶۵ جلد ۱)

”قياس ونظر کے لحاظ سے بھی اس مسئلے میں صورت حال یہ
ہے کہ علماء کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کو
یہ حق حاصل ہے کہ وہ مُفت چراغاگھوں میں پرمنے والے
مویشیوں کے مالکان کے پاس بھیج کر اُن کے مویشیوں کی زکوٰۃ
وصول کرے جب کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو، اسی طرح ان کے
پھلوں میں بھی اس کو یہ حق حاصل ہے۔ پھر وہ حاصل شدہ زکوٰۃ
کو مصارفِ زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بوجب صرف
کرے، اس بات سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لہذا نظر
و قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ باقی اموال، سونا چاندی اور مال
تجارت کا بھی یہی حکم ہو اور یہ سب کچھ امام
ابوحنینہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد
رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔“

یہاں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی قید و شرط کے بغیر امام کا یہ حق
بيان فرمایا ہے کہ وہ سونا، چاندی اور مالِ تجارت سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے

مُعْتَقِّبِ بِعْدِ سَكَّاتَةٍ هُوَ، بِهَاں اُنہوں نے مصراً غیر مصرکی بھی کوئی شرط نہیں لگائی، اور نہ عاشر کے پاس گزرنے کا کوئی ذکر فرمایا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا یہ اطلاق فقہاء حنفیہ کی دوسری تصریحات سے بظاہر معارض معلوم ہوتا ہے، اور مذکورہ بالا عبارت کے سیاق و سبق میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ان کی یہ ساری گفتگو مامروں علی العاشر سے متعلق ہو، لیکن جہاں تک مذکورہ عبارت کا تعلق ہے، اس میں کوئی قیدیا شرط نہیں ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ ان اموالِ باطنہ سے بھی زکوٰۃ و صول کرنے کا حق حنفیہ کے نزدیک اصلاً نامام کو ہے، البتہ اُس مصلحت کے پیش نظر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھی کہ جہاں لوگوں کے بخی مقامات کی خلاشی یا پڑتاں کی ضرورت پڑتی ہو، وہاں مالکوں کو خود زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور جہاں یہ مصلحت داعی نہ ہو، وہاں وہ اپنے اصل حق کے مطابق زکوٰۃ و صول کر سکتا ہے، چونکہ عاشر پر گزرنے والے اموال میں اس قسم کا کوئی مفسدہ نہیں ہے، اس لئے وہ اپنے اصل حق کے مطابق ان سے زکوٰۃ و صول کر سکتا ہے اور اگر کچھ مزید اموال ایسے ہوں جن سے زکوٰۃ و صول کرنے میں یہ مفسدہ نہ ہو، وہاں بھی امام کا اصل حق عود کر آئے گا، اور وہ ان اموال سے زکوٰۃ و صول کر سکے گا، جس کی نظیریں تنخوا ہوں، وظائف اور مالی مخصوص کے سلسلے میں پیچھے گزر چکی ہیں۔ بلکہ اگر کسی جگہ یہ معلوم ہو کہ لوگ اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، وہاں اس مفسدے کے باوجود امام اپنے اصل حق کے مطابق ان اموال کی زکوٰۃ و صول کر سکے گا، کیونکہ ترکِ زکوٰۃ کا مفسدہ اس مفسدے سے شدید تر ہے۔ یہی بات تقریباً تمام فقہاء حنفیہ نے تحریر فرمائی ہے، مثلاً علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :

﴿ ظاهر قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً الْآيَةُ تُوجِبُ
اَخْذَ الزَّكَاةَ مُطْلَقاً لِلَّامِمَ ، وَعَلَى هَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالخَلِيفَاتُ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا وَلَى عُثْمَانَ وَظَهَرَ
تَغْيِيرُ النَّاسِ كَرِهَ اَنْ يَفْتَشَ السَّعَةُ عَلَى النَّاسِ مُسْتَوْرٍ
اَمْوَالَهُمْ ، فَفُوْضَ الدَّفْعَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ نِيَابَةً عَنْهُ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ
الصَّحَابَةُ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لَا يَسْقُطُ طَلْبُ الْاِمَامِ
اَصْلًا ، وَلَهُذَا لَوْلَمْ اَهْلَ بَلْدَةٍ لَا يَؤْدُونَ زَكَاتَهُمْ طَالِبِهِمْ
بَهَا ﴾ (فتح القدير صفحه ۴۸۷ جلد ۱)

”آیت قرآنی خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً الْآيَةُ کے ظاہری
الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کو مطلقاً (ہر قسم کے اموال
کی) زکوٰۃ وصول کرنا واجب ہے، اور اسی طرز عمل پر رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو
خلیفہ قائم رہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خلیفہ بنے اور لوگوں کے حالات بدل گئے تو آپ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے یہ بات پسند نہ فرمائی کہ محسینین زکوٰۃ لوگوں کے
پوشیدہ اموال کی تفتیش کریں، چنانچہ انہوں نے مالکوں کو
ادائے زکوٰۃ کا حق سونپ کر اس معاملے میں انھیں اپنا نائب
بنادیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس معاملے میں
ان سے اختلاف نہیں فرمایا، لیکن یہ طرز عمل امام کے حق
مطلوبہ کو بالکلیہ ساقط نہیں کرتا، چنانچہ اگر کسی شہر کے لوگوں
کے پارے میں امام کو یہ معلوم ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو

وہ اُن سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے گا۔“

اس عبارت سے صاف واضح ہے کہ اصلاً تمام اموال کی زکوٰۃ وصول کرنے کا حق امام ہی کو ہے، اور اموالِ باطنہ کے سلسلے میں یہ حق ایک مصلحت سے پھوڑا گیا ہے، اور بالکلیہ اب بھی ساقط نہیں ہوا، بلکہ ان اموال کی زکوٰۃ جو مالکان ادا کرتے ہیں وہ بھی امام کے نائب کی حیثیت میں ادا کرتے ہیں، اصلاً ان کو یہ اختیار بھی نہیں تھا، اور اسی لئے اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ کے دین کو فتحیاء نے لہ مطالب من جمہ العباد قرار دیا ہے۔

یہاں بعض حضرات کو یہ شہہر پیش آیا ہے کہ امام ابو بکر جعاص رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کا ذکر فرمایا کر لکھا ہے :

﴿فَجَعَلَ لَهُمْ أَدَاءَهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ وَسَقَطَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكِ
حُقُّ الْأَمَامِ فِي اخْذِهَا لَأَنَّهُ عَقَدَ عَقْدَهُ أَمَامًا مِنْ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ﴾

فهونافذٌ على الأمة ﴿احکام القرآن للجعاص صفحہ ۱۹۰ جلد ۲﴾

”حضرت عثمان غفرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے مالکوں کو یہ حق دے دیا کہ وہ مساکین کو اپنے طور پر زکوٰۃ دے دیا کریں، اور اس لئے اب ان اموال کی زکوٰۃ وصول کرنے کے سلسلے میں امام کا حق ساقط ہو گیا، اس لئے کہ ائمّہ عدل میں سے ایک امام کا کیا ہوا فیصلہ ہے، جو پوری امت پر نافذ ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بعد اموالِ باطنہ سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حق کسی کو نہیں رہا، لیکن امام ابو بکر جعاص رحمۃ اللہ علیہ کی پوری عبارت بغور پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ حق امام

سے ان کی مراد ایسا حق ہے جس کے بعد مالکان اموال کو از خود زکوٰۃ ادا کرنے کا اختیار باقی نہ رہے، اور ان کی ادائیگی کو شرعاً تسلیم نہ کیا جائے۔ چنانچہ ان کی مذکورہ عبارت سے پلے اُن کے الفاظ یہ ہیں :

﴿وَقُولُهُ تَعَالَىٰ حُذْرُمِنْ أَمْوَالَهِمْ صَدَقَةٌ بِدَلْ عَلَىٰ أَنْ أَخْذَ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْإِمَامِ، وَإِنَّهُ مَتَىٰ أَدَاهَا مِنْ وِجْبِهِ عَلَيْهِ إِلَى الْمَسَاكِينِ لَمْ يَجِدْهُ، لَأَنَّ حَقَ الْإِمَامِ قَانِمٌ فِي أَخْذِهِ، فَلَا سَبِيلٌ لِهِ إِلَى اسْقَاطِهِ﴾

”اور باری تعالیٰ کا ارشاد حُذْرُمِنْ أَمْوَالَهِمْ صَدَقَةٌ“ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کا کام امام کے پُرپُر ہے اور یہ کہ اگر وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ اپنے طور پر مساکین کو ادا کرے تو یہ اس کے لئے جائز نہیں، اس لئے کہ امام کا وصولیابی کا حق قائم ہے، اور اسے ساقط کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔“

مذکورہ جملے سے صاف واضح ہے کہ وہ امام کے ایسے حق کا تذکرہ فرمایا ہے ہیں جس کی موجودگی میں مالک کو از خود زکوٰۃ ادا کرنا ناجائز ہی نہ ہو، بلکہ اس سے زکوٰۃ ادا بھی نہ ہو، پھر اسی حق کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ عدل میں سے تھے اور انہوں نے اموالِ باطنیکی حد تک یہ حق ساقط کر دیا، اس لئے یہ حق اب ساقط ہو گیا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت

لئے چنانچہ موصیوں کے بارے میں اب امام کا حق اسی نوعیت کا ہے کہ اس کی موجودگی میں مالک کو از خود زکوٰۃ دینا جائز نہیں، بلکہ بعض فقیہاء کے نزدیک تا اس طرح زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی، بیسوط میں ہے : ﴿فَإِنْ قَالَ دُفَّعْتُهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ لَمْ يَصُدِّقُ وَتَوَحَّدْ مِنَ الرِّزْكَةِ عَنِّنَا﴾

ولنا ان هذا حق مالی یستوفیہ الامام بولایۃ شرعیۃ، فلایہیک من علیہ اسقاط . حقہ فی الإسْتِفَاءِ وَلَا يَرْأَى الْأَدَاءُ إِلَى الْفَقْرَاءِ فِيمَا يَبْيَنُهُ وَيَنْرَهُ وَهُوَ

بعض مشايخنا﴾ (مسوطف صفحہ ۱۶۲ و ۱۶۳ جلد ۲)

عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے لوگوں کے اموالِ باطنیکی زکوٰۃ از خود مساکین کو دنما جائز نہیں تھا اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اختیار انہیں دے دیا، اب یہ بات طے ہو گئی کہ ایسے اموال کے مالکان اگر از خود زکوٰۃ ادا کروں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کا حقِ اخذ بالطیہ ساقط ہو گیا، اور اب وہ زکوٰۃ وصول کرنا چاہے تو وصول نہیں کر سکتا، چنانچہ فتح القدری کی ذکورہ بالاعبارت اس پر صریح ہے کہ

وهدذا یسقط طلب الامام اصلاً

امام ابو بکر جعفرا ص رحمۃ اللہ علیہ کی اس پوری بحث کو اور دوسرے فقیہاء و محمد شین کی عبارتوں اور روایات کو دیکھنے کے بعد اس سلسلے میں جو صورت حال سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ :

○ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک اور حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانوں میں اموالِ ظاہرہ اور اموالِ باطنیوں سے زکوٰۃ سرکاری سطح پر وصول کی جاتی تھی، البتہ اتنا فرق ضرور تھا کہ مویشیوں اور زرعی پیداوار کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے مُصدق بھیجے جاتے تھے، اور نقدوں اور اموالِ تجارت کی لے کر آتیں، لیکن دونوں قسم کے اموال میں ادائے زکوٰۃ کا راستہ یہی تھا کہ رہ حکومت کو دی جائے۔

○ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر سے باہر جانے والے اموال کے بارے میں یہ تدبیلی فرمائی کہ اس کی وصولیابی کے لئے مُصدق مقرر فرمائے، اور باقی اموالِ باطنیکی زکوٰۃ حسب سابق مالکان خود لا لا کر دیتے رہے۔

○ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے میں اموالِ باطنیکی کثرت ہو گئی، آبادی پھیل گئی اور انہوں نے محسوس فرمایا کہ اب اموالِ باطنیکی زکوٰۃ کی سرکاری سطح پر وصولیابی کا یہ سلسلہ کہ اس کے بغیر ادائے زکوٰۃ جائز نہ ہو، اگر

باقی رکھا گیا تو اس کے لئے اموالِ ظاہرہ کی طرح مصدق مقرر کرنے پڑیں گے، اور لوگوں کے نجی مقامات میں ان کی دخل اندازی سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لہذا آپ نے مالکان کو اجازت دے دی کہ وہ ان اموال کی زکوٰۃ خود ادا کر لیا کریں۔

○ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے بعد لوگوں کو اموالِ باطنیک زکوٰۃ اپنے طور پر ادا کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن زکوٰۃ کی وصولیابی کا اصلی حق اب بھی امام ہی کو ہے، چنانچہ دو صورتوں میں اب بھی وہ زکوٰۃ کی وصولیابی کا اہتمام کر سکتا ہے، ایک یہ کہ کسی جگہ کے لوگوں کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور دوسرے یہ کہ کچھ اموالِ باطنیہ اس طرح اموالِ ظاہرہ میں شامل ہو جائیں کہ ان سے زکوٰۃ کی وصولیابی کے لئے نجی مقامات کے تقییش کی ضرورت نہ پڑے۔

○ چونکہ قدیم زمانے میں نجی مقامات کی تقییش کے بغیر اموال کے ظاہر ہو جانے کی جو صورت کثرت سے پیش آتی تھی وہ یہ تھی کہ اموال کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے وقت وہ عاشر پر گزرتے تھے، اس لئے فہمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم نے اس صورت کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے اور اس طرح تعبیر فرمایا کہ ”یہ اموال شہر سے باہر نکل کر اموالِ ظاہرہ میں شامل ہو گئے ہیں اور جو اموال شہر کے اندر ہیں وہ اموالِ باطنیہ ہیں“ اس لئے یہ ”شہر سے باہر نکلنا“ اصل مدار حکم یا بطور علت ہیں، بلکہ اپنے عہد کے لحاظ سے ایک واقعہ کا بیان ہے، ورنہ اصل مدار حکم وہی ہے جس کی بنا پر اموالِ باطنیہ کو زکوٰۃ کی سرکاری وصولیابی سے مستثنی کیا گیا تھا، یعنی تقییش کے بغیر ان کا ظاہر ہو جانا، چنانچہ قرونِ اولیٰ میں ان اموال میں سے بھی زکوٰۃ وصول کی گئی جو شہر سے باہر نہیں ہوتے تھے، لیکن تقییش کے بغیر ظاہر ہوتے تھے مثلاً تنجاویں، وظائف اور حکومت کے اموال مخصوصہ، جس کی روایات پچھے گزر چکی ہیں۔

یہاں بعض حضرات نے یہ شبہ ظاہر فرمایا ہے کہ بعض اموال حکومت پر تفتیش کے بغیر ظاہر ہو جاتے تھے لیکن اس کے باوجود حکومت ان سے زکوٰۃ و صول نہیں کرتی تھی، مثلاً عاشر پر گزرنے والا اگر اپنے خجی مقامات پر رکھے ہوئے اموال کے بارے میں اقرار کر لیتا تو ان کی زکوٰۃ و صول نہیں کی جاتی تھی، جس کی فقہاء نے تقریع فرمائی ہے۔

اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اقرار کے ذریعے تو اموالِ باطنیتیں سے ہر مال ظاہر بن سکتا ہے، لیکن چونکہ جُزوی و اقعات کو کلی احکام کی بنیاد نہیں بنا�ا جاسکتا، اور عاشر کو یہ اختیار نہیں دیا جاسکتا کہ وہ جس مال کو چاہے ظاہر قرار دے کر اس سے زکوٰۃ و صول کر لے، اس لئے اس کو یہ لگا بندھا اصول بتا دیا گیا کہ جو کوئی شخص تمہارے پاس مال لے کر گزرے تو صرف اس مال سے زکوٰۃ و صول کر سکتے ہو جو اس وقت تمہارے سامنے آجائے، اور لوگوں کے گھروں یا دکانوں پر جو مال ہے اُس سے تقریض نہ کرو۔ اس اصول کے تحت "عاشر" کو گھروں میں رکھے ہوئے مال سے تقریض کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اور جب یہ اصول مقرر ہو گیا تو اگر کسی جزوی واقعے میں کوئی شخص اپنے مال باطن کو عاشر پر اقرار کے ذریعے ظاہر بھی کر دے تو یہ ایک استثنائی واقعہ ہو گا، جس سے اصول تبدیل نہیں ہو سکتا، اس لئے اس صورت میں بھی بطور اصول اس سے زکوٰۃ و صول نہیں کی جائے گی۔

ہاں اگر کچھ ایسے اموال پائے جائیں جن کی نوعیت ہی ایسی ہو کہ وہ سب کے سب بذاتِ خود حکومت پر بغیر تفتیش کے ظاہر ہو جاتے ہوں، اور حکومت ان تمام اموال کے بارے میں یہ طے کر دے کہ ان تمام اموال سے زکوٰۃ و صول کی جائے گی تو اس میں شرعی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ تنخواہ، وظائف اور اموالِ مخصوصہ سے جو زکوٰۃ و صول کی جاتی تھی وہ اس کے جواز کی واضح نظریہ

دوسرے الفاظ میں "خروج من المصر" عاشر کے لئے زکوٰۃ وصول کرنے کی اجازت کی تعلیٰ ہے لیکن امام کے لئے وصویٰ زکوٰۃ کے اختیار کی تعلیٰ نہیں، بلکہ اس کے لئے تعلیٰ اموال کا تفتیش کے بغیر ظاہر ہو جانا ہے، چنانچہ جن اموال کی نوعیت ایسی ہو کہ وہ بغیر تفتیش کے ظاہر ہو جاتے ہوں، ان سے مانع تعلیٰ العاشر کی طرح وہ زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم جاری کر سکتا ہے، جیسا کہ تنخوا ہوں وغیرہ کے معاملے میں کیا گیا۔

یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہم "خروج من المصر" کا تذکرہ "باب فین یہ علی العاشر" میں تو فرماتے ہیں، جس کا موضوع یہ ہے کہ عاشر کوں سے اموالِ زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، لیکن جس جگہ امام کے وصویٰ زکوٰۃ کے اختیار کا بیان ہے، وہاں عموماً "خروج من المصر" کو بطور تعلیٰ ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ وہاں تعلیٰ یہی بیان کی جاتی ہے کہ اموالِ باطنہ سے زکوٰۃ وصول کرنے میں لوگوں کے خجی مقامات میں دخل اندازی اور ان کی تفتیش لازم آجاتی ہے جس سے عوام کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ فتح القدری کی عبارت پہنچے گزرچکی ہے، اور امام ابو بکر جعفرا ص رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت مجلس کی تحریر سابق میں نقل کی جا چکی ہے۔



بینک اکاؤنٹس کے قرض ہونے کا مسئلہ

بینک اکاؤنٹس سے زکوٰۃ و صول کرنے پر دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص بینک میں رقم رکھواتا ہے تو شرعاً وہ رقم بینک کے ذمے قرض ہوتی ہے، امامت نہیں، اسی لئے وہ بینک پر مضمون بھی ہوتی ہے اور اس پر زیادتی و صول کرنا شود ہوتا ہے۔ اور جب کسی شخص نے کوئی رقم کسی دوسرے فرد یا ادارے کو بطور قرض دے دی تو وہ اس شخص کی ملکیت سے نکل کر مقرض کی ملکیت میں داخل ہو گئی۔ اب اب پر زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت واجب ہو گی جب وہ رقم اُسے وصول ہو جائے گی، اس سے پہلے زکوٰۃ واجب الاداء نہیں۔ لہذا بینک اکاؤنٹس سے زکوٰۃ وضع کرنے پر پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب الاداء ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ وضع کر لی گئی ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دائرے سے وصول کرنے کے بجائے مدیون کے مال سے وصول کی گئی ہے، حالانکہ اس کی کوئی نظری معمودی الشّرع نہیں ہے کہ ایک شخص کی زکوٰۃ دوسرے کے مال سے وصول کی جائے۔

ذیل میں ان دونوں اعتراضات کی تحقیق مقصود ہے :

ان دونوں مسائل کی تحقیق کے لئے پہلے بینک اکاؤنٹس کی صحیح حدیث متین کرنا ضروری ہے۔

اس میں شک ہیں کہ فقہی اعتبار سے بینک اکاؤنٹ قرض ٹھے۔ لیکن دائئں کے تصرف کے لحاظ سے یہ ایک بالکل نئی قسم کا قرض ہے جو فہماء کرام رحمۃ

اللہ علیہم کے عہد میں موجود نہیں تھا اور جس کی نظریں بھی اس دور میں کم ملتی ہیں، لہذا زکوٰۃ کے حق میں بینک اکاؤنٹس کو بالکل دوسرے دیون اور قرضوں پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا، وجوب زکوٰۃ کے حق میں دین کے اندر اصل دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ دارِ ائمَّہ کے لئے کس حد تک مرجوٰ الوصول ہے، اور دارِ ائمَّہ کا تصرف اس پر کس حد تک برقرار ہے، اسی بناء پر فقیہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم نے وجوب زکوٰۃ کے معاملے میں دین قویٰ دین متوسط اور دین ضعیف کی تقسیم فرمائی ہے، اور اسی بناء پر دین میں محمود کو مالِ مشار میں شامل کر کے اسے زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، جب ہم اس نقطہ نظر سے بینک اکاؤنٹس کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ دین ہونے کے باوجود اس معاملے میں دوسرے عام دیون سے بالکل ممتاز نظر آتا ہے، جس کی وجود درج ذیل ہیں :

(۱) عام قرضوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مُفرض کے قبضے سے نکلنے کے بعد ان پر مُفرض کا کوئی تصرف باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ مقرض کے رحم و کرم پر ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اُسے ادا کرے۔ اس کے برعکس بینک اکاؤنٹس میں مُفرض کے طلب

لے البتہ جن اکاؤنٹس پر نُود کالین دین طے ہوتا ہے، مثلاً سیوگ اکاؤنٹ یا کمڈڈپاٹ، ان میں ایک اور بھی احتمال قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ وہ شرکت فاسدہ یا مشاریت فاسدہ کامال ہو، کیونکہ فقیہائے کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے شرکت یا مشاریت کرتے وقت لفظ کے شائع ہوئے کے مجاہے معین رقم طے کر لی جائے تو شرکت اور مشاریت فاسد ہو جاتی ہے۔ (شای) اور شرکت فاسدہ اور مشاریت فاسدہ دونوں میں جب تک شرکت میں مال واپس نہ لیں ان کے درمیان شرکت فی المک قائم ہو جاتی ہے، اور دونوں اپنے اپنے حصے کے مالک رہتے ہیں۔ وہ رقم دین نہیں بلکہ مال تجارت کے حکم میں رہتی ہے۔ اور غیر سُودی اکاؤنٹس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ اصلاح و دیخت ہی، لیکن خلاف بالازن کی بنا پر وہ مال شرکت ملک بن گیا۔ چنانچہ درحقیقت کتاب الایام عن تصریح ہے کہ دیخت خلاف بالازن سے شرکت ملک بن جاتی ہے۔ (شای صفحہ ۸۲ جلد ۳) اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے سیوگ اکاؤنٹ کو اسی بناء پر شرکت ملک کامال قرار دیا ہے۔ (امداد الفتاوی صفحہ ۳۰۹ جلد ۳)

اگر ان اکاؤنٹس کی یہ توجیہ درست ہو تو ان اکاؤنٹس کے دین ہونے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس توجیہ میں تائل یہ ہے کہ اس کے مطابق ان اکاؤنٹس میں رکمی ہوئی رقم پر مضمون نہ ہوگی، عالمانکہ فریقین کی طرف سے مضمون ہونا شرط ہوتا ہے۔ فلیتا مامل

کرنے پر فوری ادائیگی نہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، اور یہ بینک کی طرف سے صرف زبانی اقرار نہیں ہوتا، بلکہ بینکوں کا مسلسل بلا تخفیف طرز عمل یہی ہے، جس کے بغیر بینک چل ہی نہیں سکتے، لہذا یہ قرض کی وہ قسم ہے جس میں مفترض اپنی رقم جب چاہے فوراً بلا تخفیف واپس لے سکتا ہے اور عملاً وہ ایسی ہی قابلِ اعتماد ہے جیسے اپنی تجوری میں رکھی ہوئی رقم، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ تجوری کی رقم میں بلاک ہونے کا خطرہ ہے، لیکن بینک اکاؤنٹ میں ایسا خطرہ بھی نہیں ہے۔

(۲) بینک اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم پر ہر اکاؤنٹ ہولڈر ٹھیک اسی طرح تصرف کرتا ہے جس طرح اپنی الماری میں رکھی ہوئی رقم پر تصرف کرتا ہے۔ اس وقت تجارت کا سارا کاروبار بینک اکاؤنٹ میں ہی پر چل رہا ہے اور یہ مشتری ادائیگیاں بینک ہی کے ذریعے ہوتی ہیں۔

(۳) عُرف عام میں بھی بینک میں رقم رکھوانے کے بعد کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے یہ رقم کسی کو قرض دے دی ہے، بلکہ وہ اُسے اپنی ہی رقم سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی رقم ہی کا سامانہ کرتا ہے، جب کوئی شخص اپنے حاضر و غائب مال کی فہرست بناتا ہے تو بینک اکاؤنٹ کو مال حاضر میں شمار کیا جاتا ہے، مالِ غائب میں نہیں۔

(۴) عام قرضوں کا حال یہ ہے کہ معاهدہ قرض کا محض مُستقرض ہوتا ہے، لیکن یہاں محض مُقرض ہوتا ہے، اور اس کا اصل منشاء قرض دینے کے بجائے اپنے مال کی حفاظت ہوتا ہے۔

عام قرضوں کے مقابلے میں بینک اکاؤنٹ کی ان وجوہ فرق کو ذہن میں رکھ کر قرضوں پر زکوٰۃ کے مسئلے پر غور فرمائیے۔

بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ وصول کرنے پر پہلا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ قرضے پر اگرچہ زکوٰۃ فرض تو ہوتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوتی

ہے، جب وہ دائر کے قبضے میں واپس آجائے، اور زیر بحث صورت میں دائِر کے قبضے میں آنے سے پہلے ہی زکوٰۃ وضع کی جا رہی ہے۔

اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ قرضوں پر زکوٰۃ کا نفس و جوب تو تحقیق علیہ ہے، البتہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مُفْرِض کو یہ سہولت دی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر واجب اس وقت ہوگی جب قرضے کی رقم اُسے واپس ملے گی، چنانچہ جب بھی چالیس درہم کی مقدار اس کے پاس واپس آئے گی، ایک درہم بطور زکوٰۃ ادا کرنا اس پر واجب ہو گا، اس سہولت کا پس منظر اور اس کی اصل وجہ مندرجہ ذیل روایات سے واضح ہوتی ہے :

(۱) امام یہی روایت فرماتے ہیں :

عن حمید بن عبد الرحمن بن عبدالقاری، وكان على
بیت مال عمر رضی الله عنہ قال: كان الناس يأخذون من
الدین الزکاة، وذلك ان الناس اذا خرجت الاعطية حبس
لهم العرفاء دیونهم، وما باقی فی ایدیہم اخرجت زکاتہم
قبل ان یقبضوا، ثم داین الناس بعد ذلك دیونا هالكة فلم
یکونوا یقبضون من الدین الصدقة الا ما نصّ منه ولکنهم
كانوا اذا قبضوا الدین اخرجوا عنہما ماضی ﴿
(الستن الکبری لییہی صفحہ ۱۵ جلد ۴، باب زکۃ الدین اذا کان علی مصر
او جاحد)

”حید بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عبد القاری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال پر مقرر تھے، فرماتے ہیں کہ لوگ دین سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ جب لوگوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کا وقت آتا تو عرفاء ان کے دیون کا

حاب کرتے، اور جو باقی بچتا اس کی زکوٰۃ ان کے قبضہ کرنے سے پہلے ہی نکال لی جاتی، لیکن اس کے بعد لوگوں نے ایسے دیون کا معاملہ شروع کر دیا جو بعض اوقات ضائع ہو جاتے تھے، اس لئے حکام صرف اُس دین سے زکوٰۃ وصول کرتے جو نقد محل میں آجاتا، لیکن لوگ جب اپنے قرضوں پر قبضہ کرتے تو زمانہ گزشتہ کی زکوٰۃ بھی نکالتے تھے۔

اس روایت سے واضح ہے کہ اصلاً دیون کا حکم بھی یہی تھا کہ سال بحال اُن کی زکوٰۃ ادا کی جائے، خواہ وہ قبضے میں نہ آئے ہوں، لیکن چونکہ بعض مرتبہ لوگ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، اور بعد میں دیون وصول نہیں ہوتے، اس لئے یہ سہولت دی گئی کہ دیون کی زکوٰۃ دیون وصول ہونے کے بعد دی جائے، لیکن جب ادا کی جائے تو ساہماً گزشتہ کی بھی ادا کی جائے۔ اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی ایک بڑی جماعت کا مسلک پی رہا ہے کہ مدیون اگر قابل اعتماد ہے تو زکوٰۃ کی ادا بھی کے لئے وصولیابی کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ سال کے سال زکوٰۃ ادا کی جاتی رہے، چنانچہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن عمر، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت جابر بن زید، حضرت مجاهد، حضرت ابراہیم نفعی، حضرت میمون بن ہرآن، حضرت قادة اور حضرت سعید بن المیسر رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کا مسلک پی تھا۔

(کتاب الاموال لابی عبید صفحہ ۲۳۲ باب الصدقۃ فی التجارات والدین فقرہ نمبر ۱۲۳ و مصنف

عبد الرزاق صفحہ ۱۰۳ جلد ۳ باب لازکۃ الائین الناض)

اسی کو امام ابو عبید[ؒ] نے ترجیح دی ہے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ (ہدایۃ الحجاج صفحہ ۱۳۰ جلد ۳)

لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ دین خواہ کتنے قابلِ

اعتماد شخص کے پاس ہو، اس میں چونکہ عدم ادا بھی کا احتمال بھی رہتا ہے، لہذا جب تک وہ مالک کے قبضے اور تصرف میں نہ آجائے اس وقت تک وجوب ادا نہیں ہو گا، اس کے لئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے استدلال فرمایا ہے جسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں :

﴿عَنْ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : إِذَا

كَانَ ذَلِكَ دَيْنُ عَلَى النَّاسِ فَقِبْضَهُ فَزَكَاهُ لِما مَضِيَ قَالَ مُحَمَّدٌ :

وَبِهِ تَأْخِذُ وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿كِتابُ الْآتَارِ صَفْحَةُ ۱۰۸﴾

”حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا دین لوگوں پر ہوا اور وہ اس پر قبضہ کر لے تو زمانہ ماضی کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں اپنے مسلک کی بنیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر رکھی ہے۔

اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد امام تیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ان الفاظ میں روایت فرمایا ہے :

﴿عَنْ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الدِّينِ الظَّنُونِ قَالَ :

إِنْ كَانَ صَادِقاً فَلِيزَكُهُ إِذَا قِبْضَهُ لِمَا مَضِيَ﴾

”جس دین کی وصولیابی محفوظ ہو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ”اگر دائرہ سچا ہے تو دین پر قبضہ کرنے کے بعد پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔“

امام ابو عبید نے ”دینِ ظنون“ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ

﴿ هُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ إِنْ قَضَيْهِ الَّذِي عَلَيْهِ الدِّينُ أَمْ لَا بِ؟ ﴾

(بیہقی صفحہ ۱۵۰ جلد ۴ و کتاب الاموال صفحہ ۴۳۱ فقرہ ۱۲۲ و مصنف ابن ابی شیبۃ صفحہ ۱۶۲ جلد ۳)

یعنی ”یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ مدیون اُسے ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟“

اور اس ارشاد کی تفصیل امام ابن ابی شیبۃ رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں روایت فرمائی ہے :

﴿ عَنْ الْحَسْنِ قَالَ : سُئِلَ عَلَىٰ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدِّينُ عَلَى الرَّجُلِ ، قَالَ : يَرْكِبُهُ صَاحِبُ الْمَالِ فَإِنْ تَوَلَّ مَا عَلَيْهِ وَخَشِنَّ إِنْ لَا يَقْضِي ، قَالَ : يَمْهُلُ فَإِذَا خَرَجَ أَدِي زَكَةَ مَالِهِ ﴾
(مصطفیٰ ابن ابی شیبۃ صفحہ ۱۶۲ جلد ۳)

”حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کسی شخص کا دین دوسرا پرواجب ہو (تو وہ کیا کرے؟) آپ نے فرمایا کہ مالک اس کی زکوٰۃ نکالے، لیکن اگر اُسے یہ اندیشہ ہو کہ مدیون ادا نہیں کرے گا تو وہ نہ ہر جائے، اور جب دین وصول ہو جائے تو اس وقت ادا کروے۔“

اس معلوم ہوا کہ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف وہی ہے جو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا ہے۔ یعنی :

﴿أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا : مِنْ أَسْلَفِ مَالًا فَعَلَيْهِ زَكَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ إِذَا كَانَ فِي ثَقَةٍ﴾ (السنن الکبری للیہقی صفحہ ۱۴۹ جلد ۱)

”عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه اور عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو کوئی مال قرض دے تو اس پر ہر سال اُس کی زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ قابل اعتماد جگہ پر ہو۔“

اور حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنہ کے مکمل الفاظ یہ ہیں

﴿رُتِكُوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ، وَمَا كَانَ فِي دِينِ فَهُوَ بِمُنْزَلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ، وَمَا كَانَ فِي دِينِ ظُنُونٍ فَلَا زَكَةٌ فِيهِ حَتَّى يَقْبَضُهُ﴾

(یہقی صفحہ ۱۵۰ جلد ۲، ومصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۱۶۲ جلد ۳)

”جو مال تمہارے ہاتھوں میں ہو اس کی زکوٰۃ نکالو، اور جو دین قابل اعتماد جگہ پر ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے قبضے کا مال، اور جو دین ظُنُون ہو تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں جب تک وہ قبضے میں نہ آجائے۔“

حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنہ کے اس ارشاد کا ایک حصہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے اور اس سے دین کے مسئلے میں مالکیہ کے خلاف استدلال فرمایا ہے :

﴿عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنَى عَمِيرٍ رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي

الَّذِينَ يُرْجَىٰ، قَالَ: زَكْهُ كُلِّ عَامٍ ﴿۶﴾

(کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ صفحہ ۴۷۲ جلد ۱)

”حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس دین کے بارے میں فرمایا جس کی وصولیابی کی امید ہو کہ اس کی زکوٰۃ ہرسال نکالو۔“

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فقیہاء حنفیہ رحمۃ اللہ علیہم نے اس باب میں اپنے مسلک کی بنیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر رکھی ہے، اور ان کے نزدیک اگرچہ قبضے کے بعد زکوٰۃ کا وجوب صرف اس صورت میں ہے جب کہ دین کی وصولیابی مظنوں ہو، جہاں وصولیابی کا وثوق نہ ہو، وہاں ان کے نزدیک وجوب ادا بھی قبضے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، لیکن فقیہاء حنفیہ رحمۃ اللہ علیہم نے اس پہلو پر نظر فرمائی کہ معروف دیون میں سے ہر دین میں ”خواہ وہ کتنے ہی قابل اعتماد شخص کے پاس ہو، عدم ادائیگی کا کچھ نہ کچھ خطرہ ضرور ہوتا ہے، لہذا انہوں نے ہر دین قوی کو ”دین مظنوں“ قرار دے کر یہ عام حکم لگادیا کہ اس پر نفسِ وجوب تو ہو جاتا ہے، لیکن وجوب ادا قبضے کے بعد ہو گا۔

اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر جب ہم پینک اکاؤنٹس کا جائزہ لیتے ہیں، اور عام دیون کے مقابلے میں اُن کی جو وجوہ فرق شروع میں بیان کی گئیں، اُن کو دیکھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دین قوی کی وہ قسم ہے جو فقیہاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے عہد میں موجود نہیں تھی، یا اس کی نظریں شاذ و نادر تھیں، اور اس قسم کو ”دین مظنوں“ کسی طرح قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ وصولیابی کے لیقین، دائرے کے آزادانہ تصرفات اور عرف عام کی رو سے بالکل اس طرح دائرے کی ملکیت اور تقدیری قبضے میں رہتا ہے جیسے اپنے گھر میں رکھا ہوا مال، لہذا حضرت عبد اللہ بن

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ میں بمنزلة مافی ایدیکم کا اطلاق اس سے زیادہ کسی دین پر نہیں ہو سکتا۔

اس کے علاوہ اگر بینک اکاؤنٹس پر زکوٰۃ کے وجوب اداعے کے لئے دوسرے دیون کی طرح ان کے نقد ہونے کی شرط لگائی جائے تو اس سے اتنی عملی پچیدگیاں پیدا ہوں گی کہ زکوٰۃ کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی بست مشکل ہو جائے گی، امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے تو عام دیون کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ :

﴿ وَإِنَّمَا اخْتَارُوا - أَوْ مِنْ اخْتَارَ مِنْهُمْ - تَرْكَةَ الدِّينِ مَعَ عِينِ الْمَالِ لَا نَّمِنَ تَرْكَ ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى التَّبْصِرِ لَمْ يَكُنْ يَقْفَ مِنْ زَكَّةَ دِينِهِ عَلَى حَدٍّ، وَلَمْ يَقْمِ بِأَدَانِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الدِّينَ رِبَّا اقْتِصَادَ رِبَّهِ مُقْطَطاً، كَالَّذِي رَاهِمَ الْخَسْتَةَ وَالشَّرَّةَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْلَّ، فَهُوَ يَحْتَاجُ فِي كُلِّ دَرْهَمٍ يَقْتَصِيهِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا غَابَ عَنْهُ مِنَ السَّنِينِ وَالشَّهُورِ وَالآيَاتِ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ زَكَّاتِهِ بِحِسَابِ مَا يَصِيبُهُ وَفِي أَقْلَّ مِنْ هَذَا مَا تَكُونُ الْمَلَلَةُ وَالْتَّفَرِيطُ، فَلَهُذَا الْأَخْذُ وَالْهُوَ بالاحْتِيَاطِ، فَقَالُوا : يَزْكِيْهُ مَعَ جَمْلَةِ مَالِهِ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ، وَهُوَ عِنْدِيْ وَجْهُ الْأَمْرِ ﴾

(کتاب الاموال صفحہ ۴۳ فقرہ ۱۲۳۶)

”جن حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ دین کی زکوٰۃ عین مال کے ساتھ ہی ادا کی جائے، انہوں نے اس ملک کو اس لئے اختیار فرمایا کہ جو شخص دین کی زکوٰۃ کو قبضہ ملنے تک مؤخر کرے گا وہ اپنے دیون کی زکوٰۃ کو حد کے مطابق معلوم کر کے

اس کی صحیح ادائیگی نہ کر سکے گا، اس لئے کہ دین بعض اوقات قطعوں میں وصول ہوتا ہے، مثلاً کبھی پانچ مل گئے، کبھی دس کبھی زیادہ، کبھی کم، اب اسے جو درہم بھی حاصل ہو گا اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ کتنے سال کتنا ہے، کتنے دن اس کے قبضے سے خارج رہا ہے، پھر وہ اسی کے حساب سے زکوٰۃ نکالے گا، اور اس عمل میں مشقت اور کوتاہی کا برا امکان ہے، اس لئے ایسے شخص کے لئے ان علماء نے احتیاط پر عمل فرمایا، اور یہ حکم دے دیا کہ وہ ہر سال اپنے دوسرے ماں کے ساتھ دین کی زکوٰۃ بھی نکال دیا کرے، اور یہی میرے نزدیک صحیح طریقہ ہے۔

لیکن عام دیون کے بارے میں یہ دُشواری قابلِ لحاظ ہو یا نہ ہو، لیکن بینک اکاؤنٹس کے بارے میں تو اس قسم کا حساب و کتاب عملی اعتبار سے تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ عام طور پر ان اکاؤنٹس سے بعض اوقات ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ رقمیں نکالی اور نئی داخل کی جاتی ہیں، اور قبضے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ہر اکاؤنٹ ہولڈر اپنے اکاؤنٹ کے ہر ہر روپے کے بارے میں یہ ریکارڈ پوری طرح محفوظ رکھے کہ وہ کتنے عرصے پر بینک میں رہا ہے، تاکہ اس پر واجب ہونے والی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کر سکے، اور جب کوئی رقم بینک سے نکالے تو پہلے یہ حساب کرے کہ یہ رقم کتنے سال بینک میں رہی ہے، اور اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرے، اور اس میں جو عملی تعذر ہے وہ مخفی نہیں۔ اور خود فقہائے حفیہ رحمۃ اللہ علیہم نے ماں مستفاد کا الگ سال شمار نہ کرنے پر ایک دلیل بھی عملی تعذر کی پیش کی ہے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو مال مستفاد پر الگ سال شمار کرنے والوں پر طنز فرماتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے

﴿يَنْبُغِي لِصَاحِبِ هَذَا الْمَالِ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّىٰ يَحْسِبُونَ
زَكَاتَ مَالِهِ مَتَى تَجْبُ؟ أَرَايْتَ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ يَفِيدُ الْيَوْمَ النَّافِعَ
وَغَدَّا الْفَيْنَ وَبَعْدَ غَدَّ ثَلَاثَةَ أَلْفٍ، وَبَعْدَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَلْفٍ
وَبَعْدَ ذَلِكَ بِعْشَرِينَ يَوْمًا عَشْرَةَ أَلْفٍ، أَيْنَبُغِي لَهُ أَنْ يَزِّكَّى كُلَّ
مَالٍ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ عَلَىٰ حَدَّةٍ؟ وَهَذَا قَوْلٌ ضَيْقٌ لَا يَوْافِقُ
مَا عَلَيْهِ النَّاسُ، يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَجْمِعَ مَالَهُ كُلَّهُ ثُمَّ يَزِّكَّى إِذَا
وَجَبَتِ الزَّكَاةُ عَلَىٰ مَالِهِ الْأَقْلَى﴾

(کاب الحجۃ علی اہل المدینہ صفحہ ۴۹۱ و ۴۹۲ جلد ۱)

” (ان حضرات کے قول کے مطابق) تو ہر صاحبِ مال کو
چاہئے کہ وہ باقاعدہ محاسب اس کام کے لئے بخانے کہ وہ اس
کی زکوٰۃ کا حساب کیا کریں کہ وہ کب واجب ہوگی؟ ذرا غور
تو فرمائیے کہ ایک شخص کے پاس آج ایک ہزار آتے ہیں، کل
دو ہزار، پرسوں تین ہزار، اس کے بعد پانچ ہزار، پھر میں دن
کے بعد دس ہزار، تو کیا وہ ان تمام رقموں کی الگ الگ زکوٰۃ
نکالے گا؟ یہ تو بہانگ قول ہے جو لوگوں کے طرزِ عمل کے
موافق نہیں، اس کے بجائے اسے چاہئے کہ وہ اپنا سارا مال
جمع کر کے پھر سارے مال کی زکوٰۃ ایک ساتھ اسی وقت نکالے
جب اس کے پہلے مال پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی۔“

اور حضرت ابراہیم فتحی رحمۃ اللہ علیہ ”بِوْفَقْرِهِ حَقِّی کا بہت بڑا مأخذ ہیں“
اُن کا ایک ارشاد امام ابن الجیش شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں روایت فرمایا
ہے کہ :

﴿وَمَنْ كَانَ لِهِ مِنْ دِينٍ فَلِيَزْكُرْهُ، وَمَا كَانَ لَا يُسْتَقْرِئُ عَطْلِيهِ
الْيَوْمَ وَيَأْخُذُ إِلَى يَوْمِنْ فَلِيَزْكُرْهُ﴾

(مصطفیٰ ابن بی شیبہ صفحہ ۱۶۲ جلد ۳)

”جس شخص کا کوئی دین کی قابل اعتماد شخص پر ہو، اُس کو چاہئے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے“ اور جو دین ایک حالت پر نہ رہتا ہو، آج وہ کسی کو دیتا ہو اور دو دن تک واپس لے لیتا ہو، اس کی بھی زکوٰۃ نکالے۔“

اس کا مفہاٰء بھی غالباً یہ ہے کہ دیون کی جو رقمیں آتی جاتی رہتی ہوں ان کا الگ الگ حساب رکھنا چونکہ مُتعدد ہے، اس لئے ان سب کی زکوٰۃ ایک ساتھ ہی نکالنی چاہئے، اور اس قسم کے دیون کی جتنی مکمل مثال بینک اکاؤنٹس ہیں اتنی مکمل مثال شاید کوئی اور ممکن نہ ہو۔ لہذا ان تمام دلالت کی روشنی میں بینک اکاؤنٹس سے زکوٰۃ وصول کرنے پر یہ اعتراض درست نہیں رہتا کہ ان کی زکوٰۃ و جوب ادا سے پہلے وصول کر لی گئی ہے، بلکہ مذکورہ بالا دلالت کی رو سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان اکاؤنٹس کا و جوب ادا بھی اُسی وقت ہو جاتا ہے، جب دوسری رقموں کا سال پورا ہو۔

بینک اکاؤنٹس کے دین ہونے کی بنیاد پر ان سے زکوٰۃ وضع کرنے پر دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص نے کوئی رقم بینک کو قرض دے دی تو وہ اس کی ملکیت سے نکل کر بینک کی ملکیت میں آگئی، لہذا جس رقم سے حکومت زکوٰۃ وصول کر رہی ہے وہ بینک کی ملکیت ہے، اور اس کی کوئی نظیر شریعت میں نہیں ہے کہ ایک شخص کی زکوٰۃ دوسرے کے مال سے وصول کی جائے۔

اس اعتراض کے جواب میں عرض یہ ہے کہ جس دین کی وصولیابی اتنی مثبت ہو جتنی بینک اکاؤنٹس میں میقّن ہوتی ہے، اس سے زکوٰۃ کی وصولیابی بھی

متعدد نظیریں موجود ہیں کہ اس کو تقدیر آدارئ کے قبیلے میں قرار دے کر اس سے زکۃ و صول کی گئی ہے، چند نظائر درج ذیل ہیں :

① یچھے گزر چکا ہے کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت غر، حضرت عثمان، رضی اللہ تعالیٰ عنہم زکوٰۃ کی رقم دی جانے والی تنوہا ہوں سے کاث لیتے تھے، امام ابو عییدؓ کی روایت کے یہ الفاظ یچھے گزرے ہیں کہ :

﴿فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا قَدْ حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ قَاتَهُ مَا
يُرِيدُ إِنْ يَعْطِيهِ﴾ (کتاب الاموال صفحہ ۴۱)

”اگر تنوہ لینے والا یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایسا مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تنوہ اُسے دینا چاہتے تھے اس میں سے زکوٰۃ کاث لیتے تھے۔“

ظاہر ہے کہ تنوہ کی وصولیابی سے پہلے وہ بیت المال پر دین ہی تھا، اور چونکہ صاحب تنوہ کا اس پر قبضہ نہیں ہوا تھا، اس لئے ابھی وہ حقیقتہ اس کی ملکیت اور قبضے میں نہیں آیا تھا، لیکن قبضے میں آنے سے پہلے ہی اس سے زکوٰۃ وضع کرنا اس لئے تھا کہ وہ دین میتھن ہونے کی بنیار تقدیر ا صاحب تنوہ کے قبضے میں آپکا تھا۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ مؤطا میں نقل کر کے اس پر ترجمۃ الباب یہ قائم فرمایا ہے کہ :

﴿بَابُ الرِّجْلِ يَكُونُ لِهِ الدِّينُ هُلْ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ؟﴾

اور پھر یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ :

﴿كَانَ أَبُوبَكَرٌ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاهُمْ سِبْلَ الرَّجْلِ هُلْ
عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ قَدْ وُجِبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ أَخْذُ مِنْ

عطائے زکاۃ ذلک المال، وان قال لا، سلم الیہ عطااءہ ﴿

اور پھر فرمایا ہے :

﴿ قال محدث : وبهذا نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة رحمة

الله ﷺ (مؤطراً مام محدث صفحہ ۱۷۰) ﴾

اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبرؑ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کے اس عمل کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ :

﴿ وفيه دلالة على أئمَّةٍ كانوا يأخذون زكوة العطاء لكونه

دينا مستحقاً على بيت المال والآمِّيْن لا يأخذ الزكوة منه

معنى ﴿

(اعلاه السنن صفحہ ۴۳۰ جلد ۱۲ کتاب السیر، باب العطاء بیوت صاحبہ بعد ما یستوجبه)

”ان روایات سے معلوم ہوا کہ وہ تخواہوں سے زکوٰۃ اس لئے وصول کرتے تھے کہ وہ بیت المال پر دین ہوتی تھیں۔ حالانکہ دین اُجرت دین قرض سے ضعیف ہے۔ ورنہ ان تخواہوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے کوئی معنی نہیں تھے۔“

ان تمام روایات و عبارات میں اس بات کی واضح دلیل موجود ہے کہ دین میثاق کے قبضے میں آنے سے پہلے ہی اُس سے زکوٰۃ وصول کی جاسکتی ہے، کیونکہ وہ میثاق ہونے کی بنا پر تقدیر امامک کے قبضے میں ہے۔

② حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابو عیید فرماتے ہیں کہ :

﴿عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنَى عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يَكُونُ
عِنْدَهُ يَتَامَى فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلاَكِ، ثُمَّ
يَخْرُجُ صَدَقَتِهَا مِنْ أَمْوَالِهِ وَهِيَ دِينُ عَلَيْهِ﴾

(کتاب الاموال صفحہ ۴۵۱، فقرہ ۱۳۰۹ مزید ملاحظہ فی الشذوذ الکبریٰ
لیلیهٗ) صفحہ ۱۴۹۰ جلد ۴، ومصنف عبدالرزاق صفحہ ۷۰ و ۹۸ و ۹۹
(جلد ۴)

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرسی میں
یتامی ہوتے تھے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے
اموال کو اپنے ذمے قرض بنا لیتے تھے، تاکہ ان کو ضائع ہونے
سے پچائیں، پھر ان کے اموال سے ان کی زکوٰۃ نکالتے تھے،
درآمد نہیک وہ مال ان کے ذمے دین ہوتا تھا۔“

یہاں یہ مسئلہ تو علیحدہ ہے کہ نابالغ کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اور
مذکورہ واقعے میں ”یتامی“ سے مراد نابالغ یتامی ہیں یا بالغ یتامی؟ لیکن یہاں جوبات
قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یتامی پر زکوٰۃ
فرض بھختے تھے، اور ان کے اموال کو خود قرض لے لیتے تھے پھر ان سے قرض
ہونے کی حالت ہی میں زکوٰۃ نکلتے تھے۔ یہ صورت موجودہ ہیںک اکاؤنٹس کی
صورت سے بہت فریب ہے کہ دونوں جگہ رقم کو ودیعت کے بجائے قرض بنانے کا
مقصد ان اموال کو مضمون بنانا ہے اور باوجود یہ وہ رقمیں قرض لینے کے بعد
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں آگئیں، لیکن انہوں نے انھی
رقوں سے اصل مالکوں کی زکوٰۃ ادا فرمائی۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین
ستین کو تقدیر آدارئن کے قبضے میں قرار دے کر اس سے زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے۔



زکوٰۃ کی نیت کا مسئلہ

پہنچ اکاؤٹس سے زکوٰۃ کی وصولیابی پر تیرا شہر یہ کیا گیا ہے کہ بیکوں سے جبراً زکوٰۃ وصول کرنے کی صورت میں اصحاب اموال کی طرف سے نیت متحقق نہیں ہوگی، حالانکہ نیت ادائے زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔

اس سلسلے میں مجلس کی سایتہ تحریر میں عرض کیا گیا تھا کہ جن اموال کی زکوٰۃ وصول کرنے کا اختیار حکومت کو ہے، ان میں حکومت کا وصول کر لیتا بذاتِ خود نیت کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور دلیل میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت بھی پیش کی گئی تھی کہ :

﴿وَفِي مُختَصَرِ الْكَرْخِيِّ إِذَا أَخْذَهَا الْأَمَامُ كَرْهًا فَوَضَعَهَا
مُوْضِعَهَا أَجْزًا، لَأَنَّ لَهُ وِلَايَةً أَخْذَ الصَّدَقَاتِ فَقَامَ أَخْذَهُ
مَقَامَ دُفَّ الْمَالِكِ، وَفِي الْقُنْيَةِ: وَفِيهِ اشْكَالٌ لَأَنَّ التَّيَّةَ فِيهِ
شَرْطٌ وَلَمْ تَوْجُدْ مِنْهُ أَهْلَ قُلْتَ: قَوْلُ الْكَرْخِيِّ فَقَامَ أَخْذَهُ الْحُجَّ
بِصَلْحٍ لِلْجَوَابِ - تَأْمِلُ ﴾ (شامی صفحہ ۲۵ جلد ۲)

اس پر بعض حضرات نے یہ شہہ ظاہر فرمایا ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ عبارت کے متعلق بعد تحریر فرمایا ہے ::

﴿ثُمَّ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالْمَفْتَى بِهِ التَّفْصِيلُ: إِنْ كَانَ فِي

الاموال الظاهرة يسقط الفرض لأن للسلطان اونانه ولاية
أخذها وان لم يضعها موضعها لا يبطل اخذه ، وان كان فى
الباطنة فلا)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ اگر جبراً وصول کر لی جائے تو وہ ادا
نہیں ہوگی۔

اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مجلس نے اپنی تحریر سابق میں جو الفاظ لکھے
تھے کہ ”حکومت کو جن اموال کی زکوٰۃ وصول کرنے کا حق ہے ان میں حکومت کا
وصول کر لیتا بذاتِ خود نیت کے قائم مقام ہو جاتا ہے“۔ وہ اسی عبارت کے پیش
نظر لکھے تھے، کیونکہ مذکورہ عبارت میں مدار اس پر ہے کہ سلطان کو ”ولایتِ اخذ“
حاصل تھی یا نہیں؟ اور یہ نیک اکاؤٹس سے ”ولایتِ اخذ“ کے دلائل پیچھے تفصیل
کے ساتھ بیان کئے جا چکے ہیں، لہذا زیرِ بحث مسئلے میں مذکورہ عبارت سے حکم میں
کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

اور جن اموال کی زکوٰۃ وصول کرنے کا حق حکومت کو ہے اُن میں حکومت
کی وصولی کا نیت کے قائم مقام ہو جانا ائمہ اربابہ کے نزدیک مسلم ہے، اگرچہ ائمہ
ملاش نیت کے معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ بعض صورتوں میں دلالۃ نیت کو بھی
معتبر نہیں مانتے، مثلاً اگر کوئی شخص اپنا سارا مال بغیر نیتِ زکوٰۃ کے صدقہ کروے تو
”خفیہ“ کے نزدیک اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ (عامگیریہ صفحہ ۱۷ جلد ۱)
لیکن ائمہ ملاش کے نزدیک نیت کے فُقدان کی وجہ سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی۔

(المفہی لابن قدامة صفحہ ۲۳۹ جلد ۲۔ والخطاب صفحہ ۳۵۷ جلد ۲)

لیکن حکومت کی وصولیابی کے سلسلے میں ائمہ ملاش بھی اس پر متفق ہیں کہ
وہ نیت کے قائم مقام ہو جاتی ہے، چنانچہ فقرہ ماکی کی معروف کتاب ”مواہب
الجلیل“ میں ہے :

﴿اذا اخرج رجل الزَّكَاة بغير علم من هى عليه وغير اذنه
فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ مُخْرَجُ الزَّكَاةِ الْأَمَامَ فَالزَّكَاةُ مُبْحَرَةٌ﴾

(مواهب الجليل للخطاب صفحه ٣٥٦ جلد ٢)

اور فقیر شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب "نہایۃ المحتاج" میں ہے :

﴿الاَصْحَ عند الشافعية ان نية السلطان تکفى اذا اخذ
زَكَةَ الْمُتَنَعِ﴾ (نہایۃ المحتاج صفحہ ١٢٨ جلد ٣)

اور علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

﴿وَلَا يَحُوزُ اخْرَاجُ الزَّكَاةِ الْأَبْيَةِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْأَمَامُ مَدِّهِ
فَهُوَ أَكْبَرُ﴾ (المختن لابن قدامہ صفحہ ٢٢٨ جلد ٢)

پھر یہ ساری تفصیل تو زکوٰۃ کی وصولیابی کے وقت زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہے اور اگر کسی کو اس میں شبہ ہی ہو تو اس کے لئے یہ راستہ موجود ہے کہ وہ زکوٰۃ وضع ہونے کے فوراً بعد نیت کر لے، کیونکہ اگر کوئی فضولی کسی کے مال سے زکوٰۃ ادا کر دے تو جب تک مال فقیر (یا اس کے وکیل) کے قبضے میں ہو، اس وقت تک اصل مالک زکوٰۃ کی نیت کر کے اس کی اجازت دے سکتا ہے، اس کی تصریح فقیہاء حفیظہ رحمۃ اللہ علیہم کے کلام میں موجود ہے، چنانچہ فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے :

﴿رَجُلٌ أَدْى زَكَةً غَيْرَهُ عَنْ مَالٍ ذَلِكَ الغَيرُ، فَاجْرَاهُ

الْمَالُكُ ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا فِي يَدِ الْفَقِيرِ جَازَ وَالْأَفْلَاءُ

كذا فی السراجیة﴾ (عالیٰ عالمگیریہ صفحہ ١٧١ جلد ١)

والله سبحانه وتعالیٰ أعلم بالصواب !

تصدیقات

- ① حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب
دارالافتاء جامعہ العلوم الاسلامیہ۔ کراچی
- ② حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب
دارالافتاء والارشاد۔ ناظم آباد۔ کراچی
- ③ حضرت مولانا مفتی سجاد محمود صاحب
دارالعلوم کراچی
- ④ حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب
درسہ اشرف۔ سکر
- ⑤ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب
ہسپم دارالعلوم کراچی
- ⑥ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب
دارالعلوم کراچی
- ⑦ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب
دارالعلوم کراچی
- ⑧ حضرت مولانا مفتی وجیہ اللہ صاحب
دارالعلوم بہاگ۔ ملٹی ہوائی۔ بلوچستان

اسلام میں خلع کی حقیقت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ



ضبط و ترتیب
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

عرض ناشر

تمام فقیاء کا اس پر اتفاق ہے کہ "خلع" شوہر اور بیوی کا ایک باہمی معاملہ ہے جو فریقین کی رضامندی پر موقوف ہے۔ لیکن ۱۹۶۷ء میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعض نجح صاحبان نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر عدالت تحقیق کے ذریعہ اس نتیجے پر پہنچے کہ زوجین حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عدالت شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع کر سکتی ہے۔ چنانچہ اس فیصلے کے خلاف حضرت مولانا محمد مفتی تقی عثمانی صاحب مذہب نے یہ مقالہ تحریر فرمایا۔ اور اس فیصلے کا تفصیل جواب دیا جو پیش خدمت ہے۔

فہرست مضمایں

صفحہ

مضایں

۱۲۷.....	اسلام میں خلع کی حقیقت	۱۔
۱۳۷.....	تعارف	۲۔
۱۴۲	مسئلہ زیر بحث	۳۔
۱۴۳	مساوات	۴۔
۱۵۱.....	آیت کا سیاق	۵۔
۱۵۷.....	خلع فتح ہے یا طلاق؟	۶۔
۱۷۱.....	حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ	۷۔
۱۷۶.....	حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد	۸۔
۱۸۰.....	ثبت دلائل	۹۔
۱۸۲.....	فقہاء کی عبارتیں	۱۰۔
۱۸۳.....	خنی مسلک	۱۱۔
۱۸۵.....	شافعی مسلک	۱۲۔
۱۸۶.....	ماکلی مسلک	۱۳۔
۱۸۶.....	حنبلی مسلک	۱۴۔
۱۸۹	خلع کا فقہی مفہوم	۱۵۔
۱۹۱	قاضی کی تفریق میں الزوجین	۱۶۔

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى الرَّسُولِ الْكَرِيمِ

النَّكَاحُ مِنْ حُسْنِي

(ابن برق)

نکاح یہمی سنت ہے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام میں خلع کی حقیقت

تعارف

اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو کسی وجہ سے اتنا ناپسند کرتی ہو کہ اس کے ساتھ کسی قیمت پر بھاؤ ممکن نہ رہا ہو تو اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہی ہے کہ وہ شوہر کو بچھا بچھا کر طلاق دینے پر آمادہ کرے، ایسی صورت میں شوہر کو بھی یہی چاہئے کہ جب وہ نکاح کے رشتے کو خوشنگواری کے ساتھ بھتانہ دیکھے ٹاؤرپہ محسوس کرے کہ اب یہ رشتہ دونوں کے لئے ناقابل برداشت بوجھ کے سوا کچھ نہیں رہا تو وہ شرافت کے ساتھ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، تاکہ عدت گزرنے کے بعد وہ

لے طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس زمانے میں عورت پاک ہو، اسے صرف ایک طلاق دی جائے، طلاق کا لفظ صرف ایک مرتبہ استعمال کیا جائے اور اس کے بعد اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، اس طرح عدالت گذرنے کے بعد وہ خود آزاد ہو جائے گی۔ تمارے معاشرے میں یہ رواج انتہائی تباہ کن صورت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ جب بھی طلاق کی قوت آتی ہے شوہر تین سے کم طلاق نہیں دیتا، غوب یاد رکھنا چاہئے کہ بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالنا گناہ ہے، اور اس گناہ کی دندی سزا یہ ہے کہ اسکے بعد اگر میاں بیوی دوبارہ نکاح بھی کرنا چاہیں تو حلال کے بغیر نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ آج لے لوگ بہ کثرت اس میں جھلا ہیں اور تین طلاقیں دینے کے بعد عموماً شرمسار اور پریشان ہوتے ہیں۔

چہاں چاہے نکاح کر سکے۔

لیکن اگر شوہر اس بات پر راضی نہ ہو تو عورت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کو کچھ مالی معاوضہ پیش کر کے اسے آزاد کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے، عموماً اس غرض کے لئے عورت ہر معاف کردیتی ہے، اور شوہر اسے قول کر کے عورت کو آزاد کر دیتا ہے۔ اس کام کے لئے اسلامی شریعت میں جو خاص طریق کار مقرر ہے، اسے فقہ کی اصلاح میں ”خلع“ کہا جاتا ہے۔

”خلع“ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ”خلع“ سے لکھا ہے جس کے معنی ”اتارنے“ کے آتے ہیں، عرب کہتے ہیں کہ غلت اللباس (میں نے لباس اتار دیا)، اس لفظ کو زوجین کی جدا تی کے لئے اس لئے مستعار لیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں شوہر اور بیوی کو ایک لباس قرار دیا گیا ہے، اور ”خلع“ کے ذریعہ دونوں اپنا یہ معنوی لباس اتار دیتے ہیں۔ (المدرزی) : المغرب صفحہ ۱۶۵ جلد اول سنہ ۱۳۲۸ھ و فتح القدر صفحہ ۱۹۹ جلد ۱۳ المطبعة الامیرية ۱۴۳۲ھ

علامہ ابن حام رحمۃ اللہ علیہ نے ”خلع“ کی اصطلاحی تعریف اس طرح کی

ہے : ﴿ ازالۃ ملک النکاح ببدل بلفظ الخلع ﴾

”خلع“ کے لفظ کے ذریعہ معاوضہ لے کر ملک نکاح کو زائل کرنا۔

(ابن الہمام) : فتح القدر صفحہ ۱۹۹ جلد ۳

نکاح اور دوسرے شرعی معاملات کی طرح ”خلع“ بھی ایجاد و قبول کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ لیکن اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو تقریباً تمام فقهاء کرام کا اس

لئے الکاسانی ” : بداع الحنائح صفحہ ۱۳۵ جلد ۳ مطبوعۃ الجمایلیہ مصر ۱۳۲۸ھ و ابن رشد ” : بدایۃ الجہید صفحہ ۲۸ جلد ۲ مصطفیٰ الباجی و ۷۳۰ھ و ابن عابدین ” : زو الجہاز صفحہ ۲۰۶ جلد ۲ مصطفیٰ الباجی

پر اتفاق ہے کہ شوہر کے لئے معاوضہ لیتا جائز نہیں، اسے چاہئے کہ معاوضہ کے بغیر عورت کو طلاق دے دیے، ایسی صورت میں اگر مرد معاوضہ لے گا تو مرکب حرام اور سخت گناہ گار ہو گا۔ اس لئے کہ اس بارے میں قرآن کریم کا واضح ارشاد یہ ہے

کہ : ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْبِدَّا لَهُ زَوْجًا مَكَانَ رَوِيجٍ فَأَتَيْمُمْ إِحْدَى هُنَّةَ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِمْنَهُ وَامِنُهُ شَيْئًا إِنَّا خَدُودُنَا بَهْتَانًا وَإِنَّا ۝

(النساء)

”اور اگر تمہارا ارادہ ہو کہ ایک بیوی کی جگہ دوسرا بدلو، اور ان میں سے ایک کو تم نے کچھ مال دیا ہو تو اس مال میں سے کچھ (واپس) نہ لو، کیا اس کو بہتان اور کھلے گناہ کے طور پر واپس لو گے؟“۔

ہاں اگر زیادتی عورت ہی کی جانب سے ہو اور وہی رشتہ نکاح کو فتح کرنا چاہتی ہو تو اس صورت میں مرد کے لئے معاوضہ لیتا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ معاوضہ ہر کی مقدار سے زائد نہ ہو، تاہم اگر ہر سے زیادہ مقدار بآہی رضامندی سے مقرر کر لی گئی تو بھی خل خیح ہو گا اور عورت کو پورا مقررہ معاوضہ دینا ہو گا۔

(بدائع الصنائع صفحہ ۱۵۰ جلد ۳ والجرارائق صفحہ ۸۳ جلد ۲)

قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت کا یہی مطلب ہے :

﴿ وَلَا تَأْخُذُوا مِمْنَاهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يَنْفِعُنَا حُدُودُ اللَّهِ فِي إِنْ خَفَّمُ الْأَيْنِفِعَنَا حُدُودُ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَا ۝

(البقرة)

﴿ فِيمَا افْتَدَثْ بِهِ ۝

لے عالمگیریہ صفحہ ۱۵۰ جلد ۳ مصطفیٰ الباجی وبدائع الصنائع صفحہ ۱۵۰ جلد ۳۔
تھے ابن بیکم: الجرارائق صفحہ ۸۳ جلد ۲ المطبعۃ العلمیۃ ابن الجمام رحمۃ اللہ علیہ : فتح القدری
صفحہ ۲۰۳ جلد ۳۔

”اور جو مال تم نے اپنی بیویوں کو (مہر وغیرہ کے طور پر) دیا ہے، اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ الا یہ کہ زوجین کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، پس اگر (اے حکام) تم کو خوف ہو کہ زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس مال میں کوئی گناہ نہیں ہے جسے عورت بطور فدیہ دے (اور اپنی جان چھڑائے)۔“

”خلع“ کا معاملہ زوجین از خود کر سکتے ہیں، بعض فقہاء نے اس کے لئے عدالت سے رجوع کرنا ضروری قرار دیا ہے، لیکن ائمہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک یہ معاملہ باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے، عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں۔

پھر اس میں فقہاء مجتہدین کا اختلاف ہے کہ ”خلع“ کی حیثیت طلاق کی ہے یا فتح کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن مسیب، حسن بصری، عطاء، قاضی شریح، شعبی، ابراہیم نجاشی، جابر بن زید رضی تعالیٰ عنہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سقیان ثوری، امام او زاعی، اور صحیح قول کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ ”خلع طلاق ہے، لیکن حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاوس، عکرمہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، الحنفی بن راہویہ، ابوثور، اور داؤد ظاہری کا کہنا یہ ہے کہ خلع فتح نکاح ہے اور اس پر طلاق کے احکام جاری نہیں ہوں گے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کا قدیم مذہب بھی یہی تھا لیکن پھر انہوں نے پہلے مذہب کو

لے الرخیٰ : المبسوط صفحہ ۳۷۷، جلد ۶، مطبعة العادة، ۱۴۲۲ھ وابن قدامة : المغایر صفحہ ۵۲، جلد ۷، دار الناز، ۱۴۲۷ھ۔ القرطبي : الجامع لاحکام القرآن صفحہ ۱۳۸، جلد ۳، دار الكتب المصرية، ۱۹۳۶ء و الشافعی : کتاب الام صفحہ ۲۰۰، جلد ۵، مکتبۃ الكلیات الازهریة، ۱۴۲۸ھ

اختیار کریا تھا۔ (تیر ابن کثیر صفحہ ۵۶۷ جلد اول المکتبۃ التجاریۃ الکبری سنه ۱۳۵۶ھ وبدای
الجہد صفحہ ۶۹ جلد ۲)

اس اختلاف کا مطلب سمجھنے کے لئے یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ اسلام نے مرد کو تین طلاقوں کا اختیار دیا ہے، اگر وہ ان تینوں طلاقوں کو بیک وقت دینے کا گناہ کرے تو پھر یوں سے نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی یوں کو صرف ایک طلاق دے، اسے دوبارہ رشتہ نکاح قائم کرنے کا اختیار رہتا ہے، اب اگر وہ اس اختیار کو استعمال کر کے یوں کو دوبارہ نکاح میں لے آئے تو چونکہ وہ ایک طلاق پلے استعمال کر چکا ہے، اس نے اسے اب صرف دو طلاقوں کا اختیار رہے گا، یعنی اگر وہ دو طلاقیں بھی دے دے گا تو پھر یوں سے نہ رجوع کر سکے گا، نہ حلالہ کے بغیر دوسرانکاح۔

اب جو حضرات "خلع" کو طلاق قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک جو شخص اپنی یوں سے ایک مرتبہ خلع کر لے تو یہ طلاق شمار ہوگی، لہذا اگر وہ اس کی رضامندی سے اسے دوبارہ نکاح میں لے آئے تو اسے اب صرف دو طلاقوں کا اختیار ہو گا، یعنی اب وہ اگر دو طلاقیں بھی دے دیگا تو طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی، جس کے بعد دوبارہ نکاح بھی حلالہ کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ لیکن جو حضرات خلع کو فتح قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک اگر خلع کے بعد میاں یوں باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں تو شوہر کو بدستور تین طلاقوں کا اختیار رہتا ہے، اور صرف دو طلاقوں سے یوں مُغلظہ نہیں ہوتی کیونکہ خلع کو طلاق شمار نہیں کیا گیا۔

(ا) رخی : المبسوط صفحہ ۳۷ جلد ۱)

لیکن اس پر اتفاق ہے کہ خلع سے عورت باسٹہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے بعد شوہر یکطرفہ طور پر رجوع نہیں کر سکتا، ہاں دونوں کی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، صرف سعید بن میسّب اور ابن شہاب سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ اگر مرد عذت کے دوران بدل خلع واپس کر دے تو یکطرفہ طور پر رجوع کر سکتا

ہے، لیکن جمہور فقہاء نے اس قول کو قبول نہیں کیا۔

(ابن رشد) : بدایتۃ الجہید صفحہ ۷ جلد ۲

معاوضہ دیکر طلاق حاصل کرنے کے لئے "خلع" کے علاوہ "مبارات" "صلح" "فديہ" اور طلاق علی مال کے الفاظ بھی مستعمل ہیں، ان کے درمیان فرق لفظی نوعیت کا ہے، اسی لئے یہ تمام الفاظ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، البتہ بعض ماکنی فقہاء نے ان الفاظ میں اصطلاحی فرق بیان کیا ہے کہ :

"اگر عورت پورے میر کے بد لے میں طلاق حاصل کرے تو اسے خلع کہیں گے، اور اگر میر کا کچھ حصہ معاوضہ قرار پائے تو وہ فدیہ کہلانے گا، اور اگر میر سے زائد مقدار کو عوض مقرر کیا جائے تو وہ صلح ہو گی، اور اگر طلاق کے بد لے میں عورت اپنا کوئی اور حق ساقط کرے تو اسے مبارات کہا جائے گا۔"

(ابن رشد) : بدایتۃ الجہید صفحہ ۶۶ جلد ۲ و فتح الباری ۳۳۲ جلد ۹ و تغیر

القرطبی صفحہ ۱۳۶ اور ۱۳۷ جلد ۳

مسئلہ زیر بحث

"خلع" اور اس کے احکام کا یہ نہایت مختصر تعارف اس لئے پیش کیا گیا ہے تاکہ آئندہ مباحثت کے سمجھنے میں آسانی ہو، اس مقالے میں خلع کے تمام احکام کو بالا سیکھا پیش کرنا مقصود نہیں، بلکہ خلع سے متعلق ایک خاص مسئلے پر گفتگو کرنا ہے جو چند سالوں سے ہمارے ملک میں خاصی اہمیت حاصل کرچکا ہے۔ جیسا کہ ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔

اب تک تمام فقہاء اور مجتہدین کا اس پر اتفاق چلا آتا ہے کہ "خلع" شوہر اور بیوی کا ایک باہمی معاملہ (TRANSACTION) ہے جو فریقین کی رضامندی پر موقوف ہے، لہذا کوئی فریق دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ نہ شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ بیوی کو خلع پر قانوناً مجبور کرے، اور نہ بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ شوہر سے بزور قانون خلع حاصل کرے۔

غیر منقسم ہندوستان اور پاکستان کی عدالتیں بھی مسلمانوں کے مقدمات میں اسی اصول کے مطابق فیصلے کرتی آئی تھیں۔ اس سلسلے میں عمری بی بنام محمد دین اور سعیدہ خانم بنام محمد سعیج کے دو مقدمات کافی مشہور ہیں، عمری بی بنام محمد دین کے مقدمے میں جشن عبدالرحمن اور جشن ہارنس نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ عورت شوہر کی مرضی کے بغیر خلع نہیں کر سکتی۔

(عمری بی بنام محمد دین۔ اے۔ آئی۔ آر۔ ند ۱۹۳۵ء لاہور (۱۹۴۵ء))

اسی طرح سعیدہ خانم بنام محمد سعیج کے مقدمے میں جشن اے۔ آر۔ کارنیلیس، جشن محمد جان اور جشن خورشید زمان صاحبان نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع نہیں ہو سکتا۔ اور محض اختلافِ مزاج، ناپسندیدگی اور نفرت کی بناء پر عدالت نکاح کو فتح نہیں کر سکتی۔

(سعیدہ خانم بنام محمد سعیج۔ پی ایل ڈی سن ۱۹۵۲ء۔ لاہور (۱۹۴۳ء))

لیکن سن ۱۹۵۹ء میں لاہور یاٹی کورٹ کے جشن شیر احمد، جشن بی۔ زینہ کیکاوس اور جشن مسعود احمد صاحبان نے بلقیس فاطمہ بنام حجم الاکرام کے مقدمے میں یہ فیصلہ دے دیا کہ اگر عدالت تحقیق کے ذریعہ اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ زوجین حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عدالت شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع کر سکتی ہے۔

(بلقیس فاطمہ بنام حجم الاکرام۔ پی ایل ڈی سن ۱۹۵۹ء لاہور (۱۹۶۶ء))

پھر سنہ ۱۹۶۷ء میں پریم کورٹ کے معزز حج صاحبان جسنس ایں۔ اے۔ رحمان، جسٹس فضل اکبر، جسٹس محمود الرحمن، جسٹس محمد یعقوب علی اور جسٹس ایں اے محمود صاحبان نے بھی خورشید بیگم بنا محمد امین کے مقدمے میں اسی نقطۂ نظر کو اختیار کیا ہے۔

(خورشید بیگم بنا محمد امین۔ پی ایل ذی سنہ ۱۹۶۷ء پریم کورٹ ۹۷ء)

اس مقالے میں ہم خلخ سے متعلق خاص اسی مسئلے پر عہدگو کریں گے کہ آیا خلخ زوجین کی باہمی رضامندی کا معاملہ ہے یا ان میں سے کوئی دوسرے کو اس کی بینامندی کے بغیر خلخ پر بجور بھی کر سکتا ہے؟

ہماری تحقیق کی حد تک امتِ اسلامیہ کے تقریباً تمام فقہاء مجتہدین اس بات پر تتفق ہیں، اور قرآن و سنت کے دلائل بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ خلخ فرقیین کی باہمی رضامندی کا معاملہ ہے اور کوئی فریق دوسرے کو اس پر بجور نہیں کر سکتا۔ اس مقالے میں ہم اسی بات کے مفصل دلائل پیش کرنا چاہتے ہیں۔

جناب جسٹس ایں۔ اے رحمان صاحب کی ہمارے دل میں بڑی قدر و نزلت ہے، وہ ایک قابلِ احترام و انشور ہیں، اور انہوں نے اپنی تحریروں سے ملک و ملت کی قابلِ قدر خدمات انجام دی ہیں، لیکن چونکہ زیرِ بحث مسئلے میں ہمارے نزدیک ان کا موقف جمہور امت کے خلاف اور شرعی اعتبار سے نادرست ہے، اس لئے ہم یہاں ان کے دلائل پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں۔

مساوات

جناب جسٹس ایں اے رحمان صاحب نے سب سے پہلے مندرجہ ذیل آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

”اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو مثل انہی حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں قaudہ کے موافق۔“

جنس صاحب نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جس طرح مرد کو عورت کی رضامندی کے بغیر طلاق کا قانونی حق دیا گیا ہے، اسی طرح عورت کو بھی مرد کی رضامندی کے بغیر غلط کا حق ملتا چاہئے۔

(پ) ایل ذی سنہ ۱۹۶۷ء پریم کورٹ صفحہ ۱۱۳)

لیکن یہ استدلال بوجوہِ ذیل درست نہیں ہے :

① جنس صاحب نے اس آیت کے آگلے جملے پر عورت نہیں فرمایا، قرآن کریم میں پوری آیت اس طرح ہے :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

﴿وَاللَّهُ أَعْزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

”اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو مثل انہی حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں قaudہ کے موافق اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زیر درست ہیں حکیم ہیں۔“

(ترجمہ ماخواز حضرت تابانی)

اس آیت میں **وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ** کے الفاظ واضح طور پر دلالت کر رہے ہیں کہ بعض معاملات میں جو اختیارات مرد کو حاصل ہیں وہ عورت کو حاصل نہیں ہیں۔

② اگر اس آیت کا مطلب یہ لیا جائے کہ زوجین تمام حقوق و فرائض میں بالکل برادر ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ مرد کو بغیر معاوضہ دیئے طلاق دینے کا اختیار

حاصل ہے اور عورت معاوضہ ادا کئے بغیر طلاق حاصل نہیں کر سکتی۔ حالانکہ زوجین کی مساوات کا اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ رشتہ نکاح کو قطع کرنے میں بھی دونوں برابر ہیں تو عورت کو بھی مرد کی طرح طلاق کا اختیار ملتا چاہئے۔ حالانکہ یہ وہ بات ہے جسے صاحب بھی تسلیم نہیں فرماتے۔

(۳) تمام فقہاء اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں زوجین کی جس مساوات کا ذکر کیا گیا ہے وہ معاشرتی مساوات ہے، ورنہ جہاں تک طلاق اور رشتہ نکاح کو ختم کرنے کا سوال ہے، معمولی حالات میں اس کا مکمل اختیار صرف مرد کو ہے، اور اسی کی طرف قرآن کریم میں ان الفاظ کے ذریعہ اشارہ کیا گیا ہے :

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

”اور مردوں کا ان (عورتوں) کے مقابلے میں کچھ درجہ پر بھا
ہوا ہے۔“

اس معاملے میں فقہاء و مفسرین کے چند اقوال درج ہیں :

(الف) حضرت ابوالکٰ فرماتے ہیں کہ :

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ قَالَ يُظْلَمُونَهَا وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا

﴿مُرِيشَيْتُمُّ﴾

آیت قرآنی ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن عورت کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔“

(ا) خرج عبد بن حميد ابن ابی حاتم عن ابی مالک۔ الدر المنشور للبوطي صفحہ ۲۷ جلدوا

(ب) امام نخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ (شافعی) اس آیت کی تعریف کرتے

ہوئے پہلے لکھتے ہیں :

﴿إِنَّ الْمَفْصُودَ مِنَ الرِّزْقِيْهَا لَا يَنْهَا إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا مَرَا عَيْنًا حَقَّ الْآخَرِ وَتِلْكَ الْحُقُوقُ الْمُشَرَّكَةُ كَثِيرَةُ
نَشِيرِ الْبَعْضِهَا﴾

(الرازي): قسیر کیر صفحہ ۲۴۶ جلد ۲ المطبعة الحسينية - مصر

”روجیت کے مقاصد اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے حق کی رعایت نہ کرے، اور یہ مشترک حقوق بہت سے ہیں جن میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔“

اس کے بعد انہوں نے تمام معاشرتی حقوق میں مساوات کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد ﴿لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ﴾ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

﴿إِنَّ الْزَوْجَ قَادِرٌ عَلَى تَطْبِيقِهَا وَإِذَا طَلَقَهَا فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى
مِرَاجِعِهَا شَاءَتِ الْمَرْأَةُ أَنْمَمْ تَشَاءُ، أَمَا الْمَرْأَةُ فَلَا تَقْدِرُ عَلَى
تَطْبِيقِ الزَّوْجِ وَبَعْدِ الطَّلاقِ لَا تَقْدِرُ عَلَى مِرَاجِعَةِ الزَّوْجِ وَلَا
تَقْدِرُ أَيْضًا عَلَى أَنْ تَنْبَغِي الزَّوْجَ مِنَ الْمِرَاجِعِ﴾

(قسیر کیر - صفحہ ۲۴۷ جلد ۲)

”شوہر عورت کو طلاق دینے پر قادر ہے اور طلاق دینے کے بعد رجوع بھی کر سکتا ہے، عورت چاہیے یا نہ چاہیے، لیکن عورت نہ شوہر کو طلاق دے سکتی ہے، نہ طلاق کے بعد شوہر سے رجوع کر سکتی ہے، اور نہ شوہر کو رجوع سے روک سکتی ہے۔“

(ج) امام ابو عبد اللہ القرقاطی رحمۃ اللہ علیہ (ماکی) اپنی تفسیر میں اس جملے کی شرح

کرتے ہوئے علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں :
 ﴿لَهُ رُفْعَ الْعَدْ دُونَهَا﴾

(القرطبی الجامع لاحکام القرآن صفحہ ۱۲۵ جلد ۳ دارالكتب المصرية
 ۱۹۳۶)

”عَقْدِ نَكَحٍ كَوْ خَتَمَ كَرْنَے کا انتیار صرف مرد کو ہے عورت کو
 نہیں“۔

ظاہر ہے کہ ان دلائل کی موجودگی میں وَلِلرِبِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ سے
 قطع نظر کے صرف وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَغْرُوفِ کے الفاظ سے اس
 بات پر استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ محض ناپسندیدگی کی بناء پر عورت شوہر کو بزور
 عدالت غلخ پر مجبور کر سکتی ہے۔

آیتِ غلخ

اس کے بعد جناب جسٹس ایں اے رحمان صاحب نے اس آیت کے
 بعض الفاظ سے استدلال فرمایا ہے جو غلخ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، پوری
 آیت یہ ہے :

﴿الظَّلَاقُ مَرْتَكَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا

يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُ وَأَنْتَمْ إِنْ شَوْهِنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْكَافَ أَلَّا

يَتَقْبَحَ حَدُودُ اللَّهِ فَإِنْ خَفَّمُ الْأَيْقِنَمَا حَدُودُ اللَّهِ فَلَا جُنَاحٌ

عَلَيْهِمَا فِيمَا أُفَدَتْ بِهِ تِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْنَدُ وَهَا وَمَنْ

يَتَعَنَّدَ حَدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرة-۲۲۹)

”ظلاق دو مرتبہ (جاائز) ہے، پھر خواہ رکھ لیتا قاعدہ کے موافق
 خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ، اور تمہارے لئے یہ

بات خال نہیں کہ کچھ بھی لو اُس میں سے جو تم نے اُن کو دیا تھا مگر یہ کہ میاں یہوی دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے، سو اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابطِ خداوندی قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہو گا اُس چیز میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے، یہ خدائی ضابطے ہیں، سو تم ان سے باہر مت نکلنا اور جو شخص خدائی ضابطوں سے باہر نکل جائے ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔

(ترجمہ ماخذ از حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ)

جیش ایس اے رحمان صاحب نے اس بات پر متعارض فقیہوں اور مفسرین کے اقوال پیش کئے ہیں کہ اس آیت کے الفاظ **فَإِنْ خَفْتُمُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ** اللہ (سو اگر تم کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابطِ خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے) میں خطاب حکام اور اولو الامر کو ہے، اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر حکام عدالت یہ سمجھتے ہوں کہ زوجین حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو وہ شوہر کی رضا مندی کے بغیر خلع کے ذریعہ نکاح فتح کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں لاعان، ایلاء، عنین (نامر) اور مفقود الخیر کے فتح نکاح کو بطور نظری پیش کر کے آخر میں وہ علامہ ابن حام رحمۃ اللہ علیہ کی فتح التدیر، علامہ ابو بکر جعماں رحمۃ اللہ علیہ کی احکام القرآن اور صحیح بخاری کے حوالوں سے یہ فرماتے ہیں کہ :

”اگر عورت مرد سے ناقابلِ اصلاح نفرت (INCURABLE

AVERTION) کرتی ہو تو یہ خلع کے لئے کافی وجہ جواز

ہے۔“ (پی ایل ڈی (پریم کورٹ) ۱۹۷۲ء صفحہ ۱۶ جلد ۱۹)

لیکن اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ اس آیت میں **فَإِنْ خَفْتُمُ الْخُ**

کا خطاب حکام کو ہے، جیسا کہ بہت سے علماء نے کہا ہے، تب بھی اس آیت سے استدلال کی طرح صحیح نہیں۔ آیت میں تو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اگر حکام کو اس بات کا اختال ہو کہ زوجین حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لئے خلع کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اس سے یہ بات کہاں نکلتی ہے کہ زوجین میں سے کسی کو خلع کرنے پر مجبور بھی کیا جاسکتا ہے۔ اگر آیت کا فشاء یہ ہوتا کہ حکام اسی صورت میں زوجین یا زوجین میں سے کسی ایک کو خلع پر مجبور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جیسا کہ جس صاحب کی تشریع سے معلوم ہوتا ہے، تو صاف یہ کہا جاتا کہ ”اگر تم کو اس بات کا اختال ہو کہ وہ دونوں حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کے درمیان نکاح کو فتح کرو“ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ”ایسی صورت میں زوجین پر خلع کرنے میں کوئی گناہ نہیں“ اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر حکام کے پاس زوجین کی ناچاقی کا کوئی معاملہ آئے اور وہ محوس کریں کہ اب یہ لوگ حدود اللہ کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو وہ زوجین کو خلع کا مشورہ تدوے سکتے ہیں، لیکن خلع کا معاملہ زوجین اپنی رضامندی ہی سے کریں گے۔

اب رہا یہ سوال کہ جب ”خلع“ فریقین کی باہمی رضامندی پر موقوف ہے تو پھر فَإِنْ خَفِّمُ الْخَ میں خطاب ”أولو الامر“ (حکام) کو کیوں کیا گیا؟ سواس کا جواب اس معاشرتی پس منظر کو پیش نظر رکھ کر یہ آسانی دیا جاسکتا ہے جس میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں ”أولو الامر“ کی حیثیت صرف ایک نجج اور حاکم ہی کی نہیں تھی، بلکہ ایک مصلح، مفتی اور مشیر کی بھی تھی، لوگ صرف ذگری حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ بہت سے معاملات میں محض شریعت کا حکم معلوم کرنے یا مشورہ طلب کرنے کے لئے بھی ان سے رجوع کرتے تھے۔ لہذا اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم سے اس جیسے معاملے میں رجوع کیا جائے تو تم انھیں خلع کا مشورہ دے سکتے ہو، نیز اپنی عمرانی میں خلع کا معاملہ کر سکتے ہو۔

اول والا مر کو مخفی مخاطب کر لینے سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ انھیں غلط کے معاملے میں وہ مکمل اختیارات حاصل ہو گئے ہیں جو زوجین کو حاصل ہیں، اس کی وضاحت کے لئے دو مثالوں پر غور فرمائیے :

(۱) فرض کیجئے کہ حکام کے پاس ایک ایسا مقدمہ آتا ہے جس میں زوجین میں سے کوئی خلع پر راضی نہیں (مرد اس لئے کہ وہ عورت کو جدا نہیں کرنا چاہتا، اور عورت اس لئے کہ وہ بلا معاوضہ طلاق چاہتی ہے) اور کوئی ایسی صورت بھی نہیں پائی جاتی (مثلاً شوہر کا جنون وغیرہ) جس کی موجودگی میں عدالت کو نکاح فتح کرنے کا اختیار ہوتا ہے، البتہ حکام یہ خوف رکھتے ہیں کہ نکاح کے قائم رہنے کی صورت میں یہ دونوں "حدود اللہ" کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ عورت سے خلع کرنے کو پوچھا جاتا ہے لیکن وہ خلع پر راضی نہیں ہوتی تو کیا اس صورت میں مخفی اس وجہ سے کہ **فَإِنْ خَفِيَّ مِنَ الْأَنْهَى فَمَا حُدُودُ اللَّهِ الْخَمْ** میں حکام کو مخاطب کیا گیا ہے، حکام ان دونوں کے درمیان زبردستی خلع کے ذریعہ نکاح فتح کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں!

(۲) فرض کیجئے کہ ایک مقدمے میں زیادتی چونکہ عورت کی طرف سے ہے، اس لئے شوہر ہر معاف کرائے بغیر طلاق دینے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ دوسرا طرف عورت خلع پر راضی نہیں وہ یا تو طلاق ہی نہیں چاہتی یا طلاق کے معاوضے میں ہر معاف کرنے پر راضی نہیں تو کیا ایسی صورت میں حکام عورت کو خلع پر مجبور کر کے نکاح فتح کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں! اور کوئی بھی شخص مخفی **فَإِنْ خَفِيَّ** کے خطاب سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ اس کے ذریعہ ان صورتوں میں حکام کو زبردستی خلع کے ذریعہ نکاح فتح کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

آیت کا سیاق

یہ بات کہ اس آیت میں حکام کو خلع کرانے کا اختیار صرف اس صورت

میں دیا گیا ہے جبکہ شوہر اور بیوی دونوں اس پر راضی ہوں، آیت کے سیاق (CONTEXT) پر غور کرنے سے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ خلع کے سلسلے میں آیت کے الفاظ یہ ہیں :

﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا امْمًا إِنْ كُنُوا هُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
يَخَافُوا أَلَا يَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خُفْتُمُ أَلَا يَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُناحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَثُ بِهِ ﴾

”اور تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ اُس مال میں سے کچھ لو جو تم نے اُن (عورتوں) کو دیا ہے، مگریہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے، پھر پس اگر (اے حکام) تم کو یہ احتمال ہو کہ وہ اللہ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہ ہو گا جس کو بطور فدیہ دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔“

اس میں پہلا جملہ واضح طور پر اس بات کی نشان وہی کر رہا ہے کہ قرآن کریم کا یہ حکم اس صورت سے متعلق ہے جبکہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے، اور اس وجہ سے دونوں خلع کرنا چاہتے ہوں، یا کم از کم اس پر راضی ہوں۔ پھر آگے **فَإِنْ خُفْتُمْ** کے جملے کے شروع میں فاء تعمیق (جس کا اردو ترجمہ ”پس“ ہے) صاف دلالت کر رہی ہے کہ حکام کو یہ خطاب بھی اسی صورت سے متعلق ہے جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے یعنی **إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَلَا يَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ** (مگریہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے۔

پھر اس آیت میں آگے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (تو ان دونوں میاں یہوی پر کوئی گناہ نہیں) کے الفاظ بھی خاص طور سے قابل غور ہیں، معمولی غور و فکر سے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ یہ الفاظ اپنے ضمن میں شوہر اور یہوی دونوں کی رضامندی کا واضح مفہوم رکھتے ہیں، اس کی تعریف کے لئے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں :

آپ اگر زید سے یہ کہیں کہ ”تمہارے لئے طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں“ تو اس جملے سے ہر شخص یہ سمجھنے میں حق بجانب ہو گا کہ زید اپنی یہوی کو طلاق دنا چاہتا تھا، یا کم از کم اس پر راضی تھا لیکن اسے یہ شک تھا کہ میرے لئے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، آپ نے یہ کہہ کر اُس کے شک کو دور کیا ہے کہ ”تمہارے لئے طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں“۔

اس کے بر عکس آپ کے ان الفاظ سے کوئی بھی شخص جسے بات سمجھنے کا سلیقہ ہو، یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ زید طلاق دینے پر راضی نہیں تھا، اور آپ اس جملے کے ذریعہ اسے طلاق پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، اس لئے کہ اگر زید طلاق دینے پر سرے سے راضی ہی نہ ہو، بلکہ اس سے انکار کر رہا ہو تو آپ اسے مجبور کرنے کے لئے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ”تمہیں طلاق دینی پڑے گی“ یا ”تمہیں بنویر قانون علیحدگی پر مجبور کیا جائے گا“ لیکن اس صورت میں یہ کہنا بالکل مہمل اور بے معنی بات ہو گی کہ ”تمہارے لئے طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں“ یہاں بھی قرآن کریم نے فلاؤ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (ان دونوں میاں یہوی پر کوئی گناہ نہیں) کے الفاظ استعمال کئے ہیں، جس کا واضح مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کریم صرف اس صورت کو بیان کر رہا ہے جس میں شوہر اور یہوی دونوں غلط پر راضی ہیں۔ ورنہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا کے الفاظ بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ زوجین کے غلط پر راضی ہو جانے کے بعد ان میں سے ہر

ایک کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ میرے لئے یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں، عورت کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ پیسے دیکر طلاق حاصل کرنا شاید جائز نہ ہو، اور مرد کو یہ شک گذر سکتا تھا کہ طلاق پر پیسے وصول کرنا گناہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فلَاجْتِنَاحَ عَلَيْهِمَا (دونوں پر کوئی گناہ نہیں) کے الفاظ سے دونوں کا شبہ دور فرمادیا۔

بلکہ ان الفاظ میں شوہر کی رضا مندی کا مفہوم اور زیادہ واضح ہے، اس لئے کہ معاملہ خلخ کے گناہ ہونے کا زیادہ شبہ مرد ہی کو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پیسے وصول کرنے والا ہے، بخلاف عورت کے کہ وہ پیسے ادا کرتی ہے۔

اس کے علاوہ اسی آیت میں آگے فِيمَا أُفْتَدَثْ بِهِ کے الفاظ بھی قابل غور ہیں۔ اس میں بدیل خلخ کو ”فَدِيَة“ اور عورت کی ادا شکی کو ”اِنْدَاء“ کہا گیا ہے، اور بقول علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ خود اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ”خلخ“ ایک عقدِ معاوضہ ہے جس میں فریقین کی باہمی رضامندی ضروری ہے۔ اس لئے کہ ”فَدِيَة“ عربی زبان میں اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگی قیدیوں کو چھڑائے کے لئے پیش کیا جاتا ہے، اس مال کو پیش کرنا ”اِنْدَاء“ اور بقول کرنا ”فَدِيَة“ کہلاتا ہے۔ (امام راغب اصفہانی : المفردات فی غریب القرآن صفحہ ۱۴۳ المطابع کراچی۔ وابن اثیر الجزری التہابی فی غریب الحديث والاثر صفحہ ۲۰۳ المطبعة الخيرية۔ ابو الفتح مطرزی) : المغرب صفحہ ۸۸ جلد ۲ دکن (۱۳۲۸ھ)

یہ معاملہ باتفاق عقدِ معاوضہ ہوتا ہے جس میں فریقین کی رضامندی لازمی شرط ہے، اور کوئی فریق دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

﴿وَفِي تسميَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلْعَ فَدِيَةٌ دِلْلَى
عَلَى أَنْ فِيهِ مَعْنَى الْمَعَاوِذَةِ وَلَهُذَا اعْتَبَرَ فِيهِ رَضَا
الزَّوْجِينَ﴾ (ابن القیم، زاد المعاد صفحہ ۲۲۸ جلد ۲ المطبعۃ المیتۃ مصر ۱۳۲۴ھ)

”اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلع کا نام فدیہ رکھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں معاوضہ کے معنی پائے جاتے ہیں، اور اسی لئے اس میں زوجین کی رضامندی کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔“

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آئیتِ خلع میں تین جملے ایسے ہیں جو واضح طور پر شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی کا مفہوم رکھتے ہیں :

① إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يَقْتَصِمَا حَدُودُ اللَّهِ

(مگر یہ کہ ان دونوں میاں بیوی کو یہ اختال ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھیں گے)۔

② فِيمَا أَفْتَدَثُ بِهِ

(اس مال میں جو عورت بطور فدیہ دے)۔

③ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

(تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں)

ان تینوں جملوں کے بیچ میں فَإِنْ خَفَمْ (اگر تم کو خوف ہو) کے الفاظ آئے ہیں، اس سے اس کے سوا اور کیا نتیجہ لکھتا ہے کہ اگر یہ فَإِنْ خَفَمْ (اگر تم کو خوف ہو) کا خطاب حکام ہی کو ہے تو بھی یہ اس صورت میں ہے جبکہ شوہر اور بیوی دونوں خلع پر راضی ہوں

لہذا جس طرح اس سے اس بات پر استدلال درست نہیں ہے کہ میاں بیوی دونوں یا صرف بیوی کی رضامندی کے بغیر حاکم بذریعہ خلع نکاح فتح کر سکتا ہے، اسی طرح اس بات پر بھی استدلال کرنا کسی طرح درست نہیں کہ حاکم کو شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع کے ذریعہ نکاح فتح کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

یہ ساری مفتکو یہ بات تعلیم کرنے کے بعد کی گئی ہے کہ فَإِنْ خَفْتُمْ میں خطاب حکام کو ہے، اور اس میں شک نہیں کہ علماء کی ایک بڑی جماعت کا قول یہی ہے، لیکن اگر ان حضراتِ مفسرین کا قول اختیار کیا جائے جو اس کا مخاطب شوہر اور بیوی کو قرار دیتے ہیں تو بات بالکل ہی صاف ہو جاتی ہے۔ اس تفسیر کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اس آیت کا پہلا جملہ یعنی وَلَا يَحِلُّ لِكُمُ الْخَمْرٌ میں باتفاق خطاب شوہروں کو ہے۔ اس لئے اس کی مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ فَإِنْ خَفْتُمْ کا خطاب بھی اپنی کو ہو، چنانچہ حکیم الامم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے :

”اور تمہارے لئے یہ بات حلال نہیں کہ (بیویوں کو) چھوڑتے وقت ان سے) کچھ بھی لو (گوہ لیا ہوا) اس (مال) میں سے (کیوں نہ ہو) جو تم (ہی) نے ان کو (ہر میں) دیا تھا مگر (ایک صورت میں البّتّ حلال ہے وہ) یہ کہ (کوئی) میاں بی بی (ایسے ہوں کہ) دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو (جو دربارہ ادائے حقوقِ زوجت ہیں) قائم نہ کر سکیں گے، سو اگر تم لوگوں کو (یعنی میاں بی بی کو) یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابطِ خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہو گا اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دیکر عورت اپنی جان چھڑائے۔“

(حضرت تھانوی) : بیان القرآن صفحہ ۷ جلد اتحاد کپی کراچی)

یہ تفسیر بالکل بے غبار بھی ہے، اور اگر اس تفسیر کو اختیار کیا جائے تو پھر اس آیت میں حکام کا کوئی ذکر ہی نہیں رہتا۔
اس مسئلے میں جیش ایں اے رحمان صاحب نے یعنیں اور مفقود الخبر کی

جو نظیریں پیش کی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بالکل غیر متعلق (IRRELEVANT) ہیں، کیونکہ زیر بحث مسئلہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ فتح نکاح کی معروف صورتوں میں سے کوئی صورت نہ پائی جا رہی ہو، بلکہ عورت محفوظ ناپسندیدگی اور نفرت کی بنا پر علیحدگی چاہتی ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کو عین (نامرد) مجنوں، متعصّت (نافر) نہ دینے والا اور مفقود الخیر (الاپنے شخص) کی بیوی پر قیاس کیا جائے تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کا نکاح بلا معاوضہ فتح کر دیا جائے۔ حالانکہ جسٹس صاحب بھی خود اس کو درست نہیں سمجھتے۔

ره گئے فتح القدر، احکام القرآن، صحیح بخاری اور المسنون کے وہ حوالے جو جسٹس صاحب نے پیش کئے ہیں، سو وہ بھی بالکل غیر متعلق ہیں، اس لئے کہ ان سب حوالوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حدود اللہ کو قائم نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جن میں زوجین کے لئے خلع کرنا جائز ہو جاتا ہے؟ رہایہ معاملہ کہ ان حالات میں حکام زوجین کو یا ان میں سے کسی ایک کو خلع پر مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں انسی حضرات فہماء کی واضح تصریحات یہ ہیں کہ جب تک شوہر اور بیوی دونوں راضی نہ ہوں، خلع کا معاملہ صحیح نہیں ہوتا۔ فہماء کی یہ تصریحات ہم آگے پیش کریں گے۔

خلع فتح ہے یا طلاق؟

آگے جسٹس ایں اے رحمان صاحب نے یہ بحث چھینڑی ہے کہ ”خلع“ فتح نکاح (DISSOLUTION OF MARRIAGE) ہے یا طلاق (DIVORCE)؟ اس معاملے میں فہماء کا اختلاف نقل کرنے کے بعد وہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلم کو ترجیح دیتے ہیں جس کی رو سے طلاق نہیں، بلکہ فتح ہے، اور اس کی بعد تحریر فرماتے ہیں :

”اگر اس رائے کو قبول کر لیا جائے (کہ خلع فتح ہے طلاق نہیں ہے) تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ خلع تھا شوہر کی مرضی پر متوقف نہیں ہے۔“ (پی ایل ذی (پرم کورٹ) ۱۹۷۷ء صفحہ ۱۱۶)

لیکن جسٹس صاحب کے اس ارشاد سے بھی اتفاق ممکن نہیں۔ بحث کے تعارف میں ہم یہ بیان کرچکے ہیں کہ خلع کے طلاق یا فتح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور عملی طور پر فقهاء کے اس اختلاف کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ تفسیر، حدیث اور فقہ کی جس کتاب میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہاں اس کا مطلب یہی بیان کیا گیا ہے کہ اگر خلع کو فتح قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلع کو طلاق شمار نہیں کیا جائے گا، اور اگر میاں پیوی باہمی رضا مندی سے دوبارہ نکاح کر لیں تو شوہر کو بدستور تین طلاق کا اختیار ملے گا؟ لیکن اس سے یہ نتیجہ کسی نے نہیں نکالا کہ چونکہ یہ فتح ہے اس لئے اس میں شوہر کی رضا مندی ضروری نہیں ہے۔

ہم یہاں اس بحث کو نظر انداز کرتے ہیں کہ فقهاء کے اس اختلاف میں قابل ترجیح مسلک کون سا ہے؟ ہم تھوڑی دیر کے لئے یہی فرض کر لیتے ہیں کہ اس معاملے میں جسٹس صاحب کے ارشاد کے مطابق امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہی قابل ترجیح ہے جس کی رو سے خلع طلاق نہیں، فتح ہے، لیکن اس سے یہ بات کیسے ثابت ہو گئی کہ یہ فتح نکاح شوہر کی مرضی کے خلاف بھی عمل میں آسکتا ہے؟ خود جسٹس صاحب نے نقل فرمایا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلع کو فتح نکاح قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے مذهب کی کتابیں اٹھا کر دیکھئے، وہ بھی جمہور امت کی طرح خلع کو فتح نکاح قرار دینے کے باوجود فریقین کی مرضی کو اس کے لئے لازمی شرط سمجھتے ہیں، چنانچہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذهب کے مستند ترین راوی ہیں، تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَلَا يَفْتَرِ الْخَلْمَ إِلَى حَاكِمٍ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَقَالَ يَحْوِزُ الْخَلْمَ

دون السلطان وروى البخارى ذلك عن عمرو عثمان
رضى الله عنها وبه قال شريح والزهرى ومالك
والشافعى واسحاق وأهل الرأى وعن الحسن وابن سيرين
لا يجوز ألا عند السلطان، ولنا قول عمرو عثمان ولا أنه
معاوضة فلم يقر إلى السلطان كالبيع والنكاح ولا أنه عقد
بالتراضى أشبه بالإقالة

(ابن قدامة: المغني صفحه ٥٢ جلد ٧ دار المنار ١٣٦٧)

”خلع کے لئے حاکم کی ضرورت نہیں“ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ
نے اس کی تصریح کی ہے، چنانچہ کہا ہے کہ خلع بغیر سلطان کے
جاائز ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مذهب حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
نقل کیا ہے، اور امام شریح رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری رحمۃ
اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحق رحمۃ اللہ علیہ
اور اہل رائے کا بھی یہی قول ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ
علیہ، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ
خلع صرف حاکم کے پاس ہو سکتا ہے۔ اور ہماری دلیل حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
قول ہے، نیز یہ کہ خلع ایک عقدِ معاوضہ ہے لہذا اس میں
سلطان کی ضرورت نہیں، جیسے بیع اور نکاح۔ علاوہ ازیں خلع
بامی رضامندی سے عقدِ نکاح کو ختم کرنے کا نام ہے، لہذا وہ
اقالہ کے مشابہ ہے۔“

علامہ ابن قدامة نے مذکورہ بالاعبارت میں امام احمد کا صاف مذهب

یہ نقل کیا ہے کہ خلع یا بھی رضامندی سے ہوتا ہے اور اقالہ کی مثال دیکر یہ بھی واضح کروایا ہے کہ جس طرح اقالہ (فتخ بیچ) (Cancellation of the sale transaction) فریقین کے حق میں فتح معاملہ ہوتا ہے لیکن اس میں باہمی رضامندی ضروری ہے اور کوئی فریق دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خلع بھی فتح نکاح ہے لیکن اس میں بھی باہمی رضامندی ضروری ہے اور کوئی فریق دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔

جیش صاحب کی نقل کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی خلع کو فتح نکاح مانتے ہیں، طلاق نہیں کہتے، لیکن یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قدیم قول ہے اور آخری قول یہی ہے کہ خلع طلاق ہے۔
 (ابن رشد) : بدایۃ الجہد، صفحہ ۶۹ جلد ۲ و تغیر ابن کثیر صفحہ ۲۷۵ جلد ۱ المکتبۃ التجاریۃ الکبریۃ
 ۱۳۵۶ھ و کتاب الام صفحہ ۱۹۸ جلد ۵)

اور جہاں تک فریقین کی رضامندی کا سوال ہے اس کو وہ بھی دوسرے تمام فہریاء کی طرح خلع کے لئے لازمی شرط قرار دیتے ہیں، چنانچہ وہ کتاب الام کے باب الخلع والنشووز میں پوری صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں :

﴿وَانْ قَالَ لَا أَفَارِقُهَا وَلَا أَعْدِلُ لَهَا أَجْبَرُ عَلَى الْقُسْمِ طَلاقٌ﴾

ولا يجبر على فراقها

(الام الشافعی) کتاب الام صفحہ ۱۸۹ جلد ۵، مکتبۃ الكلیات الازھرنیۃ
 ۱۳۸۱، باب الخلع والنشووز)

”او اگر شوہر کہے کہ نہ میں یوں کو علیحدہ کروں گا اور نہ اس کے ساتھ انصاف کروں گا تو اُسے انصاف پر مجبور کیا جائے گا، لیکن علیحدگی پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔“

اور ایک دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں :

﴿وَلِيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرُهُمَا بِيَغْرِقَانِ إِنْ رَأَيَا إِلَّا بِأَمْرِ الزَّوْجِ وَلَا
يُعْطِيَا مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِذِنْهَا﴾ (إِيْضًا كَابِ الْأَمْ صَفْحَةٍ ۱۹۴ جَلْدٌ ۵)
”اوْ حَامِكُمْ كُوْيَه اخْتِيَار نَهِيْنَ هُبَّ كَه وَهُهْ كُمْكِينْ كُوْشُهْرَهْ كَه حَمْ
كَه بَغْيَرْ تَفْرِيقْ كَهْنَهْ كَهْ حَمْ دَهْ اوْرَيْه بَهْيَه اخْتِيَار نَهِيْنَ كَه
عُورَتْ كَاهَلْ اَسْ كَيْ اَجَازَتْ كَه بَغْيَرْ شُهْرَهْ كَوْدَهْ۔“

اور آگے ایک مقام پر لکھتے ہیں :

﴿وَإِنَّا جَعَلْنَا هَا تَطْلِيقَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الطَّلاقَ مِنْ تَنَانِ
فَعَقْلَنَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقُولُ بِإِبْيَاعِ الزَّوْجِ وَعَلِمْنَا أَنْ

الْخَلْعُ لَمْ يَقُولُ إِلَّا بِإِبْيَاعِ الزَّوْجِ﴾ (کَابِ الْأَمْ صَفْحَةٍ ۱۹۸ جَلْدٌ ۵)
”اوْ هُمْ نَهِيْنَ مُعَالِمَه خَلْعَه طَلاقَ اَسْ لَهْ قَرَارَه يَا كَه اللَّه تَعَالَى
فَرِمَاتَهْ طَلاقَ مِنْ تَنَانِ توْهُمْ نَهِيْنَ اللَّهَ كَهْ کَلامَ سَهْ
یَهْ بَاتْ سَهْیَهْ ہُبَّ کَه طَلاقَ صَرْفْ شُهْرَهْ کَه وَاقْعَنْ کَهْنَهْ سَهْ
وَاقْعَنْ ہُوتَیْه ہُبَّ کَه اوْرَيْه بَهْیَه مُعْلَمَ ہُبَّ کَه خَلْعَه شُهْرَهْ کَه وَاقْعَنْ کَه
بَغْيَرْ وَاقْعَنْ نَهِيْنَ ہُوتَهْ۔“

اور اس کے دو صفحوں کے بعد تو اس مسئلے کو بالکل ہی کھوں کر بیان کروایا
ہے، فرماتے ہیں :

﴿وَكَذَلِكَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِنْ خَالِمَ عَنْ عَبْدِهِ بَغْيَرِ إِذْنِهِ لَإِنَّ الْخَلْعَ
طَلاقَ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ إِنْ يَطْلُقَ عَنْ أَحَدٍ، لَا إِنْ وَلَاسِيدُوا لَا
وَلِيْ وَلَا سُلْطَانٌ إِنَّمَا يَطْلُقُ الْمَرْءَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يَطْلُقُ عَلَيْهِ
السُّلْطَانُ بِالْزَّمْهِ مِنْ نَفْسِهِ أَذَا امْتَنَعَ هُوَ إِنْ يَطْلُقُ وَكَانَ مِنْ لَهْ
طَلاقَ وَلِيْسَ الْخَلْعُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى بِسَيِّلٍ﴾ (إِيْضَا صَفْحَةٍ ۲۰۰ جَلْدٌ ۵)

”اسی طرح غلام کا آقا اگر اپنے غلام کی طرف سے بغیر غلام کی اجازت کے خلع کر لے (تو صحیح نہ ہو گا) اس لئے کہ خلع طلاق ہے۔ لہذا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی طرف سے طلاق دے، نہ باب کو یہ حق ہے، نہ آقا کو، نہ ولی کو، اور نہ سلطان (حاکم) کو۔ طلاق تو انسان اپنی طرف سے خود دیتا ہے، یا جب وہ طلاق سے باوجود اہل طلاق ہونے کے باز رہے اور اسی کی طرف سے سلطان کو طلاق دینا لازم ہو جائے تو سلطان طلاق دے دیتا ہے، لیکن خلع میں یہ صورت بالکل نہیں پائی جاسکتی۔“

اس میں آخری جملوں نے تو یہ بات بالکل واضح کروی ہے کہ خلع کے معاملہ میں شوہر کی رضامندی طلاق سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ طلاق تو کبھی کبھی خاص حالات میں حاکم بھی شوہر کی طرف سے دے سکتا ہے، لیکن خلع میں یہ بات بھی نہیں پائی جاسکتی۔

مندرجہ بالا اقتباسات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن حضراتِ فقہاء نے خلع کو طلاق کے بجائے فتح نکاح کہا ہے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ فتح نکاح اقالہ کی طرح فریقین کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

اگے جشن صاحب فرماتے ہیں :

”اور اگر خلع کو طلاق ہی قرار دیا جائے جیسا کہ بعض قدماء حنفیہ (ORTHODOX HANAFI JURSTS) کا خیال معلوم ہوتا ہے، تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت کو خاص حالات میں پر حق نہیں ہے کہ وہ شوہر سے اس کی مخالفت کے باوجود طلاقِ خلع حاصل کرے؟ اس مسئلے کی

کوئی تصریح ان خفی فقہاء کے یہاں نہیں ملتی۔“

(پی ایل ذی (پریم کورٹ) ۱۹۶۷ء صفحہ ۱۱۲)۔

یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ خلع کو طلاق قرار دینا صرف ”بعض قسماء خفیہ“ ہی کا خیال نہیں، بلکہ یہ تمام خفیہ کا متفقہ مسئلہ ہے، اور صرف خفیہ ہی نہیں، فقہاء کی اکثریت خلع کو طلاق قرار دیتی ہے، علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں : ﴿وَأَنَّا نَوْعَ الْخَلْعِ فَالْجَمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ طَلاقٌ﴾

”جہاں تک خلع کی نوعیت کا تعلق ہے جمہور (اکثر فقہاء) کے نزدیک وہ طلاق ہی ہے۔“ (ابن رشد) : بدایۃ الجہید صفحہ ۲۹ جلد ۲
صطفی البانی ۱۳۰۰ھ، مزید دیکھئے تغیر ابن کثیر صفحہ ۲۷، جلد ۱)۔

دوسری بات یہ ہے کہ جشن صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ خفی فقہاء کے یہاں ایسی کوئی تصریح نہیں ملتی کہ عورت شوہر کے راضی نہ ہونے کی صورت میں ”طلاق خلع“ حاصل نہیں کر سکتی، لیکن ہم یہاں خفی فقہاء کی چند تصريحات پیش کرتے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خلع شوہر کی رضامندی پر موقوف ہے، علامہ ابو بکر جعفرا ص رحمۃ اللہ علیہ قسماء خفیہ کے مستدر ترین فقہاء میں سے ہیں، اور جشن صاحب نے بھی ان کی کتاب ”احکام القرآن“ سے مختلف معاملات میں حوالے نقل کئے ہیں۔ یہاں ہم پہلے انہی کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ وہ حضرت جیلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، (یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا) ﴿لَوْ كَانَ الْخَلْعُ إِلَى السُّلْطَانِ شَاءَ الزَّوْجَانِ أَوْ يَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا لَا يَقِيمَانَ حَدُودَ اللَّهِ مَلِيْسَلَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَخْاطِبُ الزَّوْجَ بِقَوْلِهِ أَخْلِعُهَا بَلْ كَانَ يَخْلِعُهَا مِنْهُ وَيَرْدِعُهُمْ حَدِيقَةً وَلَمْ أَبْيَا أَوْ وَاحِدَ مِنْهُمَا﴾

”اگر خلخ کا یہ اختیار حاکم کو ہوتا کہ وہ جب دیکھے کہ زوجین حدود اللہ کو قائم نہیں کریں گے (تو خود نکاح فتح کر دے) خواہ زوجین چاہیں یا نہ چاہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر سے اس معاملے میں کچھ نہ پوچھتے اور نہ شوہر سے یہ کہتے کہ تم ان سے خلخ کرلو، بلکہ خود خلخ کر کے شوہر کا باغ ان کو لوٹا دیتے چاہے وہ دونوں انکار کرتے یا ان میں سے کوئی ایک انکار کرتا۔“

اس عبارت میں علامہ ابو بکر جھاں رحمۃ اللہ علیہ نے صاف تصریح فرمادی ہے کہ اگر حاکم یہ دیکھے کہ زوجین حدود اللہ کو قائم نہیں کر سکیں گے تو بھی وہ شوہر اور یوں دونوں کی رضامندی کے بغیر خلخ نہیں کر سکا، اگر ان دونوں میں سے ایک بھی خلخ سے انکار کر دے تو حاکم کو خلخ کا اختیار نہیں۔ فقیہاء کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جوبات ان کے بیہاں مختلف فیہ اور معروف و مشہور ہو، اسے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے کسی ایک جگہ اصولی طور پر بیان کر دیتے ہیں، یعنی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص فقیہاء کی عبارتوں میں یہ مسئلہ تلاش کرنا چاہے کہ ”طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، عورت کو نہیں“ تو ان الفاظ کے ساتھ اسے فقیہاء کی تصریحات بہت کم ملیں گی، اس لئے کہ یہ بات اتنی طے شدہ ہے کہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل یہی معاملہ خلخ کے ساتھ بھی ہے۔ یہ مسئلہ کہ ”خلخ کے لئے زوجین میں سے ہر ایک کی رضامندی ضروری ہے“ فقیہاء کے بیہاں اتنا معروف و مشہور، اور متفق علیہ اور مسلم ہے کہ وہ اسے مستقل طور پر بہت کم ذکر کرتے ہیں، البتہ خلخ کی تعریف، تعارف اور اس کے ارکان و شرائط بیان کرتے ہوئے اسے اصولی طور پر ذکر کرتے ہیں یا کسی اور مسئلے کی دلیل میں بطور ایک مسئلہ

حقیقت کے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیریہ میں جو خنی فقد کی مسلم اشبوت کتاب ہے، صراحت کے ساتھ لکھا ہے :

﴿ وشرطہ شرط الطلاق ﴾ (عالمگیریہ: صفحہ ۵۱۵ جلد ۱)

”خلع کی تمام شرائط وہی ہیں جو طلاق کی ہیں۔“

اور علامہ علاء الدین حکفی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :

﴿ وشرطہ کاظل طلاق ﴾ (ابن عابدین: صفحہ ۶۰۶ جلد ۲)

”خلع کی شرائط طلاق جیسی ہیں۔“

اور شمس الامم سر خی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :

﴿ والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد ﴾

التراضي كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض ولزوج

ولالية ايقاع الطلاق وله ولالية التزام العوض ﴾

(السرخسی: المبسوط صفحہ ۱۷۳ جلد ۶ مطبعة السعادۃ مصر ۱۳۲۴)

”اور خلع حاکم کے پاس بھی جائز ہے اور حاکم کے بغیر بھی، اس لئے کہ یہ ایک ایسا معاملہ (TRANSACTION) ہے جس کی ساری بنیاد باہمی رضامندی پر ہے، اور یہ معاوضہ لے کر طلاق دینے کے حکم میں ہے، شوہر کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے اور عورت کو معاوضہ اپنے اور لازم قرار دینے کا۔“

اس کے علاوہ فہریاء دوسرے معاملات کی طرح خلع کا رکن بھی ایجاد (OFFER) اور قبول (ACCEPT BNCE) کو قرار دیتے ہیں، مثلاً ملک

العلماء کاسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

﴿وَأَتَارَكُنَهُ فَهُوَ الْيَحَابُ وَالْقَبُولُ لَأَنَّهُ عَقدٌ عَلَى الظَّلَاقِ﴾

بعوض فلاتق الفرقه ولا يستحق العوض بدون القبول ﴿﴾

(الكاساني[ؑ]: بداع الصنائع صفحه ١٤٥ جلد ٣ مطبعة الجمالية مصر ١٢٢٨)

”رہا خلخ کارکن تو وہ ایجاد اور قبول ہے، اس لئے کہ یہ معاوضہ کے ساتھ طلاق کا معاملہ ہے، لہذا بغیر قبول کے علیحدگی واقع نہیں ہوگی۔“

واضح رہے کہ فقهاء کی اصطلاح میں کسی عمل کا رکن وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر اس عمل کا شرعی وجود (LEGAL ENTITY) ہی نہیں ہوتا۔ مثلاً جدہ نماز کا رکن ہے، اس لئے جدہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح ایجاد و قبول خلخ میں بھی رکن ہیں جس کے بغیر خلخ نہیں ہو سکتا۔

مذکورہ بالا اقتباسات سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو فقهاء اسے طلاق قرار دیتے ہیں وہ بھی اور جو حفراط اسے فتح کرتے ہیں وہ بھی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ خلخ باہمی رضامندی کا معاملہ ہے، جس میں شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے، اور کوئی فریق دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ لہذا خلخ کے طلاق یا فتح ہونے سے مسئلہ زیر بحث پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

آگے جشن ایں اے رحمان صاحب نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ خلخ میں شوہر کی رضامندی کا مسئلہ مختلف فیہ ہے۔

(پی ایل ذی (پریم کورٹ) ۱۹۶۷ء صفحہ ۱۱۶)

بعض لوگ شوہر کی رضامندی کو ضروری سمجھتے ہیں اور بعض حفراط اسے ضروری قرار نہیں دیتے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جشن صاحب اپنے اس دعوے کی تائید میں فقهاء کے جو اقوال پیش کرتے ہیں وہ بالکل دوسرے مسئلے سے متعلق ہیں، اور ان کا شوہر کی رضامندی سے کوئی تعلق نہیں۔

اس سلسلے میں جنش صاحب نے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت

چیش کی ہے وہ یہ ہے :

﴿ اتفق الانمہ علی ان المرأة اذا کرہت زوجها القیح منظر
او سوء عشرة جاز لها ان تخلعه علی عوض وان لم يكن من
ذلك شيئاً وتراضياً علی الخلع من غير سبب جاز ولم يکرہ
خلال فاللزہری وعطاء داؤد فی قولهم ان الخلع لا یصح
فی هذه الحالة لأنه عبیث والعبیث غير مشروع ﴾

(الشعرانی[ؒ]: المیزان الکبری صفحہ ۱۱۹ جلد ۲ دار احیاء الکتب المصریہ)

”تمام آئندہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو بد صورتی یا سوءِ معاشرت کی بنا پر ناپسند کرتی ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ شوہر سے معاوضہ پر خلع کا معاملہ کر لے اور اگر ناپسندیدگی کی کوئی وجہ نہ ہو اور میاں بیوی خلع پر بلا وجہ راضی ہو جائیں تب بھی جائز ہے اور مکروہ نہیں، البتہ اس میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام عطاء رحمۃ اللہ علیہ، اور امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں خلع صحیح نہیں، اس لئے کہ وہ عبیث ہے اور عبیث غیر مشروع ہے۔“

اس عبارت ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اختلاف شوہر کی رضامندی کے مسئلے میں نہیں، بلکہ ماں مسئلے میں ہے کہ فریقین کی رضامندی کے بعد بھی خلع ہر حال میں جائز ہے یا صرف اس صورت میں جائز ہے جبکہ بیوی اپنے شوہر کو ناپسند کرنے کی معقول وجہ رکھتی ہو۔ اکثر فقہاء نے پہلی رائے کو اختیار کیا ہے، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام عطاء رحمۃ اللہ علیہ، اور امام داؤد طاہری

رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری رائے کو، لیکن جہاں تک خلخ میں فریقین کی رضامندی کا تعلق ہے، اس کو دونوں فرق ضروری قرار دیتے ہیں جیسے کہ جازطاً ان تعالیٰ علی عوض اور و تراضیاً علی الخلل کے الفاظ اس پر شاہد ہیں۔ خدا جانے اس عبارت کے کون سے لفظ سے جسٹ صاحب نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی فریق کے نزدیک شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی خلخ ہو سکتا ہے؟

اس کے بعد جسٹ صاحب نے عمرہ القاری کے حوالہ سے امام ماںک رحمۃ اللہ علیہ، امام او زاعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسْلَم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک زوجین کے درمیان مصالحت کرانے کے لئے جو حکم بھیجے جاتے ہیں ان کو تفریق کا بھی اختیار ہوتا ہے، اور اگر وہ مناسب سمجھیں تو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی تفریق کر سکتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ امام ماںک رحمۃ اللہ علیہ نے "حکمین" کو یہ اختیار دیا ہے، لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے تمام فقهاءِ رحمہم اللہ کا مسلک یہی ہے کہ جب تک شوہر حکمین کو اپنا وکیل مختار نہ بنائے، اس وقت تک ان کو شوہر کی مرضی کے بغیر تفریق کا اختیار حاصل نہیں ہے، ان حضرات کا استدلال یہ ہے کہ قرآن کریم میں حکم بھیجئے کا ذکر متدرج ذیل آیت میں کیا گیا ہے :

﴿وَإِنْ خَمْسُ شِفَاقٍ بَيْنَهُمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمْ﴾

"اور اگر تمہیں میاں یوی کے درمیان پھوٹ پڑ جانے کا اندریشہ ہو تو تم ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے بھیجو، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ زوجین کے اندر موافقت پیدا فرمادے گا۔"

اس آیت کا آخری جملہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ حکم زوجین کے درمیان تفریق اور علیحدگی کے لئے نہیں، بلکہ دونوں میں موافقت پیدا کرنے اور پھوٹ سے بچانے کے لئے بھیجے جا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں :

﴿وَلِيسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِيَرْفَاقَ إِنْ رَأَيَا إِلَّا بِأَمْرِ الزَّوْجِ وَلَا
يُعْطِيَهُم مَالَ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِذِنْهَا﴾ (قال) فلان اصطلاح الزوجان

وَالآكَانْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى
صَاحِبِهِ بِمَا يَلِزِمُهُ مِنْ حُقْقِنَفْسِ وَمَالِ وَأَدْبَرِ (قال) وَذَلِكَ
أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّهُمَا «إِنْ يَرِيدَا اصْلَاحًا يُوفِّقَ اللَّهُ بِنِهِمَا» وَلَمْ
يُذَكِّرْ تَفْرِيقًا (قال) وَأَخْتَارَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْأَلَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَتَرَا
ضِيَا بِالْحَكْمِيْنِ وَيُوْكَلَا هُمَا معاً فَيُوْكَلُهُمَا الزَّوْجُ إِنْ رَأَيَا أَنْ
يُفْرَقَا بَيْنَهُمَا فَرْقًا عَلَى مَا رأَيَا مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ أَوْ غَيْرِ
خَدْهِ ﴿کتاب الام صفحہ ۱۹۶ جلد ۵﴾

”جب میاں یوی کے درمیان پھوٹ کا اندیشہ ہو اور وہ حاکم
کے پاس اپنا معاملہ لے جائیں تو اس پر واجب ہے کہ ایک حکم
شوہر کی طرف سے اور ایک حکم یوی کی طرف سے بھیجے، یہ حکم
اہل قاتعت اور اہل عقل میں سے ہوں، تاکہ ان کے معاملے
کی تحقیق کریں اور حتی المقدور مصالحت کرنا میں لیکن حاکم کو
یہ حق نہیں ہے کہ وہ حکمین کو اپنی رائے سے شوہر کے حکم
کے بغیر تفریق کا حکم دے، اور نہ وہ عورت کا کوئی مال اس کی

اجازت کے بغیر شوہر کو دے سکتے ہیں۔ پس اگر زوجین میں مصالحت ہو جائے تو بہتر، ورنہ حاکم پر یہ واجب ہے کہ وہ فریقین میں سے ہر ایک پر دوسرے کے جانی، مالی اور ادبی (معاشرتی) حقوقِ واجبہ کی ادائیگی کا فیصلہ کرے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ذکر فرمایا ہے کہ ”إنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُؤْتِقُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمَا“ (اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں موافقت پیدا فرمادے گا) اور تفرق کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں البشہ حاکم کے لئے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ زوجین سے کہے کہ وہ حکممن کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں اور دونوں اہمیں اپنا وکیل بنادیں، شوہر حکممن کو اسی بات کا وکیل بنائے کہ وہ اگر مناسب سمجھیں تو اپنی براءت کے مطابق کچھ لے کر یا بغیر کچھ لئے تفرق کر دیں۔“

آگے لکھتے ہیں ﴿ و لا يجبرا الزوجان على توكيлемها إن لم يوكلا ﴾

(ایضاً صفحہ ۱۹۵ جلد ۵)

”اوْ اگر زوجین حکممن کو وکیل نہ بنائیں تو اہمیں مجبور نہ کیا جائے گا۔“

امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی دلائل کی روشنی میں تحریر فرماتے ہیں :

﴿ وَلَيْسَ لِلْحَكَمِينَ فِي الشَّقَاقِ أَنْ يَفْرَقُوا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِمَا الزَّوْجَ ﴾

(مختصر الطحاوی: صفحہ ۱۹۱ دارالکتاب العربي دکن ۱۳۷۰)

”اوْرَحَكَمْنَ كُوْيَهْ حَقْ نَهِيْسَ هَيْ كَهْ وَهْ شَقَّاقَ كَيْ صَورَتَ مَيْسَ تَفَرِيْقَ كَرَدِيْسَ الَّا يَهْ كَهْ شَوْهَرَ اَهْنِيْسَ يَهْ اَخْتِيَارَ دَيْهْ“۔

جب جسٹس ایس اے رحمان صاحب نے اس مسئلے پر علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ انہوں نے اس پر بہتر بحث کی ہے لیکن جسٹس صاحب نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی کہ اس بحث کے بعد انہوں نے تیجہ کیا نکالا ہے؟ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر بحث کرنے کے بعد صاف لکھا ہے کہ :

﴿لِيْسَ فِي الْآيَةِ وَلَا فِي شَيْئٍ مِنَ السُّنْنَ أَنَّ الْحَكَمَيْنَ أَنْ يُفْرَقَا وَلَا أَنْ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ﴾

(ابن حزم: المخلص، صفحہ ۸۷ و ۸۸، جلد ۱۰، ادارۃ الطبعۃ المذیرۃ ۱۳۵۲)

”کسی بھی آیت یا حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حکممن کو تفریق کا اختیار ہے، اور نہ یہ اختیار حاکم کے لئے ثابت ہوتا ہے۔“

حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ

جسٹس صاحب نے صحیح بخاری کی مندرجہ ذیل حدیث سے بھی استدلال کیا ہے :

﴿عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابَتْ بْنَ قَيْسَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابَتْ بْنَ قَيْسَ مَا أَعْنَبْتِ عَلَيْهِ فِي خَلْقِيْ وَلَا دِيْنِيْ وَلَكِنِيْ أَكْرَهَ الْكُفَّارَ فِيْ إِسْلَامٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَرَدَّنِيْ عَلَيْهِ حَدِيْثَهُ﴾

قالت نعم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیۃ
وطلقتها تطليقة ﴿

(صحیح بخاری: صفحہ ۷۹۴ جلد ۱۲ صفحہ المطابع کراچی)

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی (جیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور دینداری سے ناراض شیں ہوں، لیکن میں اسلام لانے کے بعد کفر کی باتوں سے ڈرتی ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کا باغ (جو انہوں نے بطور مہربا تھا) لوٹا دوگی؟ انہوں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے فرمایا کہ تم باغ قبول کرلو اور انہیں ایک طلاق دے دو۔“

لیکن اس حدیث سے استدلال اس لئے درست نہیں کہ مذکورہ واقعہ شوہر کی رضامندی سے ہوا تھا، اور انہوں نے خلخ کے اس معاملے کو قبول کر لیا تھا، چنانچہ سنن نسائی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

﴿فَأَرْسَلَ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ خَذِ الَّذِي لَهُ عَلَيْكَ وَخُلِّ

سِيلِهَا قَالَ نَعَمْ ﴾

(الدر المنشور للسيوطی: صفحہ ۲۸۲ جلد ۱ بحوالہ نسائی)

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ جو مال ان کا تم پر واجب تھا وہ

لے لو اور ان کو چھوڑ دو، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہا، ہاں! ”۔

اور ظاہر ہے کہ اگر شوہر خلخ کو قول کر لے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔
گفتگو تو اس صورت میں ہو رہی ہے جبکہ شوہر خلخ پر راضی نہیں ہے۔ رہی یہ بات
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خلخ کا حکم دیا تھا تو یہ حکم باقاعدہ بطور
مشورہ تھا، قاضی کی حیثیت میں جبرا نہیں تھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی
شرح میں تحریر فرماتے ہیں :

﴿ هو أمر بإرشاد واصلاح لا يحاب ﴾

(الحافظ ابن حجر، فتح الباری: صفحہ ۳۲۹ جلد ۹ المطبعة الیہية ۱۳۴۸)

”یہ ہدایت اور اصلاح کا حکم تھا، ایجادی حکم نہ تھا۔“

علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
بھی اس لفظ کی تشریع کرتے ہوئے یہی لکھا ہے۔

اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شوہر کو طلاق کا حکم دیا خواہ
اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قاضی یا حاکم از خود تفرق نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کام
صرف شوہر کر سکتا ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر جعفر ارضی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث
پر تبرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

﴿ لو كان الخلع إلى السلطان شاء الزوجيان أو أياً إذا علم
أنهما لا يقيمان حدود الله لم يستلبما النبي صلى الله عليه
وسلم عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله أخلعها بل كان
يخلعها منه ويرد عليه حديقته وإن أياً أو واحد منها لا
كانت فرقة المتابعين إلى الحاكم لم يقل للملائكة خلّ سيلها ﴾

(الجصاص: احکام القرآن صفحہ ۶۸۷ جلد ۱ المطبعة البهیة ۱۳۴۷)

”اگر یہ اختیار سلطان کو ہوتا کہ وہ جب دیکھے کہ زوجین حدود اللہ کو قائم نہیں کریں گے تو خلع کرے، خواہ یہ زوجین کی خواہش ہویا نہ ہو، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے اس کا سوال نہ فرماتے، اور نہ شوہر سے یہ کہتے کہ تم ان سے خلع کرلو، بلکہ خود خلع کر کے عورت کو چھڑا دیتے، اور شوہر پر اس کا باغ لوٹا دیتے، خواہ وہ دونوں انکار کرتے یا ان میں سے کوئی ایک انکار کرتا۔ جیسے کہ لعan میں زوجین کی تفرقی کا اختیار حاکم کو ہوتا ہے تو وہ ملاعن (شوہر) سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، بلکہ خود تفرقی کر دتا ہے۔“

امام ابو بکر جعاص رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل نہایت وزنی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی فقیہ نے اس حدیث سے استدلال کر کے یہ نہیں کہا کہ حاکم شوہر کو خلع پر مجبور کر سکتا ہے۔

سعیدہ خانم بنا محمد سعید کے مقدمے میں فاضل بیج صاحبان نے بھی حضرت جیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے کا یہی جواب دیا تھا کہ وہاں خلع شوہر کی مرضی سے ہوا تھا۔

(سعیدہ خانم بنا محمد سعید۔ پی ایل ڈی ۱۹۵۲ء لاہور)

جس ایس اے رحمان صاحب سعیدہ خانم کے مقدمے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”سعیدہ خانم کے مقدمے میں اس آیت پر غور نہیں کیا گیا جو حق خلع کے بارے میں ہے، اگرچہ حضرت جیلہ رضی اللہ تعالیٰ

عہنا کی حدیث پر گفتگو کی گئی ہے۔

سعیدہ خانم کے مقدمے میں جو حضرت جیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ کو شوہر کی مرضی کا واقعہ قرار دیا گیا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے موصوف لکھتے ہیں :

”میری ناقص رائے میں یہ بات قرآن کے الفاظ اور روح کے ساتھ جو بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے حقوق کے معاملے میں ایک ہی مقام دیتی ہے، زیادہ ہم آہنگ ہو گی کہ ان واقعات کی تشریع اس طرح کی جائے کہ اول والا مر بیشمول قاضی خلخ کے ذریعہ خود بھی تفہیق کا حکم دے سکے، اگرچہ شوہر اس سے متفق نہ ہو۔“

(پ) ایل ڈی (پریم کورٹ) ۱۹۶۱ء صفحہ ۱۲۰ و ۱۲۱)

ظاہر ہے کہ جس ساحب کے یہ الفاظ مخفی اپنے دعوے کے اعادہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان سے کسی طرح بھی اس بات کا جواب نہیں ہوتا کہ حضرت جیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ باہمی رضامندی کا واقعہ تھا۔ رہی یہ بات کہ قرآن کریم کے ”الفاظ“ اور ”روح“ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قاضی شوہر کی مرضی کے خلاف خلخ کے ذریعہ تفہیق کر سکتا ہے، سو آئیت خلخ پر بحث کرتے ہوئے ہم مفضل بحث کرچے ہیں، جس سے یہ بات کمل کر سامنے آجائی ہے کہ پوری امت اور اس کے ائمہ تغیری نے قرآن کریم کے ان الفاظ کا مفہوم یہی قرار دیا ہے کہ خلخ صرف فریقین کی باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی راستہ نہیں۔

حضرت عمرؓ کا ایک ارشاد

جناب جس ایں اے رحمان صاحب نے اپنے فیصلے میں حضرت عمر رضی

الله تعالیٰ عنہ کے ایک ارشاد سے بھی استدلال فرمایا ہے، سُنْنِ یہتی میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :

﴿اَذَا أَرَادَتِ النِّسَاءُ الْخُلُجَ فَلَا تَكْفُرُوهُنَّ﴾

(الدارالمنثور للسيوطی: صفحہ ۲۸۳ جلد ۱)

”اگر عورتیں خلع کرنا چاہیں تو ان سے انکار نہ کرو۔“

لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد خود اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم فریقین یا ان میں سے کسی ایک کی مرضی کے خلاف خلع نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارشاد میں شوہروں کو خطاب فرمایا ہے، اس لئے کہ حاکم اور قاضی تو وہ خود تھے، اگر حاکم اور قاضی کو از خود خلع کرنے کا اختیار ہوتا تو ان کو شوہروں سے یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ جب عورتیں خلع کرنا چاہیں تو تم انکار نہ کرو۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے اس بات پر کیسے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ حاکم فریقین یا ان میں سے کسی ایک کی مرضی کے خلاف خود خلع کر سکتا ہے۔ ہاں! یہ ارشاد شوہروں کے لئے ایک ہدایت نامہ ضرور ہے کہ جب عورتیں خلع کرنا چاہیں تو انہیں خواہ مخواہ باندھ سے رکھنے کے بجائے خلع کو قبول کر لینا چاہئے۔

یہاں تک ہم نے ان دلائل پر تبصرہ کیا ہے جو جناب جمیش ایں اے رحمن صاحب نے اپنے فیصلے میں پیش کئے ہیں۔ اس فیصلے پر جمیش ایں اے محمود صاحب نے بھی ایک نوٹ لکھا ہے، اس نوٹ میں پیشتر دلائل تو بیانی طور پر وہی ہیں جو جناب جمیش ایں اے رحمن صاحب نے پیش کئے ہیں، اور ان کا جواب یہ چھے تفصیل کے ساتھ آچکا ہے البتہ اس میں دو باتیں نئی ہیں جن کا جواب یہ چھے نہیں آیا :

① علامہ ابن رشدؑ نے بدایۃ المتجددین خلع کا بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :

﴿وَالْفَقِهُ أَنَّ الْفَدَاءَ إِنْمَا جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ فِي مَقَابِلَةِ مَا يَبْدِي الرَّجُلُ
مِنَ الطَّلاقِ فَإِنَّهُ لَا جَعَلَ الطَّلاقَ يَبْدِي الرَّجُلُ إِذَا فَرَّكَ الْمَرْأَةَ
جَعَلَ الْخُلْمَ يَبْدِي الْمَرْأَةَ إِذَا فَرَّكَ الرَّجُلُ﴾

”اور خلُم میں راز یہ ہے کہ فدیہ (خلُم) عورت کو مرد کے حق طلاق کے مقابلے میں دیا گیا ہے، اس لئے کہ جب مرد عورت کو ناپسند کرے تو اسے طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، اور جب عورت مرد کو ناپسند کرے تو اس کو خلُم کا اختیار دیا گیا ہے۔“

اس سے جس صاحب نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جس طرح طلاق میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں، اسی طرح خلُم میں مرد کی رضامندی ضروری نہیں، لیکن علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی یہ تشریح بوجوہ فیل صحیح نہیں: (الف) اسی عبارت سے چند سطر پر علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ :

﴿وَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى الْحَالِ الَّتِي يَجْوِزُ فِيهَا الْخُلْمُ مِنَ الَّتِي
لَا يَجْوِزُ فَإِنَّ الْجَمِيعَ عَلَى أَنَّ الْخُلْمَ جَائزٌ بِمَعْنَى التَّرَاضِيِّ إِذَا مُ
يَكْ سَبِبَ رِضاَهُمَا بِمَا تَعْطِيهِ إِصْرَارَهُمَا﴾

(ابن رشد: بیان الجتهد صفحہ ۶۸ جلد ۲ مصنفوں البابی ۰۱۳۷۹)

”رہی یہ بات کہ خلُم کوں کی حالت میں جائز ہوتا ہے اور کوئی حالت میں ناجائز، سو جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ خلُم ہائی رضامندی کی حالت میں جائز ہے، بہتر طیکہ عورت کے مال کی ادائیگی پر راضی ہونے کا سبب مرد کی طرف سے اسے نگ کرنا نہ ہو۔“

اس عبارت سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ خُلُج جائز ہی اس وقت ہوتا ہے جبکہ شوہر اور بیوی دونوں اس پر رضامند ہوں، البتہ چونکہ اس طرح عورت کو فی الجملہ علیحدگی کا ایک راستہ مل جاتا ہے، اس لئے علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک تکنیٰ کے طور پر اس طرح بیان کر دیا ہے کہ عورت کا یہ اختیار مرد کے حقِ طلاق کے مقابلے میں ہے۔

(ب) ورنہ اگر علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہوتا کہ خُلُج کا حق ٹھیک مرد کے حقِ طلاق کی طرح ہے تو ہونا یہ چاہئے تھا کہ ان کے نزدیک اس کے لئے عورت کو مال ادا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی بلکہ جس طرح مرد کچھ پیسے دیئے بغیر طلاق دینے کا حق رکھتا ہے، اسی طرح عورت بھی پیسے ادا کئے بغیر علیحدگی حاصل کرنے کی مجاز ہوتی، حالانکہ یہ وہ بات ہے جسے خود جمیش صاحبان بھی تسلیم نہیں فرماتے۔

(ج) اسی طرح اگر اس عبارت کا وہی مطلب ہوتا جو ان حضرات نے سمجھا ہے تو عورت کو خُلُج کے لئے عدالت کی طرف رجوع کرنے کی بھی ضرورت نہ ہونی چاہئے۔ بلکہ جس طرح شوہر عدالت میں جائے بغیر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی یہ حق ملنا چاہئے تھا، حالانکہ معزز جمیش صاحبان اس بات کو بھی تسلیم نہیں فرماتے۔

اس سے واضح ہو گیا کہ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد طلاق اور خُلُج کو ہر اختیار سے ایک ہی سطح پر لاکھڑا کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تکنیٰ کے طور پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ عورت کو بھی خُلُج کے ذریعہ علیحدگی کا ایک راستہ دے دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کو مہریا کچھ اور مال کی ترغیب والا کر علیحدگی حاصل کر سکتی ہے، اس کے لئے ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں جیسا کہ خود الفاظ قرآن لاجناح میں اس کی واضح شہادت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خُلُج میں شوہر کی

رضامندی کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے۔

(د) یہاں ایک اصولی بات کی طرف منصر اشارہ کردیا گی فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔ تمام فقہاء و حکم اللہ تعالیٰ کا طریقہ عموماً یہ ہے کہ وہ صرف احکام اور ان کی ملیش بیان کرتے ہیں، حکمتوں اور مصلحتوں کا ذکر نہیں کرتے، اور اگر کہیں اتفاقاً ان کا ذکر آئے تو الفقه فیہ یا التسریفہ کے الفاظ سے اس کو ممتاز کر دیتے ہیں، الی صورت میں مسلمہ اصول یہ ہے کہ فقہاء کا قانونی منشاء علوم کرنے کے لئے ان کے بیان کردہ اسباب و علل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور جو بات وہ حکمت و مصلحت کے طور پر بیان کرتے ہیں اُسے کسی قانونی حکم کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا، اس لئے کہ احکام قبیلہ کا مدار علتوں پر ہوتا ہے، حکمتوں پر نہیں۔ اور اس مقام پر ابن رشدؓ نے یہ لکھتے الفقه فیہ کے عنوان سے ہی بیان فرمایا ہے۔

(۲) ہمیں سب سے زیادہ حیرت جناب جنتیں ایں اے محمود صاحب کے اس ارشاد پر ہے کہ :

"Ibne Hazam in "Al-Mohalla" supports the Qazi's right to effect separation by Khula after efforts at reconciliation have failed"

(PLD (SC) 1967 p.137)

”ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے المُحْلَّی میں قاضی کے اس حق کی حمایت کی ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا کرنے کی کوششیں ناکام ہو جائیں تو وہ خان کے ذریعہ ترقیت کر سکتا ہے۔“

حالانکہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے جس سختی کے ساتھ قاضی اور حکمکن کے ایں حق کی تردید کی۔ ہے اسے ہر شخص المُحْلَّی میں دیکھ سکتا ہے۔ وہ

لکھتے ہیں : ﴿وَلَيْسَ طَهَا أَن يَفْرَقَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لَا يَجْلِمُ وَلَا بَغِيرَه﴾

”حکمین کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان خلخ کے ذریعہ یا بغیر خلخ کے تفریق (علیحدگی) کر دیں۔“

اور اس مسئلہ پر مفصل بحث کر کے آخر میں لکھتے ہیں :

﴿لِيْسَ فِي الْآيَةِ وَلَا فِي شَيْئٍ مِّنَ السُّنْنِ أَنَّ لِلْحَكَمِينَ أَنْ يَرْقُوا وَلَا أَنْ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ﴾

(ابن حزم^ف الحلبی، صفحہ ۸۷ و ۸۸ جلد ۱۰، ادارۃ الطباعة المدینۃ ۱۳۵۲ھ)

یعنی ”کسی آیت یا کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حکمین کو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرنے کا اختیار ہے اور نہ یہ اختیار حاکم (قاضی) کے لئے ثابت ہوتا ہے۔“

مُبْتَدَأ لَا كُلْ

اب تک ہم نے ان دلائل کا فقہی جائزہ لیا ہے جو پریم کورٹ کے مذکورہ فیصلے میں پیش کئے گئے ہیں۔ اب ہم مختصرًا وہ دلائل مثبت طور پر پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خلخ باہمی رضامندی کا معاملہ ہے، اور حاکم کسی فریق کے علی الرغم اسے نافذ نہیں کر سکتا۔

① خلخ کی آیت پر ہم پچھے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرچکے ہیں، اس بحث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت کے تین جملے خلخ کے لئے فریقین کی رضامندی کو ضروری قرار دیتے ہیں :

(الف) إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يَنْتَهِ مَحْدُودُ اللَّهِ

(ب) فَلَا يَجْنَاحُ عَلَيْهِمَا

(ج) فَيَنْعَلِمُ أَفْدَاثُهُمْ

وَإِنْ حَلَقُوكُمْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَحْشُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِئَاةً فَنَصِّفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَقْعُونَ أَوْ يَعْقُوْلُ الَّذِي بِيدهِ
عُهْدَةُ النِّكَاحِ ۝

”اور اگر تم ان بیویوں کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ
لگاؤ، اور ان کے لئے کچھ ہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جتنا ہر مقرر
کیا ہوا س کا نصف ہے، مگر یہ کہ وہ عورت میں معاف کردیں یا یہ
کہ وہ شخص رعایت کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق
ہے۔“

(ترجمہ ما خود از حکیم الامم مولانا حبتوی) : بیان القرآن، صفحہ ۱۳۱ جلد ایضاً شیخ غلام علی)
اس آیت میں الَّذِي بِيدهِ عُهْدَةُ النِّكَاح (وہ شخص جس کے ہاتھ میں
نکاح کا تعلق ہے) سے مراد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق
شوہر ہے، جس کے بارے میں آیت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نکاح کا رشتہ تھا اسی
کے ہاتھ میں ہے، لہذا اس رشتے کو اس کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔
جب جشن ایس اے رحمن اور جناب جشن ایس اے محمود صاحب
نے اس دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ بعض مفسرین نے یہاں الَّذِي بِيدهِ عُهْدَةُ
النِّكَاح سے مراد شوہر کے بجائے عورت کے ولی کو قرار دیا ہے۔

لیکن یہ جواب مندرجہ ذیل وجہ سے درست نہیں :
① یہ تفسیر کا ایک مسئلہ اصول ہے کہ کسی آیت کا جو مفہوم خود آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا ہو وہی مفہوم سب سے زیادہ مستند، قوی اور واجب

القبول ہوتا ہے، اور اس معاطلے میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد موجود ہے جسے مختلف محدثین نے روایت کیا ہے، اور سندر کے لحاظ سے اس کا مرتبہ "حسن" سے کسی طرح کم نہیں۔ وہ ارشاد یہ ہے :

عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال قال رسول

الله صلی اللہ علیہ وسلم ولی عقدة النکاح الزوج

(الدارقطنی² : بحرالله نسیر العروطی³ : صفحہ ۲۰۶ جلد ۲ دارالكتب
المصرية ۱۹۳۶)

"حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی عقدۃ النکاح (سے مراد) شوہر ہے"۔

اور اسی معنی کی ایک حدیث مرفوع ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، ابن الجائم رحمۃ اللہ علیہ، طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور یہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سند حسن کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی بیان کی ہے۔ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الَّذِي يَدْعُ عَقْدَةً النِّكَاحَ کی تفسیر "شوہر" سے فرمائی ہے۔ (الآلوی : روح المعانی، صفحہ ۵۳، جلد ۱۲ ادارہ الہدایۃ المنیریۃ)
اسی وجہ سے صحابہ کرام^{رض} کی اکثریت سے اس آیت کی یہی تفسیر منقول ہے جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہیں۔

۲ امام المفسرین حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس موضوع پر نہایت مفصل بحث کی ہے اور ناقابل انکار دلائل سے اسی تفسیر کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان دلائل کو تفصیل کے ساتھ وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں بغرضِ

اختصار حوالہ پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

(دیکھئے تفسیر ابن حجر بر رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ۳۲۸ جلد ۱۲ المطبعة المیتیۃ مصر)

۲) جسٹ صاحبان نے اس آیت کے جس مفہوم کو ترجیح دی ہے، اس کا نتیجہ یہ لکھتا ہے کہ عورت کا ولی عورت کی اجازت کے بغیر اس کا حق ہر معاف کر سکتا ہے۔ قاضی ابوالسعود رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر قرآن ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے اگلے جملے سے استدلال کر کے اس مفہوم کے خلاف بڑی مضبوط بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے فوراً بعد ارشاد ہے :

﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّعْوِيٰ﴾

”اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔“

حالانکہ ولی کا عورت کے حق ہر کو معاف کر دینا کسی بھی اعتبار سے تقویٰ نہیں کہلا سکتا، یہ بات اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اس کا مخاطب شوہر کو قرار دے کریہ کہا جائے کہ وہ رعایت کر کے پورا ہر ادا کرنے تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے :

﴿إِنَّ الْأَوَّلَ (الَّتِي كَوَنَ الْمَرَادُ هُوَ الزَّوْجُ) أَنْسَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّعْوِيٰ فَإِنْ اسْقَاطَ حَقَ الصَّغِيرَةِ لَيْسَ فِي
شَيْءٍ مِّنَ التَّعْوِيٰ﴾

(القاضی ابوالسعود: تفسیر ارشاد العقل السليم صفحہ ۱۷۹ جلد ۱ المطبعة المصرية (۱۳۴۷))

فقہاء کی عبارتیں

آخر میں ہم فقہاء مجتہدین کی وہ عبارتیں پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور ظاہری مسلم میں سے ہر ایک اس بات پر

بنتیجہ ہے کہ خلع صرف میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے، اور ان میں سے کوئی فرق دوسرا کے کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔

حقی مسلک :

حقی مسلک کی بہت سی کتابوں کے حوالے ہم پیچے پیش کرچے ہیں، یہاں صرف مفسن الائمه سرخی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عمارت پیش کرتے ہیں جو تمام فقیہاء ختنیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مأخذ کی حیثیت رکھتی ہے :

﴿وَالخَّلْعُ جَائزٌ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ لَا نَهُ عَقْدٌ يَعْتَدُ

التراضي﴾

(السرخسی: المبسوط صفحہ ۱۷۳ جلد ۶ مطبعة السعادۃ مصر (۱۳۲۴))

”اور خلع سلطان (حاکم) کے پس بھی جائز ہے“ اور اس کے علاوہ بھی۔ اس لئے کہ یہ ایسا عقد ہے جس کی ساری بنیاد باہمی رضامندی پر ہے۔“

اس کے علاوہ امام ابو بکر حفاظ رحمۃ اللہ علیہ کی صریح عبارت اس مفہوم پر پیچے دوبار پیش کی جا چکی ہے نیز فتاویٰ عالمگیریہ اور ابن عابدین شافعی کی عبارتیں بھی گذر چکی ہیں۔

شافعی مسلک :

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :

﴿لَانَ الْخَلْعُ طَلاقٌ فَلَا يَكُونُ لَا حَدَّاً يَطْلُقُ عَنْ أَحَدَابٍ

وَلَا سِدِّ وَلَا وَلَى وَلَا سُلْطَانٌ﴾

(الام الشافعی: کتاب الام صفحہ ۲۰۰ جلدہ مکتبۃ الکلیات

الازھریہ (۱۳۸۱))

”اس لئے کہ خلخ طلاق کے حکم میں ہے، لہذا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کی طرف سے طلاق دے، نہ باب کو یہ حق ہے، نہ آقا کو، نہ سرپرست کو اور نہ حاکم کو۔“

لہو علامہ ابوالحنفی شیرازی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

﴿لَمْ يُرْفَ عَدْبَ الْمَاضِيِّ جَعْلَ لِدْفَ الصَّرْرِ فَجَازَ مِنْ غَيْرِ ضَرْرٍ كَلَا قَالَهُ فِي الْيَعِ﴾

(الشیرازی: المذهب صفحہ ۷۱ جلد ۲ عیسیٰ الباجی ۱۳۷۶)

”اس لئے کہ یہ (خلخ) باہمی رضامندی سے عقد نکاح کو ختم کرنے کا نام ہے جو ضرر دور کرنے کے لئے مشروع ہوا ہے، لہذا جہاں کسی فریق کو ضرر نہ ہو وہاں (درجہ اولیٰ) جائز ہے، جیسے کہ بیچ میں اقالہ (وابیسی)۔“

ماکنی مسلک :

① علامہ ابوالولید باجی ماکنی رحمۃ اللہ علیہ موطاء امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں لکھتے ہیں :

﴿وَتَبَرُّ عَلَى الرَّجُوعِ إِلَيْهِ إِذْ لَمْ يُرِدْ فِرَاقَهَا بَخْلُعٌ أَوْغَيْرُهُ﴾

(ابوالولید الباجی: المنقلي صفحہ ۶۱ جلد ۷ مطبعة السعادة)

”عورت کو شوہر کے پاس جانے پر مجبور کیا جائے گا اگر شوہر خلخ وغیرہ کے ذریعہ علیحدگی نہ چاہتا ہو۔“

اوہ علامہ ابن رشد ماکنی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :

﴿وَأَمَّا مَا يُرْجِعُ إِلَى الْحَالِ الَّتِي يَحْوِزُ فِيهَا الْخَلْعُ مِنَ الَّتِي لَا يَحْوِزُ فَلَمَّا جَمَهُرَ عَلَى أَنَّ الْخَلْعَ جَائزًا مَعَ التَّرَاضِيِّ إِذَا مِنْ

یک سبب رضاہما با تعطیہ اضرارہ بھا۔

(ابن رشد: بدایۃ الجنہ صفحہ ۶۸ جلد ۲ مصطفیٰ الباجی ۱۳۷۹)

”رعنی یہ بات کہ خلع کون سی حالت میں جائز ہوتا ہے اور کوئی حالت میں ناجائز تو جہوں فقہاء کا اتفاق ہے کہ خلع باہمی رضامندی کے ساتھ جائز ہے، بشرطیکہ عورت کے مال کی ادائیگی پر راضی ہونے کا سبب مرد کی طرف سے اسے تسلیک کرنا نہ ہو۔“

حنبلی مسلمک :

فقہ حنبلي کے مستند ترین شارح علامہ موفق الدین بن قدامة حنبلي رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :

﴿ولَا نَهَا مَعَاوِضَةَ قَلْمَنْ يَهْرَبُ إِلَى السُّلْطَانِ كَالْبَيْعِ وَالنَّكَاحِ وَلَا نَهَى قَطْعَ عَدْ بِالْتَّرَاضِيِّ أَشْبَهُ الْإِقَالَةِ﴾

(ابن قدامة: المغني صفحہ ۵۲ جلد ۷ دار المنار ۱۳۶۷)

”اور اس لئے کہ یہ عقد معاوضہ ہے، لہذا اس کے لئے حاکم کی ضرورت نہیں، جیسا کہ بیع اور نکاح۔ نیز اس لئے کہ خلع ہمیں رضامندی سے عقد کو ختم کرنے کا نام ہے، لہذا یہ اقالہ (بیع) کے مشابہ ہے۔“

اور علامہ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :

﴿وَفِي تَسْمِيَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلْعَ فِدْيَةً دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْمَعَاوِضَةِ وَلَهُذَا اعْتَبِرُ فِيهِ رَضَا الزَّوْجِينَ﴾

(ابن القیم: زاد المعاد صفحہ ۲۲۸ جلد ۲ میہنہ نصرہ ۱۳۲۴)

”اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلع کا نام فدیہ رکھا،“

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں عقدِ معاوضہ کے معنی پائے جاتے ہیں، اسی لئے اس میں زوجین کی رضامندی کو شرط قرار دیا گیا ہے۔

ظاہری مسلک :

علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :

﴿الخلع وهو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت ان لا توفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدى منه و يطلقها إن رضي هوو إلام يبحبر هوو لا أجبرت هي، إنما يجوز بتراضيهما ولا يحل الافتداء إلا باحد الوجهين المذكورين او اجتماعهما فان وقع بغير هما فهو باطل ويرد عليها ما أخذ منها وهي إمرأته كما كانت ويبطل طلاقه وينبع من ظلمها فقط﴾

(ابن حزم: اخلاق صفحہ ۲۳۵ جلد ۱۰ ادارة الطباعة المنبریہ ۱۳۵۳)

”خلع اور وہ فدیہ دنے کر جان چھڑانے کا نام ہے، جب عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرے اور اُسے ڈر ہو کہ وہ شوہر کا حق پورا ادا نہیں کر سکے گی، یا اُسے خوف ہو کہ شوہراس سے نفرت کرے گا اور اس کے پورے حقوق ادا نہیں کرے گا تو اسے یہ اختیار ہے کہ وہ شوہر کو کچھ فدیہ دے اور اگر شوہر راضی ہو تو وہ اسے طلاق دے دے، اور اگر شوہر راضی نہ ہو تو نہ شوہر کو مجبور کیا جاسکتا ہے نہ عورت کو، خلع تو صرف باہمی رضامندی سے جائز ہوتا ہے۔ اور جب تک کہ مذکورہ دو صورتوں“

میں سے کوئی ایک یا دونوں نہ پائی جائیں خلع حلال نہیں ہوتا۔
لہذا اگر ان کے سوا کسی طرح خلع کر لیا گیا تو وہ باطل ہے اور
شوہرنے جو کچھ مال لیا ہے وہ لوٹائے گا، اور عورت بدستور
اس کی بیوی رہے گی اور اس کی طلاق باطل ہو گی اور شوہر کو
صرف عورت پر ظلم کرنے سے منع کیا جائے گا۔“

اور ایک اور مقام پر لکھتے ہیں :

﴿لِيْسَ فِي الْآيَةِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِّنَ السُّنْنَةِ أَنَّ لِلْحَكَمِينَ أَنَّ
يَفْرَقَا وَلَا أَنْ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ﴾ (ایضاً صفحہ ۸۸ جلد ۱۰)

”کسی بھی آئیت یا کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ
حکمین (ARBITRATORS) کو میاں بیوی کے درمیان
علیحدگی کرنے کا اختیار ہے، اور نہ یہ اختیار حاکم کے لئے ثابت
ہوتا ہے۔“

خلع کا فقہی مفہوم

حقیقت یہ ہے کہ خلع کے فقہی مفہوم ہی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ شوہر
اور بیوی دونوں کی رضامندی سے انجام پائے، اس کے سوا اس کی کوئی اور شکل
نہیں۔ علامہ ابو الفتح مطرزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”المغرب“ فوہبی اصطلاحات
کا مفہوم بیان کرنے کے لئے لکھی ہے، اس میں تحریر فرماتے ہیں :

﴿وَخَالَتُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ إِذَا افْقَدَتْ مِنْهُ
بِالْهَا فَإِذَا أَبْجَبَهَا إِلَى ذَلِكَ فَطَلَقَهَا قَيلَ خَلَعَهَا﴾

(المطرزی: المغرب فی ترتیب المغرب صفحہ ۱۶۵ جلد ۱ دکن ۱۳۲۸)

خالعت المرأة اور اخْتَلَعَتْ المَرْأَةَ کے الفاظ

اس وقت استعمال کئے جاتے ہیں جب عورت اپنی آزادی کے لئے کوئی فدیہ پیش کرے۔ پس اگر شوہر اس کی پیکش کو قبول کر لے اور طلاق دے دے تو کہا جاتا ہے کہ خلما (یعنی مرد نے عورت کو غلط کروایا) ۔

ذکورہ بالا بحث سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جناب جسٹس ایں اے رحم صاحب نے اپنی بحث کے شروع میں تقلید کے مسئلے پر جو گفتگو فرمائی ہے، وہ بھی زیر بحث مسئلے میں بالکل غیر متعلق (IRRELEVANT) ہے، اس لئے کہ یہاں مسئلہ تقلید کا نہیں، تمام فقہاء کے اتفاق کا ہے۔ تقلید کا ذکر اس مقام پر تو موزوں ہوتا ہے جہاں کوئی مسئلہ کسی ایک مجہد کے قول پر مبنی ہو، لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ مسئلہ خنی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہاں تک کہ ظاہری فقہاء تک کے یہاں مسلم اور متفق علیہ ہے، بعض کسی ایک مجہد کی ذاتی رائے نہیں ہے، لہذا جناب جسٹس صاحب نے تقلید کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، اس پر تبصرہ کرنا ہم یہاں ضروری نہیں سمجھتے۔

آخر میں ایک اور مخالفے کا جواب دے دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جناب جسٹس ایں اے محمود صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ فقہہلکی جتنی عبارتوں میں باہمی رضامندی کے ساتھ خلخ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ خلخ کی صرف ایک قسم ہے، جس میں معاملہ حاکم تک نہیں پہنچایا جاتا، لیکن خلخ کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس میں حاکم ہی خلخ کرتا ہے، اور حاکم ہی کے حکم سے (نہ کہ شوہر کے تلقظ طلاق سے) علیحدگی عمل میں آتی ہے اور اس میں شوہر کی رضامندی ضروری نہیں۔
(پ) ایل ڈی (پریم کورٹ) ۱۹۷۷ء صفحہ ۱۳۰)

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی فقہاء کے نزدیک خلخ کی یہ دو قسمیں ہیں تو فقہاء نے ان دونوں قسموں کو الگ الگ کر کے کیوں بیان نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ خلخ کی تعریف الگی کرتے ہیں جو صرف پہلی قسم کو شامل ہو؟ پھر

اپنی کتابوں میں تمام احکام، شرائط، ارکان اور تفصیلات بھی "پہلی قسم" ہی کی بیان کرتے ہیں، اور خلع کے ابواب میں کسی ایک لفظ کے ذریعہ بھی دوسری قسم کا کوئی اشارہ تک نہیں دیتے؟ جس خلع کے لئے انہوں نے باہمی رضامندی کو ضروری قرار دیا ہے، اگر وہ خلع کی صرف ایک قسم ہے تو آخر وہ دوسری قسم کہاں ہے؟ اس کے احکام کا بیان کس جگہ کیا گیا ہے؟ پہلی قسم کے لئے تو پورا باب موجود ہے، مگر کیا دوسری قسم ایک فقرے کی وضاحت کی بھی مستحق نہیں تھی؟

اگر اس طرز استدلال کو درست مان لیا جائے تو کیا کل یہ نہیں کہا جاسکتا کہ طلاق کے جتنے احکام فقہاء نے بیان کئے ہیں، وہ صرف طلاق کی ایک قسم کے احکام ہیں جس کا اختیار مرد کو ہوتا ہے، اور طلاق کی ایک اور قسم بھی ہے جس کا اختیار عورت کو دیا گیا ہے۔ اور جس جگہ فقہاء نے یہ کہا ہے کہ طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، اس سے مرد صرف پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم میں یہ اختیار عورت کو حاصل ہے۔

اگر یہ بات درست نہیں، اور کون ہے جو اسے درست کہہ سکے۔ تو پھر یہی بات خلع کے بارے میں کیوں نکر درست ہو سکتی ہے؟

قاضی کی تفریق بین الرؤجین

یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جہوڑ فقہاء کے نزدیک بعض مخصوص حالات میں قاضی شرعی کویہ حق دیا گیا ہے کہ وہ بلا مرثی شوہر بھی زوجین میں تفریق کر دے جو بحکم طلاق ہے۔ اور یہ طلاق شوہر کی اجازت کے بغیر حاکم کی طرف سے ہوتی ہے جیسے مفہود الخبر شوہر، بخنوں، نامرد وغیرہ شوہر کے معاملات تمام کتب فقہ میں مفصل موجود ہیں۔ اس لئے تفریق قاضی کے مسئلہ کی وضاحت کرونا مناسب ہے۔

صورتِ حال یہ ہے کہ عورت کے جو حقوق مرد پر واجب ہیں، وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ حقوق جو قانونی حیثیت رکھتے ہیں اور جو نکاح کے قانونی مقاصد حاصل کرنے کے لئے ضروری ہیں، مثلاً نان و نفقة اور وظائے زوجیت وغیرہ۔ یہ وہ حقوق ہیں جنہیں بزورِ عدالت شوہر سے وصول کیا جاسکتا ہے اور اگر شوہران کی ادائیگی سے عاجز ہو تو اس پر قانوناً واجب ہو جاتا ہے کہ عورت کو طلاق دے، ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دینے سے انکار کرے یا طلاق دینے کے قابل نہ ہو تو مجبوراً قاضی کو اس کا قائم مقام قرار دے کر تفریق کا اختیار دیا جاتا ہے۔ مجنون، متعنت (نان و نفقة نہ دینے والا)، عینِن (نامر)، مفقود الخیر، اور غائب غیر مفقود میں یہی صورت ہوتی ہے۔

اس کے برخلاف نکاح کے بعض حقوق ایسے ہیں جن کی ادائیگی شوہر پر دیانتہ ضروری ہے لیکن وہ قانونی حیثیت نہیں رکھتے، اور نہ اخیں بزورِ عدالت وصول کیا جاسکتا ہے، مثلاً یوں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی کا سعادت، ظاہر ہے کہ یہ حقوق بزورِ قانون نافذ نہیں کئے جاسکتے، جب تک شوہر کے دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر نہ ہو دنیا کی کوئی عدالت ان کا انتظام نہیں کر سکتی، اور جب اس قسم کے حقوق کا تعلق عدالت سے نہیں ہے تو اسے یہ اختیار بھی حاصل نہیں ہے کہ حقِ تلقی کی صورت میں وہ نکاح فتح کر دے۔

چنانچہ اس بات پر تمام فقیہاء کا اتفاق ہے کہ صرف پانچ عیوب کی بناء پر قاضی کو تفریق کا اختیار ملتا ہے۔

○ ایک اس وقت جب کہ شوہر پاگل ہو گیا ہو،

○ دوسرے جب وہ نان و نفقة ادا نہ کرتا ہو،

○ تیسرا جب وہ نامرد ہو،

○ چوتھے جب وہ بالکل لاپتہ ہو گیا ہو

○ پانچوں جب عائب غیر مفقود کی صورت ہو،

ان صورتوں کے سوا قاضی کو کہیں بھی تفریق کا اختیار نہیں ہے، اور محض عورت کی طرف سے ناپسندیدگی کسی بھی فقة میں فتح نکاح کی وجہ جواز نہیں بنتی۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



مستقبل کی تاریخ پر خرید و فروخت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ

ضبط و ترتیب
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

عرض ناشر

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلہم العالی نے ”عقود المستقبلیات فی السلع“ کے موضوع پر اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے لئے ایک تفصیلی مقالہ عربی میں تحریر فرمایا تھا۔ برادر مکرم مولانا عبداللہ میمن صاحب نے اس کا اردو ترجمہ فرمایا دیا۔ جو پیش خدمت ہے۔

میمن اسلامک پبلیشورز

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مستقبل کی تاریخ پر خرید و فروخت اِحکامِ شرعیہ کی روشنی میں

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله
الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين۔

اما بعد !

آجکل بازار میں تجارت کی ایک خاص قسم رائج ہے، جس کو عربی میں "المستقبلات" (FUTURES) کہا جاتا ہے۔ جس میں کچھ مخصوص اشیاء کو مستقبل کی کسی معین تاریخ پر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ آجکل عالمی متذیلوں میں اور خاص کر مغربی ممالک میں تجارت کی جتنی صورتیں رائج ہیں، ان میں اس صورت کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اس تجارت کے لئے اب تو مستقبل مارکیٹس قائم ہو چکی ہیں، جن میں صرف ایک دن کے اندر کئی ملین کی تجارت ہو جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ۱۸۳۸ء میں تجارت کی اس خاص صورت کو منظم کرنے کے

لئے شیکاگو میں ایک تجارت گاہ اور منڈی قائم کی گئی، جس کا نام (CHICAGO BOARD OF TRADE) ہے۔ البتہ جاپان والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے تجارت کی اس خاص صورت کو ۱۸۲۸ء سے بھی ایک صدی پہلے رائج کر دیا تھا۔

(دیکھئے : GERALD GOLD: MODERN COMMODITY FUTURES TRADING, SEVENTH ED. 1975 P.15)

چہاں تک اس معاملے کی حقیقت کا تعلق ہے تو ”انا یکلو پیدیا آف برٹائزنا“ میں اس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے :

"Commercial contracts calling for the purchase or sale of specific quantities of commodities at specified future dates."

”یعنی یہ وہ عقد تجارت ہے، جس کا مقصد کسی چیز کی معین مقدار کو مستقبل کی کسی معین تاریخ میں بیچنا یا خریدنا ہوتا ہے“

اس تعریف کا حاصل یہ ہے کہ اس معاملے میں جس چیز کی میمع ہوتی ہے، اس کی سپردگی اور قبضہ مستقبل کی کسی معین تاریخ میں ہوتا ہے۔ لیکن اس تعریف پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ”غائب سودے“ (FORWARD SALES) کی تعریف بھی انہیں الفاظ سے کی جاتی ہے، اس لئے کہ اس میں بھی میمع کو مستقبل کی معینہ تاریخ میں مشتری کے سپرد کیا جاتا ہے؟

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ”المستقبلیات“ (FUTURES) اور ”غائب سودے“ میں فرق ہے۔ وہ یہ کہ ”غائب سودے“ میں مستقبل کی کسی تاریخ میں میمع کی سپردگی مقصود ہوتی ہے اور باقاعدہ اس معین تاریخ میں میمع سپرد کرنا چاہتا ہے اور مشتری اس معین تاریخ میں اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور معین تاریخ

کے آنے پر واقعہ ادا یگی اور قبضہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک "المستقبلیات" (FUTURES) کا تعلق ہے، اس میں میج اور سامان کو صرف اس معاملے کی بنیاد تو بنا�ا جاتا ہے، لیکن اکثر حالات میں عام طور پر اس عقد میں میج کی سپردگی اور اس پر قبضہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس میج کا اصل مقصد یا توفیق کی امید پر اپنا روبیہ داؤ پر لگانا ہوتا ہے یا اس کے ذریعہ کسی غائب سودے کے نفع کی ضمانت مقصود ہوتی ہے۔ لہذا "مستقبلیات" (FUTURES) میں میج کی ادا یگی اور اس پر قبضہ شاذ و نادرتی پایا جاتا ہے جیسا کہ ہم انشاء اللہ اس کی وضاحت کر دیں گے۔

"مستقبلیات" (FUTURES) اور غائب سودے (FORWARD SALES) کے درمیان جو فرق ہم نے اور ذکر کیا ہے، انسائیکلو پیڈیٹ اف برائیکا میں "مستقبلیات" (FUTURES) کی تعریف کرنے کے بعد اس فرق کو بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ :

"and the term commodity is used to define the underlying asset, even thought the contract is frequently divorced from the product. It therefore differs from a simple forward purchase in the cash market, which involves actual delivery of the commodity at the agreed time in the future."

"عقود مستقبلیات" (FUTURES) میں "اللئح" (COMMODITY) کی اصطلاح اور اس کا استعمال صرف اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ اس معاملے میں اس کو بنیاد بنا�ا جاسکے (ورنه وہ اشیاء بذاتِ خود مقصود نہیں ہوتیں) بلکہ عام طور پر یہ معاملہ اشیاء (PRODUCTS) سے خالی ہوتا ہے۔ لہذا "عقود مستقبلیات" (FUTURES) ان "غائب"

سودوں” (FORWARD SALES) سے جو آجکل

بازاروں میں راجح ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ جن میں واقعہ مستقبل کی کسی متفق علیہ تاریخ پر سامان کی سپردگی اور بضہ عمل میں آ جاتا ہے” (دیکھنے والہ بالا)

چنان تک ”عقود مستقبلیات“ (FUTURES) کے عملی طریقہ کار کا تعلق ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ معاملات عام طور پر صرف ان بازاروں میں ہوتے ہیں، جو اسی غرض کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ ایسے بازاروں کو ”سوق تادل الشیع“ (COMMODITY EXCHANGE) کہا جاتا ہے، ان بازاروں کی بنیاد ممبر شپ پر ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس بازار میں جا کر فوجہ معاملہ کرنا چاہے تو اس کے لئے اس بازار کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ممبر شپ یا تو ایسے شخص کے لئے جاری کی جاتی ہے جو یا تو کئی مصنوعات بنانے والا ہو یا ان کی تجارت کرتا ہو یا ایجنٹوں کے اداروں سے تعلق رکھتا ہو۔ اور اگر کوئی شخص ممبر تو نہیں ہے، لیکن وہ اسی بازار میں کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے تو ممبر ایجنت کے واسطے سے کر سکتا ہے (برہ راست نہیں کر سکتا) اور جس شخص کو ممبر شپ حاصل ہے اس کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ”مستقبلیات“ (FUTURES) کا کوئی معاملہ کرنے سے پہلے اس بازار کے منتظمین کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھلوائے۔ جس میں معین مقدار کی رقم ہر وقت موجود رہے اور بازار کے قواعد و ضوابط کے مطابق وہ رقم معاملات کے تفہیم کے لئے بطور ضمانت ادارے کے پاس رہے گی۔ اور عام طور پر یہ رقم معابرے پر دستخط کے وقت اس چیز کی جو قیمت طے ہوتی ہے اس کے سات فیصد اور آئندہ مستقبل میں اس چیز کی جو قیمت ہونے والی ہے اس کے سات فیصد سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اور اس رقم کے جمع کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں فریقین کے درمیان اختلاف واقع ہونے کی صورت میں اگر ایک فریق اپنے ذمہ لازم ہونے والی رقم کی

اوائیل سے انکار کر دے تو اس صورت میں اس کے اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقم سے دوسرے فریق کے نقصانات کی تلاش کر دی جائے۔

اکاؤنٹ کھولنے کے بعد مستقبل کی کسی تاریخ پر خاص معین مقدار کی چیز کی خرید و فروخت کی اجازت ہوتی ہے اور جس چیز کا عقد کیا جاتا ہے اس کی مقدار کو کسی تجارتی یونٹ (TRADING UNITS) میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس کی ہر یونٹ اس خاص چیز (شی معمود علیہ) کی معروف مقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلاً گندم میں جو یونٹ محبت اور رائج ہے وہ پانچ ہزار بوریاں ہیں، لہذا اب اس مقدار سے کم میں معاملہ نہیں ہو گا۔ اور معاملہ کرنے والے کو اختیار ہو گا کہ وہ ایک یونٹ گیوں کا معاملہ کرے یا دو کا کرے یا اس سے زیادہ کا کرے۔ اسی طرح اس چیز کے عمدہ اور گھٹیا ہونے کے اعتبار سے بھی اس چیز کی مختلف قسموں کی درجہ بندی کر دی جاتی ہے اور پھر ان قسموں کو خاص نمبروں کے ذریعہ متعارف کرایا جاتا ہے۔ مثلاً گندم درجہ اول "گندم درجہ دوم" "گندم درجہ سوم" وغیرہ اور ہر درجے کی گندم کے اوصاف معاملہ کرنے والوں کے علم میں ہوتے ہیں۔

لہذا اگر کوئی شخص جنوری میں اول درجے کی ایک یونٹ گندم اکتوبر کی کسی تاریخ پر بیچنا چاہتا ہے تو وہ اس بازار میں اول درجہ کی ایک یونٹ گندم اکتوبر میں پروردگی کی بنیاد پر اتنے داموں میں بیچنے کی اوفر کرے گا جس میں اس کو نفع کی توقع ہو، لہذا جو شخص ایک یونٹ گندم ان شرائط پر خریدنے کے لئے تیار ہو گا وہ اس کی اس پیش کش کو قبول کرے گا اور پھر دونوں (بائع اور مشتری) کو آپس میں ملاقات کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو گی بلکہ وہ ادارہ فریقین کی شرائط پورا کرنے کا ذمہ دار ہو گا، لہذا بائع اس ادارے کے واسطے ہی سے اپنی پیش کش بازار میں متعارف کرائے گا۔ اور مشتری (BUYER) ادارہ کے توسط سے ہی بائع کی اس پیش کش کو قبول کرے گا۔ اور پروردگی کی تاریخ آنے پر وہ ادارہ اس بات کا ذمہ دار ہو گا کہ بائع

کی طرف سے سامان کی پرداگی کرائے اور مشتری کی طرف سے شن کی ادائیگی کرائے۔

اور حقیقت میں یہ معاملہ اتنی سادگی سے انجام نہیں پاتا جس طرح ہم نے اس کی تفصیل بیان کی، یہ نہیں ہوتا کہ مشتری اس پرداگی کی تاریخ کا انتظار کرے اور پھر اس تاریخ کے آنے کے بعد اس سامان (بیچ) پر قبضہ کرے۔ بلکہ یہی ایک عقد جو باائع اور مشتری کے درمیان ہوا ہے، جووری سے اکتوبر تک روزانہ محل بیچ و شراء بنتا رہتا ہے اور بعض اوقات صرف اس ایک عقد پر اس کی پرداگی کی تاریخ آنے سے پہلے یوں یہ دش دش بیچ ہو جاتی ہیں۔ مثلاً زید نے عمرو کو ایک یونٹ گندم اکتوبر میں پرداگی پر بیچ دی اب عمرو وہ گندم خالد کے ہاتھ بیچ دے گا اور پھر خالد آگے حادم کے ہاتھ فروخت کرے گا اور ہر شخص اپنا منافع رکھ کر زیادہ دام میں آگے فروخت کرتا رہے گا۔ قیمت خرید اور قیمت فروخت کے درمیان جو فرق ہو گا وہ اس خطہ (RISK) کا منافع ہو گا جو پارٹیوں نے اس مدت کے دوران برداشت کیا۔ لہذا اگر ایک شخص نے وہ گندم کم قیمت پر خرید کر زیادہ دام میں فروخت کر دی تو وہ شخص دونوں قیمتوں کے درمیان کے فرق کو اپنا منافع ہونے کی بینا پر مطالبہ کر سکتا ہے، اور مشتری ہونے کی حیثیت سے نہ تو باائع کو شن ادا کرنے کی ضرورت ہو گی اور نہ ہی باائع ہونے کی حیثیت سے بیچ کی پرداگی کی ضرورت ہو گی، لہذا مثال مذکور میں اگر عمرو نے زید سے ایک یونٹ گندم اکتوبر میں پرداگی کی بینا پر دس ہزار ڈالر کی خریدی اور آگے خالد کو گیارہ ہزار ڈالر میں وہ گندم فروخت کر دی تو اب عمرو نہ تو زید کو قیمت ادا کرے گا، اور نہ خالد کو بیچ پرداگی کرے گا، البتہ ان دو عقدوں کی بینا پر ایک ہزار ڈالر نفع کے وصول کر لے گا۔

اب ان معاملات کو نمائنے کے لئے وہ ادارہ بازار میں ایک کرو مخصوص کر دیتا ہے جس کو "کلیرنگ ہاؤس" (CLEARING HOUSE) کہا جاتا ہے

اور بازار میں جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ سب اس کلیرنگ ہاؤس میں رجسٹر ہوتے ہیں اور وہ "کلیرنگ ہاؤس" اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ پورے دن میں ہونے والے تمام معاملات کا شام کو تصفیہ کرے گا۔ چنانچہ مثالِ مذکورہ میں اسی روز شام کو اپنے منافع کے ایک ہزار ڈالر "کلیرنگ ہاؤس" سے وصول کر کے اس معاملہ سے الگ ہو جائے گا۔

بہر حال اس ایک عقد پر سپردگی کے مبنی کے آنے تک مسلسل معاملات ہوتے رہتے ہیں اور جب اکتوبر کا ہمینہ آئے گا، اس وقت ادارہ کی طرف سے سب سے آخری مشتری کو یہ اطلاع دی جائے گی کہ اب سپردگی کی تاریخ آتی ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم اس تاریخ پر اس گندم پر قبضہ کرنا چاہو گے یا اس معاملہ کو آگے فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اب اگر وہ مشتری اس گندم پر قبضہ کرنے کا خواہش مند ہے تو اس صورت میں بالائے وہ گندم معین گودام میں پہنچا کر اس کا تصدیق نامہ حاصل کر لے گا اور وہ تصدیق نامہ مال چھڑانے والے (یا مشتری) کے حوالے کر کے اس کی بنیاد پر اس گندم کی قیمت وصول کر لے گا۔

اور اگر آخری مشتری گندم پر قبضہ کرنا نہیں چاہتا۔ بلکہ اس عقد کی بیع کرتا چاہتا ہے تو اس صورت میں یہ آخری مشتری پھر سب سے پہلے بالائے وہی دوبارہ عقد بیع کرے گا اور اب معاملہ کا تصفیہ قیمتِ خرید اور قیمتِ فروخت کے درمیان جو فرق ہو گا، اس فرق کی ادائیگی کی بنیاد پر ہو جائے گا۔ جیسا کہ تاریخِ سپردگی سے پہلے کے معاملات میں ہوا تھا اور اس طرح آخری معاملے تک ادائیگی اور سپردگی نہیں پائی جاتی۔

ان بازاروں کے اکثر معاملات میں یہی دوسری صورت پائی جاتی ہے۔ لہذا شاذ و نادر ہی میج کی سپردگی کی صورت پیش آتی ہو گی، جو شاید ایک فیصد ہو گی۔

عام طور پر جو لوگ اس قسم کے معاملات میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ دو قسم کے

ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی اغراض بھی مختلف ہوتی ہیں۔

بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو نفع کی امید پر اپنا رہبہ یہ دوپر لگاتے ہیں۔ جن کو اصطلاح میں "خاطر" (SPECULATOR) کہا جاتا ہے، ان لوگوں کا مقصد اس معاملے کے ذریعہ نہ پہنچا ہوتا ہے، نہ خریدنا، نہ بیع مقصود ہوتی ہے اور نہ ہی شن۔ بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ قیمتِ خرید اور قیمتِ فروخت کے درمیان جو فرق ہے اس کو بطور نفع کے وصول کریں جیسا کہ ہم نے اوپر تفصیل سے ذکر کیا، چنانچہ یہ لوگ عام طور پر قیمتوں کے اتار، چڑھاؤ کے ماہین کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے مستقبل کا معاملہ اس امید پر کر لیتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد جب دام بڑھیں گے اس وقت اس کو زیادہ قیمت پر فروخت کر دیں گے۔ اور اس عقد کے نتیجے میں ان کو بیع پر بقدر اس کی سپردگی کی تکلیف میں پڑے بغیر ہی خالص نفع حاصل ہو جائے گا۔ اب بعض اوقات ان کی یہ امیدیں کامیاب ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات ناکام ہو جاتی ہیں۔

اور بعض لوگوں کا اس عقد کے ذریعے یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو عقد فی الحال کر رہے ہیں، آئندہ زمانہ مستقبل میں اس کے نفع کی حفاظت کر لی جائے۔ تاکہ آئندہ نقصان سے بچ جائیں۔ جس کو اصطلاح میں "تامین الرنج" (HEDGING) کہا جاتا ہے۔

اس کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھ لینا زیادہ آسان ہو گا۔ مثلاً زید نے عام بازار سے گندم کی دس ہزار بوریاں فی بوری پانچ ڈالر کے حساب سے خرید لیں۔ اب یہ ایک عام بیع ہو گئی۔ جس میں بقدر بھی پایا گیا، لیکن بازار کے حالات دیکھتے ہوئے اس کا خیال یہ ہے کہ وہ تین ماہ بعد یہ گندم بیچ دے گا۔ لیکن زید کو یہ خطرہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تین ماہ بعد گندم کے دام گر جائیں جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو جائے۔ مثلاً اگر ایک بوری پر آدھا ڈالر بھی قیمت گر گئی تو اس کو پانچ ہزار ڈالر کا

نقصان ہو جائے گا۔

چنانچہ اس نقصان سے بچنے کے لئے وہ فیوجہ مارکیٹ (FUTURE MARKET) جاتا ہے اور یہ گندم عام بازار کے بھاؤ پر تین ماہ بعد کی سپردگی کی بیانوں پر فروخت کرتا ہے۔ اس طرح وہ دو عقد کرتا ہے کہ گندم خریدنے کا معاملہ عام بازار میں کرتا ہے اور پھر گندم بیچنے کا معاملہ "فیوجہ مارکیٹ" میں کرتا ہے۔ اس طرح ایک معاملہ کے نفع سے دوسرے معاملے کے نقصان کی تلافی کر لیتا ہے۔ لہذا اب اگر تین ماہ بعد اس گندم کے دام فی بوری نصف ڈالر کم ہو جائیں تو زید کو پہلے عقد میں پانچ ہزار ڈالر کا نقصان ہو جائے گا، لیکن اسی وقت زید کو دوسرے عقد کے ذریعہ جو اس نے "فیوجہ مارکیٹ" میں کیا ہے تقریباً اسی مقدار میں نفع حاصل ہو جائے گا، اس لئے کہ اس صورت میں "فیوجہ مارکیٹ" میں بھی اس گندم کے دام نصف ڈالر کے قریب قریب گر جائیں گے۔ چنانچہ اب یہ ہو گا کہ تین ماہ پہلے "فیوجہ مارکیٹ" میں زیادہ دام میں جو گندم بیچی تھی اب وہ اسی گندم کو کم دام پر خرید لے گا اور اس طرح قیمت خرید اور قیمت فروخت کے درمیان کا جو فرق ہے وہ بھیشت نفع کے حاصل ہو جائے گا جو تقریباً پانچ ہزار ڈالر ہو گا۔ اس طرح عام بازار میں جو اس نے گندم کا سودا کیا تھا اور اس میں گندم کی قیمت کم ہو جانے کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا، اس کی تلافی اس عقد کے نفع سے ہو جائے گی جو اس نے "فیوجہ مارکیٹ" میں کیا، مندرجہ ذیل نقشے سے واضح نتیجہ سامنے آجائے گا :

فیوجہ بازار

عام بازار

دس ہزار گندم کی بوریاں
فی بوری = ۱۵ ڈالر میں فروخت کیں

دس ہزار گندم کی بوریاں

تمبر : دس ہزار گندم کی بوریاں
فی بوری = ۱۵ ڈالر میں خریدیں

دسمبر : دس ہزار گندم کی بوریاں

نی بوری ۵۰/۳۲ دالر میں فروخت کیس
نی بوری ۵۰/۳۲ میں خریدیں

نفع نی بوری ۵۰/۰۰ دالر

نقصان نی بوری ۵۰/۰۰ دالر

اور اگر دسمبر میں گندم کی قیمت نی بوری نصف دالر زیادہ ہو جائے تو پھر معاملہ بالکل اس کے بر عکس ہو جائے گا، یعنی "فیوج چارکیٹ" میں تو اس کو نقصان ہو گا اور عام بازار میں نفع ہو جائے گا، دونوں صورتوں میں ایک عقد کے خسارے کو دوسرے عقد کے نفع کے ذریعہ پورا کیا جائے گا۔ "تامین الرزق" (HEDGING) کا یہی مطلب ہے۔

بہر حال : یہ فیوج ٹریڈنگ کا مختصر خلاصہ ہے، اور آنکھ تو اس کے معاملات انتہائی چیزیدہ ہو چکے ہیں اور اب ان معاملات کا وائرہ اشیاء سے تجاوز کر کے "کرنی" اور "اختیارات" تک پہنچا چکا ہے، لیکن جو خلاصہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے وہ اس معاملے کی حقیقت سمجھنے اور اس کے بارے میں حکم شرعی کے بیان کرنے کے لئے کافی ہے۔

جہاں تک اس کے شرعی حکم کا تعلق ہے تو جو شخص بھی شریعت کے قواعد اور مصالح سے واقفیت رکھتا ہو اس کو اس معاملہ کی مندرجہ بالا تفصیل پر نظر کرنے کے بعد ذرہ برا بر ترد نہیں ہو گا کہ یہ معاملہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے اور شریعت مکر بہت سے احکام سے مقصاد ہے۔

اولاً اس لئے کہ اس معاملے میں ایک ایسی چیز کی نفع ہوتی ہے جو ابھی انسان کی ملکیت میں نہیں ہے اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ "یعنی مالا بملکہ انسان" جائز نہیں۔ چنانچہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ :

ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر کوئی شخص میرے پاس

الی چیز خریدنے کے لئے آئے جو ابھی میرے پاس نہیں ہے تو کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں پہلے اس چیز کا سودا اس سے کر لوں اور پھر بازار سے خرید کر اس کو دیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ "الی چیز مت پھپھو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔"

(جامع الاصول جلد اول، صفحہ ۳۵، بحوالہ النائی، ترمذی، ابو داؤد)

اور اس معاملہ میں جو عقیر بیع میع کی پردگی کی مدت کے دوران ہوتے ہیں وہ بھی میع پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی مکمل ہو جاتے ہیں اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

"من اشتري طعاماً فلابيعه حتى يستوفيه"

(آخرجه البخاری و مسلم)

"جو شخص کوئی غلہ خریدے وہ اس کو اس وقت تک آگے فروخت نہ کرے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔"

بعض لوگوں نے بیع سلم کی بنیاد پر اس معاملے کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن مندرجہ ذیل وجوہ کی بناء پر اس کو بیع سلم کی بنیاد پر جائز قرار دینا درست نہیں۔

① بیع سلم میں پورا شن اسی وقت ادا کرنا واجب ہے، جس کو "رأس مالِ اسلام" کہا جاتا ہے، چنانچہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بیع سلم کے صحیح ہونے کی شرائط ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :

ويقبض الشن كا ملاوقت السلم قبل التفرق، هذا الشرط السادس، وهو ان يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد

فَإِنْ تَفْرَقَا قَبْلَ ذَلِكَ بَطْلُ الْعَدْدِ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ[ؓ]
وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ[ؓ] إِيمَانُ زَوْجِكَ لَمْ يَحْوزَ إِنْ تَأْخِيرَ قَبْضِهِ يَوْمَنِ وَثَلَاثَةَ
وَأَكْثَرَ مَالِمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَرْطًا، لَأَنَّهُ مَعَاوِذَةً لَا تَخْرُجُ
بِتَأْخِيرِ قَبْضِهِ مِنْ إِنْ يَكُونَ سَلَمًا فَأَشَبَّهَ مَالَمْ تَأْخِرَ إِلَى آخِرِ
الْمَجْلِسِ، وَلَنَا أَنَّهُ عَدْدٌ مَعَاوِذَةٌ لَا يَحْوزُ فِيهِ شَرْطٌ تَأْخِيرِ
الْعَوْضِ الْمُطْلَقِ . فَلَا يَحْوزُ التَّفْرِقُ فِيهِ قَبْلَ القَبْضِ

كالصرف” (المغني لابن قدامة صفحه ۲۲۴ جلد ۴)

”يعني بعث سلم کے وقت ہی پورے مٹن پر جدا ہونے سے پہلے
قبضہ کر لیا جائے۔ یہ بعث سلم کی درستگی کی چشمی شرط ہے، وہ یہ کہ
مجلس عقد ہی میں بعث سلم کے رأس المال ”پر قبضہ کر لیا جائے“
لہذا اگر ”رأس المال“ پر قبضہ کرنے سے پہلے بعث سلم کے
عاقدين جدا ہو جائیں تو وہ بعث باطل ہو جائے گی۔ امام ابوحنیفہ
اور امام شافعی رحمہما اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ امام مالک
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”رأس المال“ پر قبضہ کو دو، تین یا
زیادہ دنوں تک مؤخر کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ یہ تأخیر عقد کے
اندر مشروط نہ ہو، اس لئے کہ یہ ”رأس المال“ ایک معاوضہ
ہے جس پر قبضہ میں تاخیر کرنا اس عقد کو ”عقد سلم“ ہونے سے
خارج نہیں کرتا۔ اور یہ تاخیر بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص
مجلس عقد کے اختتام تک قبضہ کو مؤخر کر دے، اور ہمارے
نزدیک (امام احمد بن خبل رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک) یہ ایک
عقد معاوضہ ہے جس میں عوض مطلق کی تاخیر کی شرط جائز
نہیں، لہذا ”عقد سلم“ میں ”بعث صرف“ کی طرح قبضہ سے پہلے

جدائی جائز نہیں۔“

مندرجہ بالا تفصیل سے ظاہر ہوا کہ جمہور فقیاء کے نزدیک بیع سلم کے ”رأس المال“ پر مجلس عقد میں قبضہ کرنا ”بیع سلم“ کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے، البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو تین روز یا زیادہ کی تاخیر بھی جائز ہے بشرطیکہ مُلِب عقد میں تاخیر کو بطور شرط نہ قرار دیا گیا ہو۔ لہذا اگر مُلِب عقد میں ”رأس المال“ کی تاخیر مشروط ہو تو یہ عقد کسی کے نزدیک بھی درست نہ ہو گا۔

لیکن جہاں تک فیوجہ والے معاملے کا تعلق ہے اس میں شن پر قبضہ کی تاخیر مُلِب عقد میں مشروط ہوتی ہے۔ لہذا ائمہ ارباعہ میں سے کسی کے نزدیک بھی یہ معاملہ درست نہیں۔ البتہ اس معاملے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں شن کا کچھ حصہ عقد کے وقت بھی باائع کے قبضہ میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن صرف اتنی بات اس معاملے کے درست ہونے کے لئے کافی نہیں ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ شن کا کچھ حصہ عقد کے وقت باائع کو دے دینا ”بیع سلم“ کے صحیح ہونے کے لئے کافی نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ عقد کے وقت پورا شن ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ فیوجہ مارکیٹ کی انتظامیہ کے پاس جو رقم رکھوائی جاتی ہے وہ نہ شن کا حصہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ باائع کو دی جاتی ہے بلکہ وہ رقم بطور ودیعت کے فریق ٹالٹ کے پاس اس غرض سے رکھوائی جاتی ہے کہ وہ رقم مشتری کی طرف سے خریداری کے عمل کے پورے کرنے کی ضامن ہو جائے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ فیوجہ والے معاملے میں عقد کے وقت شن باائع کو نہیں دیا جاتا ہے بلکہ وہ شن مشتری کے ذمہ دین ہوتا ہے۔ جس طرح بیع باائع کے ذمہ واجب ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ ”بیع الکانی بـالکانی“ ہو جائے گی جو حدیث شریف کی رو سے منزع اور ناجائز ہے جیسا کہ حاکم اور یہقی رہمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ :

”نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکالی۔“

بالکالی“ (السراج المنبر للعزبی صفحہ ۳۷۲ جلد ۴)

”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الکالی بالکالی سے منع فرمایا ہے۔“

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ کی انتظامیہ اداءِ ثمن کی جو گارنٹی دیتی ہے اس گارنٹی کی وجہ سے یہ سمجھا جائے گا کہ گویا ثمن بالائے کو دیا جا چکا ہے۔ لیکن یہ توجیہ درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ ”بیع سلم“ کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ ثمن کی بالفعل ادائیگی مجلس عقد میں ہو چکی ہو۔ کسی ٹالٹ کی طرف سے اس ثمن کی ادائیگی کی صرف تصدیق اور خمانت کافی نہیں ہے۔ اس لئے کہ کسی تیرے شخص کی گارنٹی اس ثمن کو دین ہونے سے نہیں نکال سکتی۔ لہذا یہ دین کی بیع دین سے ہو جائے گی جو ناجائز ہے۔

(۲) تیسری وجہ یہ ہے کہ بیع سلم کے صحیح ہونے کی جن شرائط پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بیع کے وقت ”مسلم فیہ“ کی تمام صفات مکمل طور پر بیان کردی جائیں۔ لہذا اگر ”مسلم فیہ“ کے اوصاف ایسے مجہول ہوں اور متردّد ہوں جو آپس میں نزاع کا باعث بن سکتے ہوں تو اس صورت میں کسی کے نزدیک بھی وہ بیع درست نہ ہوگی۔

فیوجہ معاملات میں اگرچہ بیع کے ”درجات“ بیان کر کے اس کے تمام اوصاف مکمل طور پر واضح کرنا ضروری ہوتے ہیں لیکن عملاً ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بالائے ایک ہی عقد میں بیع کے ایک سے زیادہ ”درجات“ بیان کرتا ہے اور پھر بالائے اختیار بھی ہوتا ہے کہ ان ”درجات“ میں سے جس درجہ کی بیع ہے وہ مشتری کے سرو کرے۔ چنانچہ انسان یک لوپیدیا آف برٹانیکا میں ہے :

"FUTURES Market, on the other hand, generally permits trading in a number of grades of the commodity to protect hedger sellers from being "cornered" by speculators buyers who might otherwise insist on delivery of a particular grade whose stocks are small. Since a number of alternative grades can be tendered, the futures market is not suitable for the acquisition of the physical commodity. For this reason physical delivery of the commodities in fulfillment of the futures contract generally does not take place, and the contract is usually settled between buyers and sellers by paying the difference between the buying and selling price."

دوسری طرف مستقبلیات کا بازار اس بات کی گنجائش رکھتا ہے کہ کسی مخصوص جنس کے مختلف گریدس کی تجارت کی جائے اور اس طرح جو تاجر متوقع نقصان سے پچنا چاہتے ہیں، ان کو اس خطرو سے تحفظ فراہم ہو جاتا ہے کہ شہ باز خریدار ان سے کسی ایسے مخصوص گرید کی ادائیگی پر اصرار کریں جس کے ذخیرہ تھوڑی تعداد میں ہوں، چونکہ مستقبلیات کے بازار میں بہت سے تبادل گریدس کی پیش کش ممکن ہوتی ہے، اس لئے مستقبلیات کا بازار کسی جنس کو حقیقی طور پر حاصل کرنے کے لئے موزوں نہیں، اس وجہ سے مستقبلیات کے معاملات کو پورا کرنے کے لئے عموماً اجناس کی حقیقی ادائیگی نہیں کی جاتی، اور خریداروں اور بیچنے والوں کے درمیان معاملے کا تصفیہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپس میں قیمت خرید اور قیمت

فروخت کے فرق کا لین دین کر لیتے ہیں۔

انساں یک لوپیڈا کی مندرجہ بالا عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عقد میں باائع کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ عقد کے وقت اس معج کے جو مختلف اوصاف علی سبیل البالیت بیان کئے تھے ان میں سے کسی ایک وصف کی معیج مشتری کے پرداز کر دے، مشتری وصف کی اس جمالت سے اس وقت تک دوچار رہتا ہے جب تک وہ معج پر قبضہ نہ کر لے۔ معج میں اس جیسی جمالت ہر عقدِ بیع کو باطل کر دیتی ہے۔ تو بیعِ سلم یقیناً ایسی جمالت کی وجہ سے باطل ہو جائے گی۔

(۳) چوتھی وجہ یہ ہے کہ "عقود مستقبلیات" میں یہ بات طے شدہ ہے کہ عام طور پر مشتری کا سامان پر بقہہ نہیں پایا جاتا، بلکہ آخری مشتری کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو باائع سے سامان اس کے پرداز کر دینے کا مطالبہ کرے، یا چاہے تو دوبارہ وہ سامان اسی باائع کو فروخت کر دے۔ اس دوسری صورت میں تفصیلہ اس طرح ہوتا ہے کہ خریدنے اور بیچنے کے داموں میں جو فرق ہوتا ہے صرف اس فرق کو وصول کر کے ڈیفرنس یا بر کر لیا جاتا ہے۔ یہ تفصیل ابتداء ہی سے عقد کے اندر مشروط ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شرط عقدِ سلم کو فاسد کر دیتی ہے اور اگر عقدِ سلم میں یہ بات مشروط نہ بھی ہو تب بھی بیعِ سلم میں یہ مسئلہ ہے کہ "مسلم فیہ" کو باائع کے ہاتھ فروخت کرنا جائز نہیں۔ المغنی لابن قدامة میں ہے :

"وَبَعْدَ الْمُسْلِمِ فِيهِ عَنْ بَاعِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ قِبْضَهِ فَاسِدٌ"

(المغنی لابن قدامة، صفحہ ۳۴۱ جلد ۴)

"مسلم فیہ کو قبضے سے پہلے باائع کے ہاتھ فروخت کرنا، یا کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا فاسد ہے۔ یعنی بیعِ سلم کو فاسد کر دیتا ہے۔"

۵ اگر ہم یہ فرض کریں کہ بالآخر اول اور مشتری اول کے درمیان جو سب سے پہلے عقد ہوا تھا وہ اپنی تمام شرائط کے ساتھ عقدِ سلم تھا تو اس صورت میں "رب اللہم" یعنی مشتری اول کے لئے جائز نہیں تھا کہ وہ "مسلم فیہ" پر قبضہ کرنے سے پہلے آگے فروخت کروے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

"وَامَا بَعْدَ الْمُسْلِمِ فِيهِ قَبْضَهُ، فَلَا نَعْلَمُ فِي تَحْرِيمِ خَلَافَةِ"

وقد نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الطعام قبل قبضہ و عن زبح مالم يضمن، ولا نه میع لم ید خل فی ضمانہ، فلم یجز بیعه کاظعما قبضہ"

(المغنى لابن قدامة جلد ۴ صفحہ ۲۴۱)

"مسلم فیہ کو قبضہ کرنے سے پہلے آگے فروخت کرنے کی حرمت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام پر قبضہ کرنے سے پہلے آگے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے" اور جو چیز انسان کے خان میں نہ ہو اس کا فرع یعنی سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں "مسلم فیہ" قبضہ سے پہلے اس کے خان میں نہیں آئی اس لئے طعام کی طرح اس کی بیع بھی قبضہ سے پہلے جائز نہیں"۔

پیچھے "عقود مستقبلیات" کے طریق کارکے بارے میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اس میں بیع کی پروگری اور حوالگی سے پہلے ایک ہی عقد کے اندر بے شمار سودے ہو جاتے ہیں۔ لہذا "عقود مستقبلیات" کے جواز کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہذا مندرجہ بالا پانچ وجہات کی بناء پر اس عقد کو "عقدِ سلم" کہکر جائز نہیں کہا جاسکتا۔

جب اس کو عقدِ سلم کہنا ممکن نہیں تو پھر یہ ایک ایسا عقد ہے جو مستقبل کی کسی تاریخ پر منعقد ہوتا ہے۔ اور تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ عقدِ بیع نہ تو تعطیق کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی مستقبل کی کسی تاریخ کی طرف اضافت کو قبول کرتا ہے، لہذا ”عہدوں مستقبلیات“ میں بیع اول جو باعث اول اور مشتری اول کے درمیان ہوتی تھی وہ درست نہیں ہوتی۔ تو پھر اس بیع کی بنیاد پر ہونے والی دوسری بیوع کیسے درست ہو گئی؟

فقہی اعتبار سے اس عقد کی ایک اور شکل ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اس عقد کو ”بیع“ نہ کہا جائے بلکہ اس کو ” وعدہ بیع“ کہا جائے کہ باعث اس بات کا وعدہ کر رہا ہے کہ وہ فلاں مخصوص سامان کو فلاں تاریخ میں اتنی قیمت پر فروخت کر دے گا اور موعودہ لیعنی مشتری کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ وعدے کے مطابق معین تاریخ پر اس سامان کو معین قیمت پر خریدے، اب یہ مشتری اپنا یہ حق کسی تیرے آدمی کو فروخت کر دے اور تیرا آدمی چوتھے کو فروخت کر دے۔ یہاں تک کہ سپردگی کی معین تاریخ آجائے۔

لیکن میرے خیال میں اس عقد کی یہ شکل شرعاً اس عقد کے لئے وجہ جواز بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس کی کتنی وجہ ہیں۔

○ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس عقد کی صورتِ واقعہ اس شکل کے موافق نہیں ہے۔ اس لئے کہ عاقدین فیوج مارکیٹ میں صرف وعدہ بیع کے لئے نہیں جاتے بلکہ ان عاقدین کا مقصد عقدِ بیع کو یقینی طور پر طے کرنا ہوتا ہے۔ لہذا اس عقد کو وعدہ بیع کتنا درست نہیں۔

○ دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاڑوں فقہاء کے نزدیک ” وعدہ“ ”محض قضاۓ لازم“ نہیں ہوتا۔ اور جن فقہاء نے وعدہ ”محض قضاۓ لازم“ کیا ہے انہوں نے کسی شدید ضرورت کے تحت لازم کیا ہے۔ اور یہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

○ تیرے یہ کہ "موعودہ" یعنی مشتری کو مستقبل کی تاریخ میں خریدنے کا جو حق حاصل ہے وہ ایسا حق نہیں ہے جس کو آگے فروخت کرنا یا اس کا عوض لینا جائز ہو۔ اس لئے کہ یہ ایسا حق نہیں ہے جو قضاۓ واجب ہو بلکہ یہ "حقِ مجرد" ہے اور جمہور فقیاء کے نزدیک "حقِ مجرد" کی بیچ چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اور وہ شرائط اس عقد میں موجود نہیں۔

بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اگر "عقد مستقبلیات" شرعاً جائز نہیں ہے تو پھر اس کے مقابل کوئی صورت پتا نہیں جو احکام شرعیہ کے مطابق ہو؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی معاملے کی مقابل صورت تو اس وقت تلاش کی جاتی ہے جب اس معاملے کا مطلوبہ مقصد درست ہو۔ پھر اس مطلوبہ مقصد کے حصول کے لئے شرعی مقابل صورت کو تلاش کیا جاتا ہے۔

جہاں تک "عقود مستقبلیات" کا تعلق ہے تو اس عقد کا کوئی جائز مقصد نہیں ہے جس کو پورا کرنے کے لئے شرعی طریقہ تلاش کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوجہ مارکیٹ میں جو معاملات ہوتے ہیں ان سے تجارت مقصود نہیں ہوتی۔ بلکہ نفع کی امید پر اپنا روپیہ داؤ پر لگانا مقصود ہوتا ہے۔ اور یہ مقصد اس عقد کو بیچ کے بجائے یقین (جُوا) سے زیادہ مشابہ کرتا ہے۔

جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ فوجہ مارکیٹ میں معاملہ کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں :

ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو "مخاطر" (SPECULATOR) (نفع حاصل کرنے کی امید میں رقم کو داؤ پر لگانے والا) کہا جاتا ہے۔ جن کا مقصد نہ تو بیچ و شراء ہوتا ہے اور نہ ہی سپردگی اور قبضہ مقصود ہوتا ہے، بلکہ صرف قیمتِ خرید اور قیمتِ فروخت کے درمیان جو فرق ہے اس کو بطور نفع کے حاصل کر لینا ان کا مقصود

ہوتا ہے۔ (دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ آپس کے ڈیفرنس کو برابر کر لینا ان کا مقصد ہوتا ہے)۔ اب ظاہر ہے کہ یہ غرض اور مقصد ہی غیر شرعی اور ناجائز ہے۔ اس لئے کہ یہ تو تجارت کے بغیر اور میمع کو اپنے ضمانت میں لئے بغیر نفع کانا ہو جائے گا۔ جو نصی صریح کی رو سے حرام ہے۔

فیوج مارکیٹ میں دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا مقصود ”اپنے نفع کی ضمانت اور حفاظت“ ہوتی ہے۔ جس کو عربی میں ”تامین الرنج“ (HEDGING) کہا جاتا ہے یعنی یہ لوگ عام بازار میں ایک چیز خریدتے ہیں لیکن بھاؤ کے اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں جو خسارہ محتمل ہوتا ہے اس سے بچنے کے لئے وہ لوگ فیوج مارکیٹ میں جا کر اسی چیز کا سودا کر لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اوپر تفصیل سے ذکر کیا۔ لیکن اس قسم کی ضمانت اور حفاظت کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو لمبی مدت کے لئے اشیاء کی ذخیرہ اندازو زی کرتے ہیں۔ اس لئے اگر کسی چیز کو خریدنے کے چند روز بعد ہی اس کو بچنے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں نفع کی ضمانت اور حفاظت (تامین الرنج) کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا جب یہ لوگ کسی چیز کو خریدنے کے بعد زیادہ نفع حاصل کرنے کی خاطر طویل مدت کے لئے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اس وقت ان کو فیوج مارکیٹ میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لئے کہ ان لوگوں کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو خرید کر ہم نے ذخیرہ کیا ہوا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کی قیمت کم ہو جائے اور ہمیں بجائے نفع کے نقصان انھانا پڑے، چنانچہ یہ اس خسارے اور نقصان سے بچنے کے لئے فیوج مارکیٹ میں اس کا سودا کر لیتے ہیں۔ جیز الدلّ گولڈ لکھتا ہے کہ :

”اگر ایک تاجر نے کسی کسان سے دس ہزار بوریاں گندم کی خریدیں پھر فوراً کسی معین دام پر اس کو فروخت کرنا چاہے، مثلاً ایک ہفتہ کے اندر اندر اس کو نکالنا چاہے تو ایسے تاجر کو اس

بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فیوج مارکیٹ میں جا کر نفع کی
ضمانت (تامین الرع) کا انتظام کرے، اس لئے کہ اس گندم کی
قیمت کم ہو جانے کا جو خطرہ تھا وہ خطرہ اس کی بیع کے فوراً بعد
مشتری کی طرف منتقل ہو گیا۔

لیکن بعض اوقات تاجر اس گندم کو خرید کر فوراً آگے
فروخت نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ اس کو ایک معتدبه مدت کے لئے
اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں
ایسا نہ ہو کہ فروخت کرتے وقت اس کے دام کم ہو جائیں اور
اس کی وجہ سے اسے نقصان ہو چتا نچہ اس خطرہ سے بچنے کے
لئے وہ تاجر فیوج مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے تاکہ اس نے جس
منافع کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ محفوظ رہے۔

اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ ”فیوج مارکیٹ“ میں داخل ہو کر عقد کرنے کی
ضرورت ان تاجروں کو پیش آتی ہے جو مصنوعات اور اشیاء کو ایک معتدبه مدت کے
لئے اپنے پاس روک کر رکھنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ عام طور پر ذخیرہ اندوزی کی نیت
سے اشیاء کو روکتے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہے، لہذا جب فیوج مارکیٹ میں
داخل ہونے کا مقصد ہی غیر شرعی ہے تو پھر ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہئے کہ
”فیوج مارکیٹ“ کا شرعی مقابل طریقہ کیا ہو گا؟۔ ہاں! البتہ اگر کوئی واقعی طور پر یہ
چاہتا ہے کہ میں الی بیع کروں جس کے اندر مجھے بیع فوراً حوالے کرنے کی ضرورت نہ
پڑے تو اس کے لئے شرعی طریقہ ”بیع سلم“ کا موجود ہے، کتب فقہ میں اس کی جو
شرائط ہیں اس کے مطابق وہ ”بیع سلم“ کر لے۔ اس طرح اس کو فیوج مارکیٹ میں
داخل ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَأْتِيَنِي
شَرٌّ مِّنْ يَدِي وَمِنْ يَمْنَانِي

ہاؤس فائننس کے جائز طریقے

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ



ضبط و ترتیب

محمد عبد اللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

عرض ناشر

”الطرق المشروعة للتمويل العقاري“ کے موضوع پر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مظلہم نے ”اسلامی فقه اکیڈمی کے لئے عربی میں ایک تفصیلی مقالہ تحریر فرمایا تھا۔ جو ”بحوث فی قضایا فقهیہ معاصرہ“ میں شائع ہو چکا ہے برادر مکرم مولانا عبداللہ میمن صاحب نے اس کا ترجمہ فرمادیا۔ جو پیش خدمت ہے۔

میمن اسلامک پبلشرز

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہاؤس فائنسنگ کے جائز طریقے

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد النبي الامين وعلى الله واصحابه الطاپرين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
”مکان انسان کی بیوادی ضرورت میں داخل ہے اس کے بغیر انسان کے لئے زندگی گزارنا مشکل بلکہ ناممکن ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا
اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہارے گھر رہنے کی جگہ
بنائی۔ (سورة النحل : ۸۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ثلاث من السعادة: المرأة
الصالحة، والمسكن الواسع،
والمركب الهنيئي“
تنہ چیزیں انسان کی نیک نجتی کی علامت ہیں۔ نیک یوں،
کشاہدہ مکان، خوشگوار سواری“

(کشف الاستار من زواائد البزار للهشیسی ج ۲ ص ۱۵۶ نمبر ۱۳۱۲)

آج کے دور میں ایک مناسب اور کشاہدہ مکان کے حصول کے لئے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پر گنجان آبادی والے شہروں میں اور

زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں وجدہ اس کی یہ ہے کہ آج کی زندگی بہت چیزیں ہو چکی ہے، آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور منہگانی روز بروز بڑھ رہی ہے اور جو لوگ اپنے نئے مکان خریدنے یا بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی تعداد بہت معمولی ہی ہے۔

ان حالات کو دیکھتے ہوئے موجودہ دور میں بہت سے بڑے بڑے شرکوں میں "ہاؤس فانسنسنگ" کے ادارے قائم ہو چکے ہیں جو لوگوں کے لئے مکان خریدنے یا بنانے کی خدمات انجام دیتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر ادارے سودی نظام ہی کے تحت کام کرتے ہیں چنانچہ یہ ادارے ان مقاصد کے لئے اپنے گاہکوں کو قرض نہ فراہم کرتے ہیں اور پھر ان قرضوں پر ایک معین شرح سے سود حاصل کرتے ہیں جس شرح پر فریقین معابدہ کرتے وقت اتفاق کر لیتے ہیں۔

چونکہ یہ معاملہ سود کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور سود کا معاملہ شریعت اسلامیہ میں ان بڑے محبت میں داخل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں منع فرمایا ہے، اس لئے کسی مسلمان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کوئی ایسا معاملہ کرے جو سودی لین دین پر مشتمل ہو اس لئے علماء پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کی سولت کے لئے ہاؤس فانسنسنگ کا کوئی ایسا طریقہ تجویز کریں جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو اور وہ طریقہ سودی نظام پر مشتمل طریقے کا تبادلہ بھی بن سکے۔

اس مقصد کے لئے ہم اس مقالے میں ہاؤس فانسنسنگ کے چند شرعی طریقے بیان کریں گے اور اس میں اس کے جواز کے دلائل اور اس پر عمل کرنے کی صورت میں پیدا ہونے کے نتائج بھی پیش کریں گے واللہ سبحانہ هو الموفق للصواب۔

اصل بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری میں یہ بات داخل ہے کہ وہ عوام سے کسی لفغ کا مطالبه کئے بغیر ان کی بنیادی ضروریات پوری کرے اور وہ ضروریات ان کو فراہم کرے چونکہ مکان بھی ہر انسان کی بنیادی ضرورتوں میں

داخل ہے اس لئے ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مالی وسائل کی حدود میں رہتے ہوئے اس بغاوتی ضرورت کو حاصل کرے اور جس شخص کے مالی وسائل نیک ہیں جس کی وجہ سے نہ توجہ مکان خرید سکتا ہے اور نہ وہ اپنی جیب سے مکان تغیر کر سکتا ہے تو اس صورت میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل تین طریقوں سے میں سے کسی ایک طریقے سے اس کی یہ ضرورت پوری کرے نہ رائیک اگر وہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے تو پھر زکوٰۃ فڑ سے اس کرتے مدد کتے ہوئے اس کی ضرورت پوری کرے دوسرے یہ کہ صرف واقعی اخراجات کی بغاوت پر اس کو مکان فراہم کرے اور اس پر کسی نفع کا مطالبہ نہ کرے تیسرا یہ کہ حکومت اس شخص کو قرض حصہ فراہم کرے جس پر اس سے کسی نفع یا سود کا مطالبہ نہ کرے۔

ہاؤس فانسنسگ میں یہی تین طریقے اصل الاصول ہیں جو اسلامی روح اور اس اسلامی معاشرے کے مزاج کے بالکل موافق ہیں جو معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور اچھے اور نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بغاوت پر قائم ہے اور جس میں دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور دوسروں کی راحت کو اپنی راحت تصور کیا جاتا ہے اور جس معاشرے میں کمزور کے ساتھ تعاون اور اسکی مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ بھی ایک متوسط درجے کی خوشحال زندگی گزار سکے۔

لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مندرجہ بالاتین طریقوں یا کسی ایک طریقے پر عمل صرف اس حکومت کے لئے ممکن ہے جس کے پاس ذرائع آہنی اور وسائل بہت بڑی تعداد میں موجود ہوں اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک صورت بہت بھاری رقم چاہتی ہے اور خاص طور پر بھارتے اس دور میں جس میں آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور منگانی بھی بہت ہو چکی ہے لیکن اسیں کوئی نیک نہیں کہ حکومت اپنے غیر پیداواری ایکسوں اور منصبوں میں کسی واقع کر کے اس کے لئے بچت کر سکتی ہے اور پھر اس بچت کو ہاؤس فانسنسگ میں استعمال کر سکتی ہے اسی طرح ان بھارتی

اخراجات میں کمی کر کے بھی ان وسائل کو بڑھایا جا سکتا ہے جن کا مقصد صرف دکھوا اور خوش عیشی کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن ان اخراجات میں کمی کرنے کے باوجود بھی آج مسلم ممالک کی بڑی تعداد اس کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ تمام لوگوں کے لئے اس طریقے سے رہائش فراہم کرے۔

لہذا ان حالات میں ایسے طریقے اختیار کرنا ضروری ہے جس میں حکومت کو رہائش فراہم کرنے پر نہ تو تمrex مخفف اختیار کرنا پڑے اور نہ بھاری اخراجات برداشت کرنے پڑیں اور وہ طریقے سود اور دوسرے ممنوعات شرعیہ سے بھی پاک ہوں وہ طریقے مندرجہ ذیل ہیں:

بیع موجل

پہلا طریقہ یہ ہے کہ سرمایہ کار (کمپنی) مکان خرید کر اس کی مالک بن جائے پھر گاہک کو نفع کے ساتھ ادھار فروخت کر دے اور پھر کمپنی گاہک سے عقد میں طے شدہ قسطوں کے مطابق قیمت وصول کرے اور اس میں نفع کا تناسب بیان کئے بغیر بھی ادھار فروختگی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے اس صورت میں نفع کے تناسب کی طبعیں کا اختیار سرمایہ کار (کمپنی) کو ہو گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس ادھار بیع کا معاملہ مراجعہ کے طریقے پر کیا جائے اور عقد کے اندر اس کی صراحة کردی جائے کہ کمپنی اس مکان پر آنے والے واقعی اخراجات سے اس قدر زائد نفع گاہک سے وصول کرے گی۔

پھر مندرجہ بالا طریقے کی کمی صورتیں ہو سکتی ہیں اولانیہ کہ اگر عقد کے وقت وہ مکان تیار موجود ہے پھر تو مندرجہ بالا طریقے پر کمپنی وہ مکان خود خرید کر گاہک کو ادھار فروخت کر دے دوسرے یہ کہ عقد کے وقت وہ مکان تیار موجود نہیں ہے بلکہ کمپنی مکان تیار کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی اسی گاہک کو مکان بنانے کے لئے اپنا دکیل مقرر کر دے اس صورت میں تغیر کمپنی

عی کی ملکت میں ہو گئی اور گاہک صرف کمپنی کے وکیل کے طور پر اس تغیری کی نگرانی کرے گا اور تغیر مکمل ہونے کے بعد کمپنی وہ مکان گاہک کو ادھار فروخت کر دے گی۔

یہ توهہ صورت ہے جس میں گاہک کمپنی کے ساتھ مکان خریدنے یا تغیر کرنے میں کسی بھی قسم کے مالی اشتراک کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

البته اگر گاہک میں مکان کی خریداری یا تغیری اخراجات میں نقدر رقم لگا کر اشتراک کی صلاحیت تو موجود ہے لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اس رقم کے ذریعہ مکان خریدنے یا تغیر کرنے پر آنے والے تمام اخراجات پورے کر سکے اس لئے گاہک یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی رقم لگانے کے بعد جتنی رقم کی مزید ضرورت ہو صرف اتنی رقم وہ کمپنی سے طلب کرے جیسا کہ آج کل اکثر ہاؤس فانسنسگ کمپنیوں میں یہی طریقہ رائج ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ کمپنی اور گاہک دونوں مل کر مشترک طور پر مکان خریدیں مثلاً اس مکان کی نصف قیمت گاہک ادا کرے اور نصف قیمت کمپنی ادا کرے اور اب یہ مکان دونوں کے درمیان نصف نصف کے اعتبار سے مشترک ہو جانے گا اور پھر کمپنی اپنا نصف حصہ قیمت خرید سے کچھ زیادہ قیمت پر گاہک کو ادھار فروخت کر دے اور قسطوں میں اس سے قیمت وصول کرے۔

اور اگر گاہک پسلے ہائی زمین خرید کر پھر اس میں تغیر کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کچھ رقم موجود ہے تو اس صورت میں زمین کی خریداری کی حد تک تو وہی طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے جو ہم نے اوپر مکان خریدنے کے سلسلے میں بیان کیا ہے یہ کہ گاہک اور کمپنی دونوں مشترک طور پر زمین خرید لیں اور پھر کمپنی اپنا حصہ گاہک کو زیادہ قیمت پر ادھار فروخت کر دے۔

اور اگر زمین پسلے سے گاہک کی ملکیت میں موجود ہے یا مندرجہ بالا طریقہ پر زمین اس کی ملکیت میں آچکی ہے اور اب گاہک اس زمین پر ہاؤس فانسنسگ کے

واسطے سے مکان تعمیر کرنا چاہتا ہے (اور گاہک کے پاس کچھ رقم موجود ہے) تو اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ کچنی اور گاہک دونوں مشترک طور پر اس کی تعمیر کریں مثلاً تعمیر پر آنے والے نصف اخراجات گاہک برداشت کرے اور نصف اخراجات کچنی برداشت کرے اس صورت میں وہ تعمیر گاہک اور کچنی کے درمیان مشترک ہو جائے گی لہذا جب تعمیر مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کچنی اپنا حصہ گاہک کو اپنا نفع لے کر ادھار فروخت کر دے اور شرعاً مشترک چیز کے ایک شرک کے لئے اپنا حصہ دوسرے شرک کو فروخت کرنا جائز ہے البتہ کسی اجنبی کے ہاتھ فروخت کرنے کے بارے اختلاف ہے علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ دارالمحთار میں فرماتے ہیں۔

”ولو باع احد الشريکين في البناء حصته

لا جنبي لا يجوز لشريكه جاز“

”کسی عمارت میں دو شرکیوں میں سے کسی ایک شرک کے لئے اپنا حصہ اجنبی کے ہاتھ فروخت کرنا جائز نہیں البتہ اپنے شرک کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے“

اور مندرجہ بالا صورت میں قیمت کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر کچنی کیلئے جائز ہے کہ وہ گاہک سے رہن کا مطالبه کرے، اور کچنی کیلئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ مکان کے کاغذات اپنے پاس بطور رہن کے رکھے۔

مندرجہ بالا طریقہ شرعاً بالکل بے غبار ہے البتہ کچنی اس قسم کے معاملات اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کچنی کو اس بات پر مکمل اعتماد نہ ہو جائے کہ جو مکان کچنی خرید رہی ہے یا کچنی جس مکان کی تعمیر کر رہی ہے گاہک اس مکان کو ضرور خریدے گا اس لئے کہ اگر کچنی نے اپنی کیسر رقم خرچ کر کے اس مکان کو خرید لیا اور بعد میں گاہک نے اس کو خریدنے سے انکار کر دیا تو اس صورت میں صرف یہ نہیں کہ کچنی کا نقصان ہو جائے گا بلکہ پورا نظام ہی سرے سے ٹاکام ہو جائے گا

اور چونکہ مستقبل کی کسی تاریخ کی طرف نسبت کر کے فروختگی کا معاملہ (FUTURE SALE) کرنا جائز نہیں اس لئے مندرجہ بالا طریقے کو کامیاب بنانے کی بھی صورت ہے کہ کاپک اس بات کی یقین و حاصل کرائے کہ وہ اس مکان یا زمین کی خریداری یا تعمیر کے بعد کمپنی کے حصے کو ضرور خرید لے گا۔

کاپک کی طرف سے کمپنی کے حصے کو خریدنے کی یقین و حاصل ایک وعدہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اکثر قضاۓ کے نزدیک ” وعدہ ” قضاء لازم نہیں ہوتا لیکن قضاۓ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ” وعدہ ” کو دیانتہ اور قضاۓ دونوں طریقے سے لازم سمجھتی ہے اور امام مالک رحمة اللہ علیہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے چنانچہ وہ وعدہ کو لازم قرار دیتے ہیں خاص طور پر اس وقت جب اس وعدہ کی وجہ سے موعدولہ (جس سے وعدہ کیا گیا ہے) کسی مشقت میں پڑ جائے چنانچہ شیخ محمد علیش ماکلی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

فالوفاء بالعدة مطلوب بلا خلاف،
 اختلف في وجوب القضاء به على أربعة
 أقوال حكابها ابن رشد في كتاب جامع
 البيوع، وفي كتاب العارية، وفي كتاب
 العدة، ونقلها عنه غير واحد فقيه :
 يقضى بها مطلقاً وقيل :
 لا يقضى بها مطلقاً وقيل :
 يقضى بها إن كانت على سبب، وإن لم
 يدخل الموعود له بسبب العدة في شيء
 كقولك أريد أن اتزوج فاسلفني
 كذا والرابع : يقضى بها إن كانت

على سبب، ودخل للموعود له بسبب العدة في
شيئي، وهذا هو المشهور
من الأقوال”

(فتح المغلق، للشيخ محمد علیش، سائل الأعلام، ج ۱ ص ۲۵۲)

وعدہ پورا کرنا بیان اخلاف مطلوب ہے البت قضاۓ وعدہ پورا
کرنے کے واجب ہونے میں اخلاف ہے اور اس کے بارے
میں چار اقوال ہیں علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
کتاب جامع السیوغ اور کتاب الغاری اور کتاب العدة میں
ان اقوال کو ذکر فرمایا ہے اور بت سے فقیراء نے ان سے نقل
کیا ہے پہلا قول یہ ہے کہ اس وعدہ کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے
گا اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس وعدہ کے مطابق بالکل فیصلہ
نہیں کیا جائے گا تیسرا قول یہ ہے کہ اگر اس وعدہ کا کوئی سبب
موجود ہو تو قضاۓ وعدہ لازم ہو جائے گا اگرچہ موعدو لہ اس
وعدہ کی وجہ سے کسی عمل میں داخل نہ ہو (کوئی کام نہ کیا ہو)
مثلاً آپ کسی شخص سے کہیں کہ میرا شادی کرنے کا رادہ
ہے، یا فلاں چیز خریدنے کا رادہ ہے تم مجھے اتنی رقم قرض
دے دو، (اس نے کہا کہ تمیک ہے اس کے بعد کسی وجہ
سے اس نے شادی کا رادہ ختم کر دیا یا اس چیز کی خریداری کا
رادہ ختم ہو گیا تب بھی ادھار دینے کے وعدہ کو پورا کرنا لازم
ہو گا) چوتھا قول یہ ہے کہ اگر اس وعدہ کا کوئی سبب موجود ہو
اور موعدو لہ اس وعدہ کی وجہ سے کوئی کام کر بیٹھے تو قضاۓ اس
 وعدہ کو پورا کرنا ضروری ہے تمام اقوال میں سے یہ آخری قول
زیادہ مشہور ہے۔

امام قرآنی رحمة اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قال سحنون : الذى يلزم من الوعد،
هدم دارك وانا اسلفك ماتبني به او اخرج
الى العج وانا اسلفك او اشتري سلعة
او تزوج امراة وانا اسلفك لانك ادخلته
بوعدك في ذلك اما مجرد الوعده فلا
يلزم الوفاء به بل الوفاء به من
مكارم الا خلاق“

(الفویق لقرلن، الفق الرابع مثربع المائتين، ج ۳ ص ۲۵)

امام سحنون رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں جو وعدہ لازم ہو جاتا
ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے یہ وعدہ کیا کہ تم اپنا مکان
گراوے، میں مکان بنانے کے لئے تمیں قرض فراہم کروں گا،
یا یہ کہا کہ تم مجھ کے لئے پڑے جاؤ، میں قرض دوں گا، یا آپ
نے کہا کہ تم قلاں چیز خرید لو، یا کسی محورت سے شادی کرو،
میں قرض فراہم کروں گا، ان تمام صورتوں میں وعدہ پورا کرنا
لازم ہے اسلئے کہ تم نے اس سے وعدہ کر کے اس کو اس کام
میں داخل کیا ورنہ جہاں تک مجرد وعدہ کا تعلق ہے تو اس کو پورا
کرنا لازم نہیں ہے البتا ایسے وعدے کو بھی پورا کرنا مکارم
اخلاق میں سے ہے۔

علامہ ابن الشاطر رحمة اللہ علیہ "الفرق" کے حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں:

الصحيح عندي القول بلزم الوفاء
بالوعد مطلقاً، فيتعين تاويل ماينا
قض ذلك" الخ (حاشية الفرق لابن الشاطر، ج ۳ ص ۲۵، ۲۶)

میرے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ مطلقاً ہر وعدے کو پورا کرنا لازم ہے لہذا اس اصول کے خلاف جوبات ہوگی اس کی تاویل کی جائے گی۔

اسی طرح متاخرین حفیہ نے بھی چند مسائل میں ” وعدہ“ کو قضاۓ لازم قرار دیا ہے جیسا کہ ”بیع بالوفاء“ کے مسئلے میں۔ چنانچہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ ”بیع بالوفاء“ کے مسئلے میں تحریر فرماتے ہیں:

”وَإِنْ ذُكْرَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، ثُمَّ ذُكْرَ الشَّرْطِ عَلَى وَجْهِ الْمَوْاعِدَةِ جَازَ الْبَيْعُ، وَيُلْزِمُهُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ، لَانَّ الْمَوْاعِدَةَ قَدْ تَكُونُ لَازِمَةً، فَتَجْعَلُ لَازِمَةً لِحَاجَةِ النَّاسِ“

(التعالیٰ الحنیف، فصل فی الشرط الفضفڈۃ فی الْبَيْعِ ج ۲ ص ۱۳۸)

اگر بیع بغیر شرط کے کی جائے اور اس کے بعد ”شرط“ کو بطور ” وعدہ“ کے بیان کر دیا جائے تو بیع جائز ہو جائے گی اور اس وعدہ کو پورا کرنا لازم ہو گا اس لئے کہ باہمی وعدہ کبھی لازم بھی ہوتا ہے لہذا اس وعدہ کو لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے لازم قرار دیا جائے گا۔“

علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

وَفِي جَامِعِ الْفَصْوَلَيْنِ أَيْضًا: لَوْذَكْرَ الْبَيْعِ بِلَا شَرْطٍ، ثُمَّ ذُكْرَ الشَّرْطِ عَلَى وَجْهِ الْعَدَةِ جَازَ الْبَيْعُ، وَلِزَمَ الْوَفَاءُ، بِالْوَعْدِ، إِذَا مَوْاعِدَ قدْ تَكُونُ لَازِمَةً، فَيَجْعَلُ لَازِمَةً لِحَاجَةِ النَّاسِ“ (روایت الحنار، باب الْبَيْعِ الْقَاسِدِ، مطلب فی الشرط القاسد اذا ذُكر بعد العقد، ص ۱۳۵ ج ۲)

”جامع الفصولین“ میں بھی یہ عبارت موجود ہے کہ اگر بالائے اور مشتری بلا کسی شرط کے پیغ کریں اور پھر شرط کو بطور وعدہ کے ذکر کریں تو پیغ جائز ہو گی اور اس وعدہ کو پورا کرنا لازم ہو گا اس لئے کہ آپس کے باہمی وعدے بعض اوقات لازم ہو جاتے ہیں لہذا یہاں بھی لوگوں کی ضرورت کی بنا پر لازم قرار دیا جائے گا۔

بہر حال مندرجہ بالا عبارات فقهیہ کی بنیاد پر اس قسم کے وعدوں کو تقاضاء لازم قرار دنے جائز ہے۔ لہذا زیر بحث مسئلے میں جس ایکرہ سنت پر دونوں فریق کے دستخط ہیں اس ایکرہ سنت کے مطابق گاہک نے جو یہ ” وعدہ“ کیا ہے کہ زمین یا عمارت میں کمپنی کا جتنا حصہ ہے وہ اس حصے کو خرید لے گا یہ ” وعدہ“ قضاء اور دیانہ پورا کرنا لازم ہو گا۔

البتہ یہ ضروری ہے کہ کمپنی کے حصے کی پیغ اس وقت ہو جب وہ کمپنی اپنے حصے کی مالک بن جائے اس لئے کہ ”پیغ“ کو زمانہ مستقبل کی طرف منسوب کرنا (FUTURE SALE) جائز نہیں، لہذا جب کمپنی اپنے حصے (زمین یا عمارت) کی مالک بن جائے اس وقت کمپنی مستقل ”ایجاد و قبل“ کے ذریعہ گاہک کے ساتھ پیغ کا معاملہ کرے۔

۲۔ شرکت متناقصہ

ہاؤس فلائنسنگ کا دوسرا طریقہ ”شرکت متناقصہ“ پر مبنی ہے جو مندرجہ ذیل لکات پر مشتمل ہو گا:

۱۔ سب سے پہلے گاہک اور کمپنی ”شرکت ملک“ کی بنیاد پر مکان خریدیں گے، جس کے بعد وہ مکان مشترک ہو جائے گا اور جس فریق نے اس کی خریداری میں جس تقابل سے رقم لگائی ہو گی اس تقابل سے وہ اس مکان کامال ہو گا، لہذا اگر دونوں فریضوں نے منصف نصف لگائی ہو گی تو وہ مکان دونوں کے درمیان آدمخا آدھا

- ہو گا، اور اگر ایک فریق نے ایک تہائی رقم لگائی اور دوسرے فریق نے دو تہائی رقم لگائی تو وہ مکان اسی تناسب سے دونوں کے درمیان مشترک ہو جائے گا۔
- ۲۔ پھر کچھی ماہانہ یا سالانہ کرایہ طے کر کے اپنا حصہ اس گاہک کو کرایہ پر دے دی گی۔
- ۳۔ پھر اس مکان میں کچھی کا جتنا حصہ ہے اس کو چند متین حصوں میں ملائادس برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔
- ۴۔ اس کے بعد فریقین آپس میں ایک متین عرصہ (جیریہ) طے کر لیں (مثلاً چھ ماہ یا سال کا عرصہ) پھر گاہک پر جیریہ میں کچھی کی کل ملکیت کے ایک حصے کو اس کی قیمت ادا کر کے خرید لے گا، مثلاً اس مکان میں کچھی کا بجو حصہ ہے اس کی قیمت دو لاکھ روپے ہے، پھر جب اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تو ہر ایک حصے کی قیمت بیس ہزار روپے ہو گی۔ لہذا گاہک ہر چھ ماہ بعد کچھی کو بیس ہزار روپے ادا کر کے اس کے ایک ایک حصے کا مالک بناتا رہے گا۔
- ۵۔ گاہک جس قدر حصے خریدتا رہے گا، اسی حساب سے اس کی ملکیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور کچھی کی ملکیت اس مکان میں کم ہوتی چلی جائے گی۔
- ۶۔ چونکہ گاہک نے کچھی کا حصہ کرایہ پر لیا ہوا تھا اس لئے جس قدر وہ کچھی کے حصے خریدتا رہے گا اسی حساب سے کرایہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا مثلاً اگر کچھی کے حصہ کا کایہ ایک ہزار روپے طے ہوا تھا تو گاہک جس قدر حصے خریدے گا ہر حصے کی خریداری کے بعد ایک سورپے کرایہ کم ہو جائے گا لہذا ایک حصے کی خریداری کے بعد کرایہ نوسور روپے ہو جائے گا اور دو حصوں کی خریداری کے بعد کرایہ آٹھ سو روپے ہو جائے گا۔
- ۷۔ حتیٰ کہ جب گاہک کچھی کے دس کے دس حصے خرید لے گا تو وہ پورا مکان گاہک کی ملکیت ہو جائے گا اور اس طرح یہ شرکت اور کرایہ داری کے دونوں معاملے بیکوقت اپنے انتہاء کو پہنچ جائیں گے۔

بہر حال، ہاؤس فانسنسنگ کا مندرجہ بالا طریقہ تین معاملات پر مشتمل ہے نمبر ایک فریقین کے درمیان شرکت ملک کا قیام، نمبر دو کمپنی کے حصے کو گاہک کا کرایہ پر لینا تو ستر تین کمپنی کے حصے کو مختلف حصول میں تقسیم کر کے گاہک کے ہاتھ ایک ایک کر کے فروخت کرونا..... ان تین معاملات کو پہلے علیحدہ بیان کرنے کے بعد پھر جمیع لحاظ سے ہاؤس فانسنسنگ کے اس طریقے کا شرعی جائزہ لیں گے۔

جان تنک پہلے معاملے کا تعلق ہے یعنی کمپنی اور گاہک کا مشترکہ طور پر مکان خریدنا تو شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں اس لئے کہ اس خریداری کے نتیجے میں دونوں فریقتوں کے درمیان "شرکت ملک" قائم ہو جائے گی اور اس "شرکت ملک" کے فقیماء نے مندرجہ ذیل تعریف کی ہے۔

"شیرکہ اسلک ہشی ان یملک متعدد عیناً اودینا بارت الوبیع اور غیرہما"
 "شرکت ملک" یہ ہے کہ متعدد افراد وارثت یا بعث وغیرہ کے ذریعہ کسی چیز یا دین کے (مشترک طور پر) مالک بن جائیں۔

(توبیر البصار مع رد المحتار، ج ۳ ص ۳۶۳)

بہر حال، زیر بحث مسئلے میں وہ مکان دونوں کے مشترک مال سے خریدنے کے نتیجے میں اس کے اندر "شرکت ملک" وجود میں آگئی۔

جان تنک دوسرے معاملے کا تعلق ہے یعنی اس مکان امیں کمپنی کے حصے کو گاہک کا کرایہ پر لینا تو کرایہ داری کا یہ معاملہ بھی شرعاً جائز ہے، اس لئے مشترکہ چیز کو شریک کے علاوہ دوسرے کو کرایہ پر دینے کے جواز اور عدم جواز میں تو فقیماء کا اختلاف ہے لیکن مشترک چیز کو شریک کو کرایہ پر دینے کے جواز پر فقیماء کا کوئی اختلاف نہیں چنانچہ علامہ ابن قدامة رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:-

ولا تجوز اجارة المشياع لغير الشريك، الا ان يوجر الشريكان معا، وهذا قول ابى حنيفة ووزفر، لانه لا يقدر على تسليمه فلم تصح الاجارته واختار ابو حفص العكبرى جواز ذلك وقد اوصا به احمد وهو قول مالك والشافعى وابى يوسف و محمد لانه معلوم بجواز يعده، فجازت اجارتہ كالمفروز، ولا انه عقد في ملكه بجواز مع شريكه، فجاز مع غيره ”
 (المغنى لابن قدامة ج ۶ ص ۷۱)

مشترک چیز کو شرک کے علاوہ دوسرے کو کرایہ پر دینا جائز نہیں، البتہ اس وقت جائز ہے جب دونوں شرک ایک ساتھ (ایک آدمی کو) کرایہ پر دیں، یہ امام ابو حنیفہ اور امام زفر رحمهما اللہ کا قول ہے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کے مشترک ہونے کی وجہ سے ایک شرک اپنا حصہ کرایہ دار کے پرداز کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لئے یہ اجارہ درست نہیں

البتہ ابو حفص العکبری رحمہ اللہ نے اس اجارہ کے جواز کا قول اختیار کیا ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے

بھی اس کے جواز کی طرف اشارہ کیا ہے اور امام مالک امام شافعی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا بھی یہی قتل ہے اس کی وجہ جواز یہ ہے کہ وہ مشترک حصہ معلوم اور متعین ہے اور جب اس متعین حصے کو بچ جائز ہے تو اس کا اجارہ بھی جائز ہونا چاہئے، جیسا کہ علیحدہ کئے ہوئے حصے کی بچ اور اجارہ جائز ہوتا ہے، دوسرے کہ وہ شرک اپنی ہی ملک کے اندر

معاملہ کر رہا ہے لہذا جس طرح شریک کے ساتھ جائز ہے غیر
شریک کے ساتھ بھی جائز ہے۔

علامہ حصکفی رحمة اللہ علیہ "در مختار" میں فرماتے ہیں :

"وتفسد (ای - الاجارة) ایضا
بالشیوع الا اذا اجر کل نصیبہ او بعضه من
شریکہ، فیجوز، وجوازہ بكل حال"

(الدر المختار بح۶ ص۷۸ و ۳۸)

شرکت کی وجہ سے "اجارہ" فاسد ہو جاتا ہے البتہ اگر مشترکہ
چیز کا ایک شریک اپنا کل حصہ یا بعض حصہ دوسرے شریک کو
اجارہ پر دے تو یہ جائز ہے، اور اس کی ہر صورت جائز
ہے۔

اور چونکہ زیر بحث صورت میں مشترک مکان کا ایک شریک دوسرے
شریک کو اپنا حصہ کرایہ پر دتا ہے اس لئے با جماع فتحاء یہ صورت جائز ہے۔
جہاں تک تیرے معاملے کا تعلق ہے کہ یعنی کمپنی کا اپنے مشترک حصے کو
کاہک کے ہاتھ ایک ایک حصہ کر کے فروخت کرنا، تو یہ معاملہ بھی شرعاً جائز ہے اس
لئے اگر اس مکان کی زمین اور عمارت دونوں میبع میں داخل ہیں تب تو یہ کے جواز
میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ اگر اس مکان کی صرف عمارت میبع میں داخل ہے،
زمین داخل نہیں، تب اس عمارت کو شریک کے ہاتھ فروخت کرنا بالا جماع جائز
ہے لیکن کسی اجنبی کے ہاتھ فروخت کرنے کے جواز میں اختلاف ہے چنانچہ علامہ
ابن عابدین رحم، اللہ علیہ رد المحتار میں فرماتے ہیں :-

"ولو باع احد الشریکین فی البناء حصته
لاجنبی، لا یجوز ولشریکہ جاز"

(رد المحتار، کتاب الشریکہ، ج ۲ ص ۳۶۵)

”اگر کسی عمارت کے دو شریکوں میں سے ایک شریک اپنا حصہ کسی اجنبی کے ہاتھ فروخت کر دے تو یہ بیع جائز نہیں، البتہ شریک کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے۔

اور چونکہ ذیر بحث مسئلے میں وہ عمارت شریک ہی کے ہاتھ فروخت کی جاتی ہے، اس لئے اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔

بہر حال، مندرجہ بالا تفصیل سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ تینوں معاملات یعنی شرکت ملک اجارہ اور بیع ان میں سے ہر ایک فی تفہیمہ جائز ہے اگر ان معاملات کو مستقل فور پر علیحدہ علیحدہ کیا جائے اور ایک معاملے کے اندر دوسرے معاملے کو مشروطہ کیا جائے تو ان کے جواز میں کوئی غبار نہیں۔

البتہ اگر یہ معاملات فریقین کے درمیان کسی سابقہ معابدہ اور ایکہ منٹ کے مطابق انجام پائیوں تو اس میں ”صفقه فی صفة“ کے اصول کی بنیاد پر یا ایک معاملے کے اندر دوسرے معاملے کے مشروط ہونے کی وجہ سے بظاہر ایسا اللتا ہے کہ ”صفقة فی صفقہ“ ہونے کی وجہ سے یہ تینوں معاملات بھی ناجائز ہو جائیں گے ”صفۃۃ فی صفة“ فقہاء کے نزدیک ناجائز ہے، حتیٰ کہ ان فقہائی کے نزدیک بھی یہ ناجائز ہے کہ جو بیع کے اندر بعض مشروط کے جواز کے قائل ہیں جیسے فقہاء حنبلہ چنانچہ علامہ ابن قدامة رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:-

”الثانی (ای النوع الثاني من الشرط)

fasid، وهو ثلاثة انواع، احدها ان يشتوط على

صاحب عقدا اخرم، كسيف او قرض، او بيع، او اجاره،

او صرف الشن او غيره فهذا يبطل البيع، ويحتمل

ان يبطل الميرض وحده الشهور في المذهب ان

هذا الشرط فاسد، يبطل به البيع، لأن النبي صلى

الله عليه وسلم قال : لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان
 في بيع ”قال الترمذى : هذا حديث صحيح، ولأن النبي
 صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعين في بيعة،
 حديث صحيح وهذا منه، وكذلك كل ما في معنى ذلك،
 مثل أن يقول ، على أن تزوجتني بانتك ، أو على أن
 زوجك ابنتي ، فهذا كله لا يصح ، قال ابن مسعود :
 صفتان في صفة ربا : وهذا قول أبي حنيفة
 والشافعى وجسحور العلما ، وجوهه مالك ، وجعل
 العوض المذكورى الشرط فاسدا“

(الشرح الكبير على المقنع للحسن الدين ابن قدامه ، ج ۲ ص ۵۳)

(ذكر المؤمن لابن قدامة في المقنع ج ۲ ص ۲۹۰)

شرط کی دوسری قسم فاسد ہے، اس کی تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ فریقین میں سے ایک دوسرے فریقین پر اس معاملے کے ساتھ دوسرے معاملے کو مشروط کر دے، مثلاً مسلم، یا بیع، یا اجارہ کو بیع کے ساتھ مشروط کر دے، یا حاصل ہونے والے عن کے ساتھ بیع صرف وغیرہ کو مشروط کر دے تو یہ شرط اس بیع کو باطل کر دے گی اور احتمال اس بات کا بھی ہے کہ صرف شرط باطل ہو جائے (اور بیع درست ہو جائے) لیکن مشورہ نہ ہب یہی ہے کہ یہ شرط فاسد ہے، جو بیع کو باطل کر دے گی، اس لئے کہ حدیث شریف میں حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیع اور قرض کو جمع کرنا حلال نہیں، اور نہ بیع میں شرط لگانا حلال ہے..... امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اس

لئے کہ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ فهی عَنْ يَعْتِينَ فِي بَعْدِهِ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع کے اندر دور سری بیع کرنے سے منع فرمایا ہے ” یہ حدیث بلاشبہ صحیح ہے اور اوپر بیان کردہ حدیث بھی اس معنی میں ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شرط جو اس معنی میں ہو وہ بھی اس بیع کو باطل کر دے گی مثلاً فریقین میں سے ایک یہ کہ کہ اس شرط پر یہ معاملہ کرتا ہوں کہ تو اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے، یا اس شرط پر کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کروں گا اور یہ تمام کا تمام صحیح نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک معاملے کے اندر دوسرا معاملہ داخل کرنا سود ہے، امام حفیظہ ” امام شافعی اور جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے، البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور شرط کے اندر جس عوض اور بدل کا ذکر ہے اس کو فاسد قرار دیا ہے۔ ”

لیکن ”صفقة فی صفة“ کی خرابی اس وقت لازم آئے جب ایک عقد کے اندر دوسرا عقد مشوط ہو، جب کہ زیر بحث مسئلے میں فریقین آپس میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں فلاں تاریخ کو عقد اجازہ کریں گے اور فلاں تاریخ کو عقد بیع کریں گے اور پھر یہ دونوں معاملات اپنے اپنے وقت پر کسی شرط کے بغیر منعقد ہو جائیں تو اس صورت میں ”صفقة فی صفة“ کی خرابی باہر لازم نہیں آئے گی، اس لئے کہ فقیاء کرام نے کئی مسائل میں اور خاص طور پر ”بیع بالوقاء“ کے مسئلے میں اس کی صراحة کی ہے چنانچہ فتاویٰ خانیہ کی یہ عبارت پچھے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ :

”وان ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه الموعدة، جاز البيع، ويلزم الوفاء بالوعد، لأن الموعدة قد تكون لازمة، فتجعل لازمة لحاجة الناس“

(الفتاوى الخامسة، ج ۱۳۸)

اگر بیع بغیر کسی شرط کی جائے، اور پھر شرط کو بطور وعدہ کے ذکر کیا جائے، تو بیع جائز ہو جائے گی، اور اس وعدہ کو پورا کرنا لازم ہو گا، اور اس لئے کہ آپس کے وعدے بعض اوقات لازم بھی ہوتے ہیں لہذا اس وعدے کو بھی لوگوں کی ضرورت کے لئے لازم قرار دیا جائے گا“

علماء مالکیہ نے بھی ”بیع بالوقاء“ کے مسئلے میں جس کوہ ”بیع الشنایا“ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اس بات کی تصریح کی ہے کہ ”بیع بالوقاء“ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے چنانچہ علامہ حطاب رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”لا يجوز بيع الشنایا، وهو ان يقول
إيعرك هذا الملك او هذه السلعة على ان
اتيك بالشمن الى مدة كذا او متى اتيك به
فالبيع مصروف عنى“

(تحریر الکلام فی مسائل الالتمام، للعطاب ص ۲۲۲)

”بیع الشنایا“ جائز نہیں ہے ”بیع الشنایا“ یہ ہے کہ باائع یہ کہ کہ اپنی یہ ملک یا یہ سامان میں اس شرط پر بیچتا ہوں کہ اگر اتنی مدت کے اندر اندر میں تیرے پاس اس کی قیمت لے آؤں، یا جب بھی میں تیرے پاس اس کی قیمت لے آؤں تو اس وقت یہ بیع مجھ پر واپس لوٹ جائے گی“

البته اگر بیع شرط کے بغیر ہو جائے، اس کے بعد مشتری باائع سے یہ وعدہ کر لے کہ جب وہ قیمت لائے گا اس وقت وہ اس کو واپس فروخت کر دے گا اس صورت میں یہ وعدہ درست ہو جائے گا اور مشتری کو یہ وعدہ پورا کرنا لازم ہو گا
علامہ حطاب رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”قال ف معین العکام : ویجوز

للمشتري ان یتطوع للباائع بعد العقد
بانه ان جاء الشن الى اجل كذا، والبيع له:
ويلزم المشتري متى جاءه بالشمن في خلال
الاجل او عند انقضاءه او بعده على القرب منه ولا
يكون للمشتري تقويت في خلال الاجل، فان
فعل بيع او هبة او شبه ذلك نقض ان اراده
الباائع ورداليه“

(تحریر الكلام للخطاب ص ۲۳۹)

معین العکام میں فرمایا کہ مشتری کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ عقد ہونے کے بعد باائع کو بطور احسان یہ کے کہ اگر وہ اتنی مدت تک شمن لے آئے گا تو یہ بیع اس کی ہو جائے گی لہذا اگر مدت کے اندر اندر یادت پوری ہونے پر یادت پوری ہونے کے فوراً بعد شمن لے آئے تو مشتری کو اپنا وعدہ پورا کرنا لازم ہو گا اور مشتری کے لئے جائز نہیں کہ وہ مدت کے اندر اس بیع کو بیع یا هبة وغیرہ کے ذریعہ آگے چلا کر دے اگر مشتری ایسا کرے گا تو اس کا یہ معاملہ ثبوت جائے گا بشرطیہ

باائع کا اس کو واپس لینے کا ارادہ ہو اور قیمت واپس کر

یہ اس وقت ہے جب بیع کسی شرط کے بغیر وجود میں آجائے اور آپس کا وعدہ بیع کمل ہونے کے بعد کیا جائے بعض فقیاء نے اس کی بھی صراحت کر دی ہے کہ اگر بیع منعقد ہونے سے پہلے باع اور مشتری آپس میں کوئی وعدہ کر لیں اس کے بعد بیع کسی شرط کے بغیر منعقد کر لیں تو یہ بھی جائز ہے چنانچہ قاضی ابن سادہ خفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیلوا:

شرطہ شرطاً فاسداً

قبل العقد، ثم عقداً لم يبطل العقد
ويبطل لوتقايناً“

(جامع الفصولین، ۲: ۲۳۷)

عالدین نے عقد بیع سے پہلے آپس میں کوئی شرط فاسد کر لی، اس کے بعد آپس میں مقدمہ بیع کی (اس عقد کے اندر کوئی شرط نہیں لگائی) تو اس صورت میں وہ شرط اس عقد کو باطل نہیں کرے گی البتہ اگر وہ شرط عقد بیع کے اندر ہوتی تو اس صورت میں یہ شرط اس عقد کو باطل کر دیتی ہے۔

”بیع بالوقاء“ کے مسئلے میں قاضی ابن سادہ فرماتے ہیں:

وكذا لو تواضعاً الوفاء قبل البيع، ثم عقداً
بلا شرط الوفاء فالعقد جائز، ولا عبرة بالمواضعة
السابقة،“ (جامع الفصولین: ۲: ۲۳۷)

اگر عالدین عقد بیع سے پہلے کوئی وعدہ کر لیں پھر وقاہ کی شرط کے بغیر عقد بیع کر لیں تو یہ عقد جائز ہے، اور سابقہ وعدہ کا کوئی اعتبار نہیں ہو گا۔

البتہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے روالفتحار میں جامع الفصولین کی اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد اس پر اعتراض کیا ہے، وہ فرماتے

فی جامع الفصولین ایضاً : لوشرطا
شرط فاسدا" قبل العقد، ثم
عقداً، لم يبطل العقد، قلت وينبغي
الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه، كما صرحو
به في بيع الهرزل، كماسياني آخر
البيوع" (ردمختار: ۱۳۵)

جامع الفصولین میں ہے کہ اگر عائدین نے عقد بیع کرنے
سے پہلے آپس میں کوئی شرط فاسد ٹھیرا، پھر عقد کیا تو اس
صورت میں یہ عقد باطل نہ ہو گا میں کہتا ہوں کہ اگر
عائدین نے اس عقد کو سابقہ شرط کی بنیاد پر کیا ہے تو اس
صورت یہ عقد فاسد ہونا چاہئے جیسا کہ کتاب البيوع کے
آخر میں "بيع الهرزل" میں اس کی صراحت کی ہے
لیکن علامہ محمد خالد الاتمی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ
کے اس اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں :

اقول هذا بحث مصادم للمنقول (ای
ما هو منقول في جامع الفصولين) كما علمت و
قياسه على بيع الهرزل قياس مع الفارق، فان
الهرزل كباقي المنار هوان يراد باشنى مالم يومنع
له، ولا ي يصلح له اللفظ استعارة ونظيره بيع
التلجنة وهو كما في الدر المختار، ان يظهرا عقدا
و هملا يريدانه وهو ليس ببيع في الحقيقة، فاذا
اتفقا على بناء العقد عليه فقد اعترفا بأنهما لم

بریدا انشاء بع اصلا وain هذا من
مسئلتنا؟ وعلى كل حال فاتباع
المنقول اولی (شرح المجلة للاتاسی ۶۱:۲)

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بحث
جامع الفصویلین کی عبارت سے متصادم ہے جیسا کہ تجویز کو
معلوم ہے اور علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلہ کو
”بعض الہزل“ پر قیاس کرتا ہے قیاس مع الفارق ہے اس لئے
کہ صاحب منار کے مطابق ”ہزل“ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ
بول کر ایسی چیز مرادی جائے جس کے لئے وہ لفظ وضع نہیں
ہوا، اور نہ ہی بطور استعارہ کے اس لفظ کا اس معنی پر اطلاق
ہوتا ہو، اور اس کی نظر ”بعض التلجمۃ“ ہے، در مختار میں
”بعض التلجمۃ“ کی تعریف یہ کی ہے کہ عاقدین آپس میں کسی
عقد کا اظہار کریں جبکہ دونوں کا عقد کرنے کا ارادہ نہ ہو اور
یہ حقیقت میں بعض ہی نہیں ہے لہذا اگر یہ دونوں عاقدین اس
عقد کی بنیاد پر کوئی دوسرا عقد کر لیں تو ایسا کرنا عاقدین کی طرف
سے اس بات کا اعتراف ہو گا کہ انہوں نے اصلًا بعض کرنے کا
ارادہ ہی نہیں کیا تھا اب ظاہر ہے کہ اس مسئلے کا ہمارے مسئلے
سے کیا تعلق ہے بہر حال جامع الفصویلین میں ذکر کردہ مسئلے
کی ابیان کرنا زیادہ مناسب ہے۔

چنانچہ متأخرین حنفیہ کی ایک جماعت نے یہ فتوی دیا ہے کہ اگر کوئی وعدہ
عقد بعض سے بالکل جدا ہو، چاہے وہ عقد بعض سے پسلے کیا جائے، یا بعد میں کیا جائے
دونوں صورتوں میں وہ وعدہ اصل عقد بعض کے ساتھ متعلق نہیں ہو گا، اور اس وعدہ کی
وجہ سے یہ لازم نہیں آیا گا کہ یہ بعض شرط کے ساتھ ہوئی ہے، اور نہ یہ لازم آیا گا کہ

تہ ”صفقة فی صفقة“ ہے لہذا اس معاملے کے جائز ہونے میں کوئی مانع باتی تھے رہا۔

البتہ ایک اشکال یہ رہ جاتا ہے کہ جس صورت میں بیع سے پہلے آپس میں کوئی وعدہ کر لیا گیا ہو، اس صورت میں اگرچہ ایجاد و قبول کے وقت اس وعدہ کا زبان سے اظہار نہیں کیا جاتا لیکن ظاہریات ہے کہ وہ وعدہ فریقین کے نزدیک عقد کے وقت ضرور ملحوظ ہو گا اور اسی سابقہ وعدہ کی بنیاد پر عائدین یہ موجودہ عقد کریں گے، لہذا پھر تو زیر بحث معاملہ جس میں عقد بیع سے پہلے آپس کوئی وعدہ ہو گیا ہو اور اس معاملے میں کوئی فرق نہیں رہیگا جس میں صراحتاً دوسرا عقد مشروط ہو، اور حکم معاملے کی حقیقت پر ہونا چاہئے اس کی ظاہری صورت پر نہ ہونا چاہئے لہذا سابقہ کیا ہوا وعدہ بھی شرط کے درجے میں ہو کر اس بیع کو ناجائز کر دیگا۔

میرے علم کی حد تک اس اشکار کا جواب یہ ہے۔ واللہ اعلم۔ کہ ان دونوں مسئلتوں میں صرف ظاہری اور لفظی فرق نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر ان دونوں میں باریک فرق ہے وہ یہ کہ اگر ایک عقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط ہو جس کو اصطلاح میں ”صفقة فی صفقة“ کہتے ہیں اس میں پہلا عقد مستقل اور قطعی نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ پہلا عقد دوسرے عقد پر اس طرح موقوف ہوتا ہے کہ یہ اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا جس طرح ایک معلق عقد ہوتا ہے۔

لہذا جب بائع نے مشتری سے کہا کہ میں یہ مکان تمیں اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم اپنا فلاں مٹکان مجھے اتنے کرایہ پر دو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیع آئندہ ہونے والے اجارہ پر موقوف رہیگا اور جب عقد کسی آئندہ کے معاملے پر موقوف ہو تو اس صورت میں اس عقد کو مستقل عقد نہیں کہا جائیگا۔ بلکہ عقد معلق کہا جائیگا۔ اور عقود معارضہ میں تعلیق جائز نہیں۔

اور اگر اس بیع کو نافذ کر دیں، اس کے بعد مشتری عقد اجارہ کرنے سے انکار کر دے، تو اس صورت میں عقد بیع خود بخود کا عدم ہو جائیگا اس لئے کہ عقد

بیع تو عقد اجارہ کے ساتھ مشروط تھا۔ اور قاعدة یہ ہے کہ جب شرط فوت ہو جائے تو
مشروط خود بخود فوت ہو جائیگا۔

لہذا جب ایک عقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط ہو، تو اس کا مطلب یہ
ہے کہ عقد اول عقد ہانی کے ساتھ متعلق ہو جائیگا، گویا باائع نے مشتری سے یہ کہا کہ
اگر تم اپنا فلاں مکان مجھے اتنے کرایہ پر دو گے تو میں اپنا یہ مکان تمیں اتنے پر
فروخت کر دو نگاہدار یہ کہ یہ عقد کسی امام کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ اس لئے کہ
بیع تعليق کو قبول نہیں کرتی ہے۔

برخلاف اس کے کہ باائع اور مشتری ابتداء میں عقد اجارہ کو بطور ایک وعدہ
کے طے کر لیں۔ پھر مطلق غیر مشروط طور پر عقد بیع کریں تو اس صورت میں یہ
عقد بیع مستقل اور غیر مشروط ہوگی اور عقد اجارہ پر موقوف نہیں ہوگی۔ لہذا اگر
عقد بیع مکمل ہو جانے کے بعد مشتری عقد اجارہ کرنے سے انکار کر دے تو اس
صورت میں عقد بیع پر کوئی اثر نہیں پڑیگا، عقد بیع اپنی جگہ پر مکمل اور درست ہو
جائیگی۔

زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائیگا کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا بھی لازم ہوتا ہے، اس

لئے مشتری کو اس بات پر مجبور کیا جائیگا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے، اس لئے کہ
اس نے اس وعدے کے ذریعے باائع کو اس بیع پر آمادہ کیا ہے چنانچہ مالکیہ کے
نزدیک قضا بھی اس وعدے کو پورا کرنا مشتری کے ذمے ضروری ہے البتہ اس
 وعدے کا اس بیع پر کوئی اثر نہیں پڑیگا جو بیع غیر مشروط طور پر ہوئی ہے لہذا اگر
مشتری اپنا وعدہ پورا نہ بھی کرے تب بھی بیع اپنی جگہ پر تام سمجھی جائیگی۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر بیع کے اندر کوئی دوسرا عقد
مشروط ہو تو اس صورت میں وہ عقد مکمل ہونے اور فتح ہونے کے درمیان متعدد
رہتا ہے، اور اس تردید کی وجہ سے اس عقد کے اندر فساد آ جائیگا۔ بخلاف اس کے
کہ بیع تو مطلق اور غیر مشروط ہو۔ البتہ اس بیع سے پہلے عاقدین آپس میں کوئی وعدہ

کر لیں، تو اس صورت میں اس بیع کے مکمل ہونے میں کوئی تردذباتی نہیں رہیگا، وہ ہر حال میں مکمل ہو جائیگی زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ جن حضرات فقماء کے نزدیک وعدے کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، ان کے نزدیک اس سابقہ وعدے کو پورا کرنا مشتری کے ذمے لازم ہو گا۔

بہر حال: شرکہ متناقصہ "کا جائز اور بے غبار طریقہ یہ ہے کہ تینوں معاملات اپنے اپنے اوقات میں دوسرے معاملے سے بالکل عیحدہ کئے جائیں اور ایک عقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط نہ ہو، ہال یہ ہو سکتا ہے کہ عائدین کے درمیان وعدہ اور ایگریمنٹ ہو جائے جس کے تحت آئندہ کے معاملات میں پائیں۔

چنانچہ عائدین (گاہک اور کمپنی) اس بات پر اتفاق کر لیں کہ فلاں مکان دونوں مل کر مشترکہ طور پر خریدیں گے، اور پھر کمپنی اپنا حصہ گاہک کو کرایہ پر دیدیگی پر گاہک کمپنی کے حصے کو مختلف قطعوں میں خرید لے گا حتیٰ کہ گاہک اس پورے مکان کا مالک ہو جائیگا۔

لیکن یہ ضروری ہے کہ گاہک اور کمپنی کے درمیان یہ معاملہ صرف وعدہ کی شکل میں ہو، اور ہر عقد اپنے اپنے وقت پر مستقل ایجاد و قبول کے ساتھ کیا جائے۔ اس صورت میں یہ عقد غیر مشروط ہو گا لہذا کرایہ داری میں بیع کا معاملہ مشروط نہ ہو گا اور نہ بیع کے اندر کرایہ داری کا معاملہ مشروط ہو گا۔

والله اعلم بالصواب۔

غیر سودی کا و نظر

یعنی پی ایں اکاؤنٹ کی حقیقت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مذہب



ضبط و ترتیب

محمد عبداللہ میمین

میمین اسلامک پبلیشرز

عرض ناشر

۱۹۸۱ء میں جب حکومت نے بلاسود بینکاری کا آغاز کرتے ہوئے تمام بنکوں میں ”پی۔ ایل۔ ایس“، یعنی پروفٹ اینڈ لوس شیرنگ (نفع نقصان کی شرکت کا کھاتہ) جاری کر دیا گیا۔ اور اس کے لئے ”غیرسودی کاؤنٹرز“، کھول دیئے گئے۔ چونکہ اس کا طریقہ کار تمام تر سودی بنیادوں پر تھا۔ اس لئے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مظلہم نے اس کھاتے کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لئے یہ مضمون تحریر فرمایا۔ جس میں یہ بتا دیا کہ یہ اکاؤنٹ اور کھاتہ بھی سودی کھاتہ ہے اس میں رقم رکھوا کر نفع لینا جائز نہیں۔

میمن اسلامک پبلشرز

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

غیر سودی کا و نظر

کیم جنوبری ۱۹۸۱ء سے حکومت نے بلا سود بینکاری کے آغاز کا اعلان کیا ہے، اور ہر بینک میں ”غیر سودی کا و نظر“ کھول دیئے گئے ہیں، حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ”بلا سود بینکاری“ کی طرف پہلا قدم ہے اور آئندہ بینکنگ کے پورے نظام کو رفتہ رفتہ غیر سودی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔

سود جیسی لعنت سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنا ایک اسلامی حکومت کا اہم ترین فریضہ ہے، اور جس دن ہماری معيشت اس شیطانی چکر سے نجات پا گئی، وہ نہ صرف پاکستان، بلکہ پوری انسانیت کے لئے روزِ سعید ہو گا۔ موجودہ حکومت نے بار بار اپنے اس عزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ ملکی معيشت کو غیر سودی بنیادوں پر استوار کرنا چاہتی ہے، اور ایک ایسے ماحول میں جہاں بینکوں کے سود کو حلال طیب قرار دینے کی شرمناک کوششیں جاری رہی ہیں، حکومت کی طرف سے اس عزم کے

اٹھار کو بھی مسلمانوں نے غیمت سمجھا، اور اس نیک کام کی طرف جو قدم بھی آگے بڑھایا جائے اُسے ماضی کے مقابلے میں مستحق ہی قرار دیا جائے گا، اس لئے ان نے "غیر سودی کاؤنٹروں" کے اقتتال کے بعد مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد نے اُسے خوش آمدید کہا اور اپنے اکاؤنٹ ان کاؤنٹروں میں کھلوانے شروع کر دیئے۔

ذاتی طور پر اگرچہ ہمیں اس طریق کار سے شدید اختلاف تھا کہ سودی اور غیر سودی کاؤنٹر متوازی طور پر ساتھ ساتھ چلائے جائیں، مگر جب ان کاؤنٹروں کا اقتتال ہوا تو اس اقدام کو ماضی کے مقابلے میں بہر حال غیمت سمجھتے ہوئے ہمارا فوری اور پہلا تاثر یہ تھا کہ ان کاؤنٹروں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہئے، کیونکہ عرصہ ذرا زی کی تمناؤں اور جدو چد کے بعد اس کام کا آغاز ہو رہا ہے جس کے انتظار میں ایک تھائی صدی بیت گئی ہے، خیال یہ تھا کہ حکمت عملی خواہ کیسی ہو، لیکن غیر سودی بنکاری کا قیام بہر صورت ایک ایسا نیک کام ہے جس میں تعاون خر ہی خیر ہے، چنانچہ اس کا رخیمیں تعاون اور حصہ داری کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس کی اسکیم کا مطالعہ کیا۔ لیکن افسوس اور شدید افسوس، حسرت اور شدید حسرت اس بات کی۔ پہلے کہ ان کاؤنٹروں کے تفصیلی طریق کار کو دیکھنے کے بعد یہ جذبہ بڑی حد تک سرد پڑ گیا۔

کیم جنوری ۱۹۸۱ء کے بعد اطراف و اکناف سے تحریری اور زبانی طور پر ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کاؤنٹروں سے واقعہ سود ختم ہو گیا ہے؟ اور کیا ایک مسلمان سود کے کسی خطرے کے بغیر ان کاؤنٹروں میں رکھوا سکتا ہے؟

ان سوالات کا عالی وجہ البصیرت جواب دینے کے لئے جب ہم نے اس اسکیم کا مطالعہ کیا جو کیم جنوری ۱۹۸۱ء سے نافذ کی گئی ہے، اور اس کے طریق کار کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ سود کی آغوش میں پورش پائی ہوئی ذہنیت اتنی آسانی سے اس نجاست کا خاتمہ کرنے کے لئے تیار نہیں، بلکہ وہ اس پر تھوڑا سا عذر چھڑک کر

اور کچھ خوش نہ پاٹش کر کے کچھ مزید عرصے تک کام چلانا چاہتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ابھی نہ صرف اور انتظار کرنا ہو گا، بلکہ سُود کی گرفتی ہوتی دیوار کو جو انشاء اللہ بالآخر گر کر رہے گی۔ صحیح طرح ڈھانے کے لئے ابھی اور جدوجہد کرنی ہوگی۔

چونکہ عام طور پر مسلمانوں ملکہ بیشتر علماء کو بھی اس نئی اسکیم کی تفصیلات پہنچ نہیں سکیں، اس لئے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے علم و بصیرت کی حد تک اس اسکیم پر تبصرہ پیش کریں، تاکہ حکومت، عوام اور علماء اس کی روشنی میں راہ عمل طے کر سکیں۔

بینکوں کو غیر سُودی نظام پر کس طرح چلایا جائے؟ اور معیشت کے لئے سُود کی تبادل اساس کیا ہو؟ اس مسئلے پر مدت دراز سے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں سوچا جا رہا ہے اور اس پر بہت سا علمی اور تحقیقی کام ہو چکا ہے، فکر و تحقیق کی ان تمام کاوشوں کو سامنے رکھنے کے بعد ایک بات تقریباً تمام تجویزیں مشترک نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ سُود کے اصل تبادل طریقے صرف دو ہیں : ایک نفع و نقصان کی تقسیم یعنی شرکت یا مضاربہ اور دوسرے قرض حسن۔

لہذا سُود کو ختم کرنے کے بعد بنکاری کا سارا نظام بنیادی طور سے انہیں دو طریقوں پر منی ہونا چاہئے۔ البتہ بینک کو بعض ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جن کی انجام دہی کے لئے نہ وہ شرکت و مضاربہ کا طریقہ اپنا سکتا ہے، اور نہ قرضِ حسن کا۔ ایسے مقامات پر جزوی طور سے کچھ دوسرے طریقے بھی مختلف حضرات نے تجویز کئے ہیں، یہ طریقے پورے نظام بنکاری کی بنیاد نہیں بن سکتے، بلکہ انہیں استثنائی یا عبوری طور پر اختیار کیا جاسکتا ہے۔

بلا سُود بنکاری پر اب تک جو علمی اور تحقیقی کام سامنے آیا ہے، ان میں

اہتر کی معلومات کی حد تک سب سے زیادہ جامع، مفصل اور حقیقی رپورٹ وہ ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے علماء کرام اور ماہرین معاشیات و بنکاری کی مدد سے مرتب کی ہے اور اب منظرِ عام پر آچکی ہے۔ اس رپورٹ کا حاصل بھی یہی ہے کہ بلا سود بنکاری کی اصل بنیاد نفع و نقصان کی تقسیم پر قائم ہوگی، اور بینک کا پیشتر کار و بار شرکت یا مضاربہ پر مبنی ہو گا، البتہ جن کاموں میں شرکت یا مضاربہ کا رائد نہیں ہو سکتی، وہاں کے لئے اس رپورٹ میں کچھ اور تبادل راستے بھی تجویز کیے گئے ہیں جنہیں بوقتِ ضرورت عبوری دور میں اختیار کیا جاسکتا ہے، انھی تبادل راستوں میں ایک تبادل راستہ ہے جسے اس رپورٹ میں ”بعیجِ مؤجل“ کا نام دیا گیا ہے۔

اس طریقہ کار کا خلاصہ اس طرح سمجھئے کہ مثلاً ایک کاشٹکار ٹریکٹر خریدنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس رقم نہیں ہے، بحالاتِ موجودہ ایسے شخص کو بینک سُود پر قرض دیتا ہے، یہاں سُود کے بجائے شرکت یا مضاربہ اس لئے نہیں چل سکتی کہ کاشٹکار ٹریکٹر تجارت کی غرض سے نہیں، بلکہ اپنے کھیت میں استعمال کے لئے خریدنا چاہتا ہے۔ اس صورتِ حال کا مثالی حل تو یہ ہے کہ بینک ایسے اشخاص کو قرضِ حسن فراہم کرے، لیکن جب تک بیکوں کی مالی پوزیشن اتنی مسحکم ہو کہ وہ اپنا روپیہ قرضِ حسن کے طور پر دے سکیں، اس وقت تک کے لئے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ بینک کاشٹکار کو روپیہ دینے کے بجائے ٹریکٹر خرید کر ادھار قیمت پر دے دے، اور اپنا کچھ منافع رکھ کر اس کی قیمت تعین کرے اور کاشٹکار کو اس بات کی مہلت دے کہ وہ بینک کو ٹریکٹر کی مقررہ قیمت کچھ عرصے کے بعد ادا کر دے۔ اس طریقے کو اسلامی کونسل کی رپورٹ میں ”بعیجِ مؤجل“ کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بینک نے ٹریکٹر کی بازاری قیمت پر جو منافع رکھا ہے اسے معاشری اصطلاح میں ”مارک اپ“ کہا جاتا ہے۔

یہ سود سے بچاؤ کا کوئی مثالی طریقہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ مذکورہ صورت میں بینک ٹریکٹر کو اپنی ملکیت، اپنے قبضے اور حفاظ (RISK) میں لانے کے بعد

فروخت کرتا ہے، اس لئے فقہی اعتبار سے یہ نفع سود نہیں ہوتا، اور فقہائے کرام نے خاص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے، چنانچہ جن مقامات پر بینک کے سامنے فی الحال کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، وہاں کو نسل کی رپورٹ میں یہ طریق کار اختیار کرنے کی کنجائش رکھی گئی ہے، جس کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ ضرورت کے موقع پر صریح سود سے بچنے کے لئے یہ طریق کار اختیار کر لیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس طریق کار کو سود کی روح باقی رکھنے کا ایک قانونی حیلہ بنانا بکاری نظام کی پوری عمارت "مارک اپ" کی بنیاد پر کھڑی کر دی جائے۔ چنانچہ کو نسل کی مذکورہ رپورٹ میں جہاں سود کے متبادل طریقوں میں ایک طریقہ "بیعِ مؤجل" مقرر کیا گیا ہے، وہاں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اس طریق کار کو کن حدود میں استعمال کرنا چاہئے۔ رپورٹ کے تمہیدی نکات میں لکھا ہے کہ :

"کو نسل اس امر کو ابتدائی میں واضح کر دینا ضروری سمجھتی ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام میں سود کا مثالی متبادل حل "نفع و نقصان میں شرکت" یا قرضِ حسن کی صورت میں سرمائے کی فراہمی ہے۔ اگرچہ اس رپورٹ میں پیش کردہ سفارشات بڑی حد تک نفع و نقصان میں شرکت کے اصول پر مبنی ہیں لیکن بعض سفارشات میں کچھ دوسرے متبادل طریقے مثلاً پہ داری، ملکیتی کرایہ داری، بیعِ مؤجل، سرمایہ کاری بذریعہ، نیلام بھی اپنائے گئے ہیں اگرچہ یہ متبادل طریقے جس صورت میں زیر نظر رپورٹ میں پیش کئے گئے ہیں، سود کے عصر سے پاک ہیں، تاہم اسلام کے مثالی اقتصادی نظام کے نقطہ نظر سے یہ صرف "دوسرा متبادل حل" ہیں۔ اس کے

علاوہ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ یہ طریقے بالآخر سُودی لین دین اور اس سے متعلقہ برائیوں کے از سِرِ نورواج کے لئے چور دروازے کے طور پر استعمال ہونے لگیں۔ لہذا یہ امر ضروری ہے کہ ان طریقوں کا استعمال کم سے کم حد تک صرف ان صورتوں اور خاص حالات میں کیا جائے جہاں اس کے سوا چارہ نہ ہو، اور اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی جائے کہ یہ طریقے سرمایہ کاری کے عام معمول کی حیثیت اختیار کر لیں۔

(خاتمه سُود پر اسلامی نظریاتی کو نسل کی اردو رپورٹ صفحہ ۱۳)

نیز ”بیع مؤجل“ کے طریقے کی وضاحت کرتے ہوئے آگے پھر لکھا ہے کہ۔

”اگرچہ اسلامی شریعت کے مطابق سرمایہ کاری کے اس طریقے کا جواز موجود ہے، تاہم بلا احتیاط اسے ہر جگہ کام میں لانا داشمندی سے بعید ہو گا، کیونکہ اس کے بے جا استعمال سے خطرہ ہے کہ سودی لین دین کے از سِرِ نورواج کے لئے چور دروازہ کھل جائے گا۔ لہذا ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہیں کہ یہ طریقہ صرف ان صورتوں میں استعمال ہو جہاں اس کے سوا چارہ نہ ہو۔“

(ایضاً صفحہ ۲۶ فقرہ اوارے)

اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم کیم جنوری سے نافذ ہونے والی اسکیم کا جائزہ لیتے ہیں تو نقشہ بالکل بر عکس نظر آتا ہے۔ اس اسکیم میں نہ صرف یہ کہ ”مارک اپ“ ہی کو غیر سُودی کاؤنٹریز کے کاروبار کی اصل بنیاد تواری دے دیا گیا، بلکہ ”مارک اپ“ کے طریقے کاری میں ان شرائط کا بھی لحاظ نظر نہیں آتا

جو اس "مارک اپ" کو محدود فہری جواز عطا کر سکتی تھیں، چنانچہ اس میں مندرجہ ذیل تکمیل خرایاں نظر آتی ہیں :

(۱) "بیعِ موچل" کے جواز کے لئے لازمی شرط یہ ہے کہ بالائے جو چیز فروخت کر رہا ہے وہ اس کے قبضے میں آچکی ہو۔ اسلامی شریعت کا یہ معروف اصول ہے کہ جو چیز کسی انسان کے قبضے میں نہ آئی ہو اور جس کا کوئی خطرہ (RISK) انسان نے قبول نہ کیا ہو اُسے آگے فروخت کر کے اس پر نفع حاصل کرنا جائز نہیں، اور ذیرِ نظر اسکیم میں "فروخت شدہ" چیز کے بینک کے قبضے میں آنے کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ یہ صراحت کی گئی ہے کہ بینک "مارک اپ اسکیم" کے تحت کوئی چیز مٹانا چاول اپنے گاہک کو فراہم نہیں کرے گا، بلکہ اس کو چاول کی بازاری قیمت دے گا، جس کے ذریعے وہ بازار سے چاول خرید لے گا، اور اسکیم کے الفاظ یہ ہیں :

"جن اشیاء کے حصوں کے لئے بینک کی طرف سے رقم فراہم کی گئی ہے، ان کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بینک نے اپنی فراہم کردہ رقم کے معاوضے میں بازار سے خرید لی ہیں، اور پھر انہیں نوّے دن کے بعد واجب الاداء زائد قیمت پر ان اداووں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے (جو اس سے رقم لینے آئے ہیں)۔"

(ائیٹ بینک نیوز ٹکم جوری ۱۹۸۱ء صفحہ ۹)

اس میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ وہ اشیاء بینک کی ملکیت اور اس کے قبضے میں کب اور کس طرح آئیں گی؟ اور محض کسی شخص کو کوئی رقم دے دینے سے یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ جو چیزوںہ خریدنا چاہ رہا ہے وہ پہلے بینک نے خریدی اور پھر اس کے ہاتھ بیٹھ دی ہے؟ صرف کاغذ پر کوئی بات فرض کر لینے سے وہ حقیقت کیسے بن سکتی ہے، جب تک اس کا صحیح طریق کار اختیار نہ کیا جائے۔ زیادہ سے

زیادہ جوبات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ بینک پہلے اس ادارے کو اپنا وکیل (AGENT) بنائے کہ وہ مطلوبہ چیز بینک کی طرف سے خرید لے، اور جب وہ خرید کر بینک کے وکیل کی حیثیت سے اس پر قبضہ کر لے تو پھر بینک اسے فروخت کر دے۔ لیکن اول تو اس طریق کار کی صراحت ہونی چاہئے، دوسرے یہ بات بھی واضح ہونی چاہئے کہ جب تک وہ ادارہ مطلوبہ چیز خرید کر اس پر بینک کی طرف سے قبضہ نہیں کر لے گا، بینک کی فراہم کی ہوئی رقم اس کے ذمے قرض نہیں ہوگی بلکہ اس کے پاس بینک کی امانت ہوگی۔ یہاں نہ صرف یہ کہ اس قسم کے کسی طریق کار کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ چاول وغیرہ کی خریداری کے لئے بینک نے جو رقمیں رائے کارپوریشن کو پہلے سے دی ہوئی تھیں، ۸۸ مارچ کو یہ سمجھا جائے گا کہ کارپوریشن نے وہ رقمیں نہود کے ساتھ بینک کو واپس کر دی ہیں، اور پھر بینک نے اسی روز وہ رقمیں دوبارہ کارپوریشن کو ”مارک اپ“ کی بنیاد پر دے دی ہیں، اور جس جنس کی خریداری کے لئے وہ قرضے دیئے گئے تھے، یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بینک نے خریدی ہے، اور پھر کارپوریشن کو ”مارک اپ“ کی بنیاد پر بچ دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن رقموں سے کارپوریشن پہلے چاول وغیرہ خرید چکی ہے اور شاید خرید کر آگے فروخت بھی کر چکی ہے اس کے بارے میں کون سی منطق کی رو سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بینک نے خرید کر دوبارہ کارپوریشن کو بچی ہے؟

اس سے یہ بات واضح طور پر متوجہ ہوتی ہے کہ ”بیع موعّجل“ کا طریقہ حقیقی طور پر اپنا نام پیش نظر نہیں بلکہ فرضی طور پر اس کا صرف نام لینا پیش نظر ہے، اور انتہا یہ ہے کہ اس جگہ یہ نام بھی برقرار نہیں رہ سکا، بلکہ بینک کی دی ہوئی رقم کو قرض (ADVANCE) اور اس عمل کو قرض دینے (LEND) سے تغیری کیا گیا ہے۔

(اٹیٹ بینک نیوز کم جنوری ۱۹۸۱ء صفحہ)

۲ اس اسکیم کی ایک عجین ترین غلطی اور ہے۔ ”بیع موعّجل“ کے لئے ایک

لازی شرط یہ ہے کہ معاملے کے وقت فروخت شدہ شے کی قیمت بھی واضح طور پر متعین ہو جائے، اور یہ بات بھی کہ یہ قیمت کتنی مدت میں ادا کی جائے گی؟ پھر اگر خریدنے والا وہ قیمت معینہ مدت پر ادا نہ کرے تو اس سے وصول کرنے کے لئے تمام قانونی طریقے استعمال کے جاسکتے ہیں، لیکن ادا نگی میں تاخیر کی بیاناد پر معینہ قیمت میں اضافہ کرنے کا شرعاً کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ تاخیر کی بیاناد پر قیمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں تو اسی کا دوسرا نام سود ہے، لیکن زیرِ نظر اسکیم میں اس اہم اور بیانادی شرط کی بھی پابندی نہیں کی گئی، بلکہ بعض معاملات میں وضاحت کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، چنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ اپورٹ بلوں کی ادا نگی میں بینک جو رقم خرچ کرے گا، اس پر ابتداءً میں دن کی مدت کے لئے اعشاریہ ۷۸ فیصد "مارک اپ" وصول کرے گا، اور اگر یہ رقم میں دن میں ادا نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید چودہ دن کے لئے اعشاریہ ۵۸ فیصد "مارک اپ" کا مزید اضافہ ہو گا اور اگر ۳۳ دن گزر جانے پر بھی قیمت کی ادا نگی نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید اعشاریہ ۶۲ فیصد "مارک اپ" کا اضافہ ہو گا، اور اگر ۳۸ دن گزر جانے پر بھی ادا نگی نہ ہوئی تو آئندہ ہر پندرہ دن کی تاخیر پر مزید اعشاریہ ۷۹ فیصد کے "مارک اپ" کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

اندازہ فرمائیے کہ یہ طریقہ کار واضح طور پر سود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر "ائزٹ" کے بجائے نام "مارک اپ" رکھ دیا جائے اور باقی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے "غیر سودی نظام" کیسے قائم ہو جائے گا؟

یہ غیمت ہے کہ مددوں کے اضافے سے "مارک اپ" کی شرحوں میں اضافہ زیرِ نظر اسکیم میں صرف اپورٹ بلوں کے سلطے میں بیان کیا گیا ہے، دوسرے معاملات میں اس کی صراحت نہیں کی گئی۔ لیکن اگر یہ صورت مجوزین اسکیم کی نظر میں "غیر سودی" ہے تو شاید وہ دوسرے معاملات میں بھی اس کے

اطلاق میں کوئی قباحت نہ سمجھیں۔

۳) مکمل ہندیوں اور بزر آف ایکچینج کو بھنانے کے لئے جو طریقہ اسکیم میں تجویز کیا گیا ہے، وہ بعینہ وہی ہے جو آج کل بینکوں میں رائج ہے، اس میں سرمُو کوئی فرق نہیں کیا گیا، صرف اس کٹوتی کو جو پہلے کٹوتی (DISCOUNT) کہلاتی تھی، ”مارک ڈاؤن“ کا نام دے دیا گیا ہے، حالانکہ ہندیاں بھنانے کے لئے بھی ایک شرعی طریقہ کار اسلامی کو نسل کی روپورث میں تجویز کیا گیا ہے۔

۲) پھر اگر بالفرض اسکیم سے یہ شرعی قباحتیں دور کر دی جائیں تب بھی اصولی مسئلہ یہ ہے کہ اس اسکیم میں شرکت اور مضاربت کو غیر سودی بینکاری کی اصلی اساس قرار دینے کے بجائے ”مارک اپ“ کو اسکیم کی اصل بنیاد قرار دیا گیا ہے، اور غیر سودی کاؤنٹریز کا پیشتر کار دیوار اسی قانونی حلیے کے گرد گھما دیا گیا ہے۔ اس وقت ایشیٹ بینک آف پاکستان سے جاری ہونے والا پندرہ روزہ اخبار ”ایشیٹ بینک نیوز“ ہمارے سامنے ہے، اس کے کیم جنوری ۱۹۸۱ء کے شمارے میں ان مددات اور اس طریقہ کار کی تفصیل دی گئی ہے جو غیر سودی کاؤنٹریز میں اختیار کیا گیا ہے، اس تفصیل کے مطابق غیر سودی کاؤنٹریز میں جمع ہونے والی رقم سات مختلف مددات میں استعمال کی جائیں گی، ان سات مددات میں سے صرف ایک مدد میں شرکت یا مضاربت کے طریقے کو استعمال کیا گیا ہے، اور باقی تمام مددات میں ”مارک اپ“ یا ”مارک ڈاؤن“ کا طریقہ تجویز کیا گیا ہے اور شرکت یا مضاربت والی مدد کو استعمال کرنے کے لئے بھی کوئی نیا طریقہ کار وضع کرنے کے بجائے یہ صراحت کرو دی گئی ہے کہ یہ رقم مختلف کمپنیوں کے حصہ این آئی ٹی یوش اور پارٹی میہشن نرم سرٹیفیکٹ خریدنے اور انو یسٹمنٹ کار پوریشن آف پاکستان اور بینکرز ایکویٹ کے ان معاملات میں استعمال کی جائے گی جو نفع و نقصان کی شرکت پر بھی ہیں۔

اس طریقہ کار کا حاصل یہ ہے کہ ملک میں شرکت و مضاربت کے دائرے کو تینی دینے کا کوئی پروگرام پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جو ادارے اس وقت شرکت

یا مفاریت کے طریقے پر کام کر رہے ہیں، غیر سودی کاؤنٹروں کی جتنی رقم ان اداروں میں لگ کے گی وہ ان میں لگادی جائے گی اور باقی سارا کاروبار "مارک اپ" کی بنیاد پر ہو گا۔ اور معاملہ یہ نہیں ہو گا کہ بینک کا اصل کاروبار شرکت یا مفاریت کی بنیاد پر ہو، اور جزوی طور پر ضرورت کے وقت "مارک اپ" کا طریقہ اختیار کیا جائے بلکہ "مارک اپ" کاروبار کی اصل بنیاد ہو گا اور جزوی طور پر شرکت یا مفاریت کے طریقے کو بھی اختیار کر لیا جائے گا، جس کا حاصل یہ ہے کہ بینکاری کے نظام کو بدل کر اسے مثالی اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کے بجائے چند ہیللوں کے ہمارے موجودہ نظام جوں کا توں باقی رہے گا۔

یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر "بیع مؤجل" کا مذکورہ بالا طریقہ شرعاً جائز ہے اور اسے بعض مقامات پر اختیار کیا جاسکتا ہے تو پھر پورے نظام بینکاری کو اس کی بنیاد پر چلانے میں کیا قباحت ہے؟ اور اس کے جائز ہونے کے باوجود شرکت یا مفاریت ہی پر کیوں زور دیا جا رہا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ "بیع مؤجل" کا مذکورہ طریقہ جس میں کسی چیز کو ادھار بیخنے کی صورت میں اس کی قیمت برحدادی جاتی ہے، اگرچہ ٹھیکہ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے سود میں داخل نہیں ہوتا، لیکن اس کے روایج عام سے سود خور ذہنیت کی حوصلہ افراطی ہو سکتی ہے، اس لئے یہ کوئی پسندیدہ طریقہ کار نہیں ہے، اور اس کو پورے نظام بینکاری کی بنیاد بنا لیتا مندرجہ ذیل وجوہ سے درست نہیں:

(۱) ادھار بیخنے کی صورت میں قیمت برحدادی خود فقیہاء کرام کے درمیان مختلف فیہ رہا ہے، اگرچہ اکثر فقیہاء اسے جائز کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں مدت برہمنے کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کی جاتی ہے، اور اس طرح اگرچہ یہ ٹھیکہ معنی میں سود نہ ہو، لیکن اس میں سود کی مشاہدہ یا سود کی خود غرضانہ ذہنیت ضرور موجود ہے، اس لئے بعض فقیہاء نے اسے ناجائز بھی قرار دیا ہے، چنانچہ قاضی خان جیسے محقق خلق

عالم اسے سود کے حکم میں شامل کر کے اسے حرام کتے ہیں۔

اور ایسا معاملہ جس کے جواز میں فقباء کرام کا اختلاف ہو، اور جس میں سود کی کم از کم مشابہت تو پائی ہی جاتی ہو، اسے شدید ضرورت کے موقع پر بدرجہ مجبوری اختیار کر لینے کی تو گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اس پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی بنیاد کھڑی کر دنا اور اسے سرمایہ کاری کا ایک عام معمول بنایتا کسی طرح درست نہیں۔

(۲) بینک بنیادی طور پر کوئی تجارتی ادارہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد تجارت، صنعت اور زراعت میں سرمائے کی فراہمی ہوتا ہے، اگر ایک تجارتی ادارہ جو تجارت ہی کی غرض سے وجود میں آیا ہو اور جس کے پاس سامانِ تجارت موجود رہتا ہو وہ "بیعِ مؤجل" کا مذکورہ طریقہ اختیار کرے تو اس کی نوعیت مختلف ہے، لیکن بینک جو نہ تجارتی ادارہ ہے اور نہ سامانِ تجارت اس کے پاس موجود رہتا ہے، وہ "بیعِ مؤجل" کا یہ طریقہ اختیار کرے تو ایک کاغذی کاروائی کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جس کا مقصد سود سے بچنے کے ایک حلیلے کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس قسم کے جیلوں کی شدید ضرورت کے موقع پر تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن سارا کاروبار ہی حلیلہ سازی پر مبنی کر دینا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

(۳) جب ہم "غیر سود بکاری" کا نام لیتے ہیں اور بینک کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا فشاء یہ نہیں ہوتا کہ چند جیلوں کے ذریعے ہم موجودہ طریقہ کارکوڈ راستا تبدیل کر کے سارا نظام بُوں کا لوں برقرار رکھیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے پورے نظام کو تبدیل کر کے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیں، جس کے اثرات تقسیم دولت کے نظام پر بھی مرتب ہوں۔ اور سرمایہ کاری کا اسلامی تصور یہ ہے کہ جو شخص کسی کاروبار کو سرمایہ فراہم کر رہا ہے وہ یا تو نفع کا مطالبه نہ کرے، یا اگر نفع کا مطالبه کرتا ہے تو نقصان

کے خطرے میں بھی شریک ہو، لہذا "غیر سودی بینکاری" میں بنیادی طور پر اس تصور کا تحفظ ضروری ہے، اب اگر بینک کا سارا نظام "مارک اپ" کی بنیاد پر استوار کر لیا جائے تو سرمایہ کاری کا یہ بنیادی اسلامی تصور آخر کہاں اطلاق پذیر ہو گا؟ کیا ہم دنیا کوئی باور کر سکیں گے کہ موجود بینک سسٹم کی خرابیوں پر پورے عالم اسلام میں جو شورجہ رہا تھا وہ صرف اس لئے تھا کہ "انٹرنس" کے بجائے "مارک اپ" کا حیلہ کیوں استعمال نہیں کیا جا رہا؟ کیا اس حیلے کے ذریعے نظام تقسیم دولت کی موجود خرابیوں کا کوئی ہزارواں حصہ بھی کم ہو سکے گا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو خدا را سوچنے کہ "مارک اپ" کا حیلہ استعمال کر کے ہم اسلامی نظامِ سرمایہ کاری کا کیا تصور دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟

اسی لئے ہمارے فقہاء کرام نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ ایک اڈکا مواقع پر کسی قانونی تنگی کو دور کرنے کے لئے کوئی شرعی حیلہ اختیار کر لینے کی تو گنجائش ہے، لیکن ایسی حیلہ سازی جس سے مقاصدِ شریعت فوت ہوتے ہوں، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلام کو جس قسم کا نظام سرمایہ کاری مطلوب ہے وہ "مارک اپ" کے "میک اپ" سے حاصل نہیں ہوگا، اس کے لئے محض قانونی یہ پوت کی نہیں، انقلابی فکر کی ضرورت ہے، اس غرض کے لئے کاروباری اداروں کو چجور کرنا ہو گا کہ وہ شرکت یا مفاریت کی بنیاد پر کام کریں، حسابات رکھنے کے طریقے بدلتے ہوں گے، نیکوں اور بالخصوص انکم نیکس کے موجودہ قوانین کی ایسی اصلاح کرنی ہوگی جس سے یہ قوانین بد دینی اور اوز رشوت ستانی کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں میں امانت و دیانت اور ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں، اور رب سے بڑھ کر اس ذہنیت کا خاتمه کرنا ہو گا جو نقصان کا ادنیٰ خطرہ مول لئے بغیر اپنے ایک ایک روپے پر یقینی نفع کی طلبگار ہوتی ہے۔

اللہا ہم ارباب حکومت سے نہایت درود مندی کے ساتھ یہ اپل کرتے ہیں کہ جب آپ نے معیشت کو سود سے پاک کرنے کا مبارک ارادہ کیا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس ارادے کی نیک نیت پر شبہ کیا جائے اور جب آپ اس سمت میں عملی اقدام بھی کرنے کے لئے تیار ہیں تو خدا کے لئے یہ کام نیم دلی سے نہ کجھ، کیونکہ اس قسم کے انتقالی کاموں میں نیم دلی بعض اوقات انتہائی خطرناک نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے بجائے آپ پوری جرأت و ہمت اور پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اقدامات کجھے جو اس عظیم اور مقدس کام کے لئے ضروری ہیں۔ ابھی غیر سودی کا وتنڑوں کی محفل ابتدا ہے اور اس مرحلے پر خراپوں کی اصلاح نسبتاً آسان ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید پچیدگیاں پیدا ہوتی جائیں گی، چنانچہ ہماری نظر میں فوری طور سے کرنے کے کام یہ ہیں :

- ① غیر سودی کاروبار کی اصل بنیاد "مارک اپ" کے بجائے نفع و نقصان کی تقسیم کو بنایا جائے۔
- ② جن مقامات پر "مارک اپ" کا طریقہ باقی رکھنا ناگزیر ہو وہاں اس کی شرعی شرائط پوری کی جائیں، یعنی اول تو قیمت کی ادائیگی میں تا خیر پر "مارک اپ" کی شرحوں میں اضافے کی شرط کو فور ختم کیا جائے، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی تنگائش نہیں۔ دوسرے اس بات کی وضاحت کی جائے کہ "مارک اپ" کی بنیاد پر فروخت کیا جانے والا سامان مینک کے قبضے میں لا کر فروخت کیا جائے گا۔
- ③ بل آف ایکچیخ بُجھانے کے لئے "مارک ڈاؤن" کا طریقہ ختم کر کے وہ طریقہ کار اختریار کیا جائے جو اسلامی نظریاتی کو نسل نے تجویز کیا ہے۔
- ④ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اب تک "غیر سودی کا وتنڑ" میں رقم رکھوانے والوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ منافع کی صورت میں ان کو ملنے والی شرح منافع کیا

ہوگی؟ یعنی یہ واضح نہیں ہے کہ بینک لفغ کا لکتنا حصہ خود رکھے گا اور کتنا اکاؤنٹ ہو لڈر ز میں تقسیم کرے گا؟ اس کے بجائے غیر سودی کاؤنٹر ز کے پرائیس میں یہ کہا گیا ہے کہ شرح کے تعین کلی طور پر بینک کی صواب دید پر ہو گا۔ یہ صورت حال بھی شرعاً درست نہیں۔ جب اکاؤنٹ ہو لڈر ز کے ساتھ شرکت کا معاملہ کیا جا رہا ہے تو یہ بات معاہدے کے وقت مطہری چاہئے کہ لفغ کی صورت میں لفغ کا لکتنا قابل منافع ہو گا، اور کتنا اکاؤنٹ ہو لڈر کا؟ ورنہ شرح منافع مجہول ہونے کی بناء پر اس معاملے کی شرعی حیثیت ملکوک ہو جائے گی۔

اب سوال یہ ہے کہ جن حضرات نے اس نئے نظام کے تحت ”غیر سودی کاؤنٹروں“ میں اپنے اکاؤنٹ گھلوائے ہیں، ان کو ملنے والے لفغ کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ نیز جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے سودے سے بچنے کی توفیق بخشی ہے، وہ آئندہ ان کاؤنٹروں میں رقم رکھوائیں یا نہیں؟

اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ ”غیر سودی کاؤنٹروں“ کے کاروبار کی جو تفصیل ہم نے دیکھی ہے اس کی رو سے اس کاروبار کے تین حصے ہیں :

(۱) پہلا حصہ واضح طور پر جائز ہے۔ یعنی جو رقمیں عام کپنیوں کے غیر ترجیحی حصص یا این آئی ٹی یونٹ خریدنے میں لگائی جائیں گی یا کسی اور ایسے کاروبار میں لگائی جائیں گی جو شرکت یا مفاریت کی بنیاد پر رقمیں وصول کرتا ہو، ان پر حاصل ہونے والا منافع شرعاً حلال ہو گا۔

(۲) دوسرا حصہ واضح طور پر ناجائز ہے۔ یعنی درآمدی بلوں پر ”مارک اپ“ کا جو طریقہ اسکیم میں بتایا گیا ہے کہ وقت مقررہ پر ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں ”مارک اپ“ کی شرح برهنی چلی جائے گی۔ یہ واضح طور پر شرعاً ناجائز ہے، اور اس کاروبار سے حاصل ہونے والا منافع شرعاً حلال نہیں ہو گا، اسی طرح ملکی بلوں پر

”مارک ڈاؤن“ کے نام سے کٹوتی کر کے جو نفع حاصل ہو گا، وہ بھی شرعاً درست نہیں ہو گا۔

۳ تیرا حصہ مبہم اور غیر واضح ہے۔ یعنی درآمدی ملبوں کے علاوہ دوسری مذات میں جہاں ”مارک اپ“ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، وہاں صورت حال پوری طرح واضح نہیں، وہاں بھی نفع کے ناجائز ہونے کے دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہاں بھی اداگی میں تاخیر ہونے پر ”مارک اپ“ کی شرح برعهائی جاتی رہے، جس کی ایکیم میں نہ کوئی صراحت ہے نہ تردید۔ اور دوسرے یہ کہ بینک جو سامان ”مارک اپ“ کی بنیاد پر فروخت کر رہا ہے، اس پر بینک کا قبضہ ہونے سے پہلے اُسے فروخت کر دیا جائے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی صورت نہ ہوئی تو فہری طور پر اس سے حاصل ہونے والے نفع کی گنجائش ہوگی۔

اس تجزے سے یہ بات واضح ہوئی کہ فی الحال ان ”غیر سودی کاوشنوں“ کا کاروبار جائز اور ناجائز معاملات سے مخلوط ہے، اور اس کا کچھ حصہ مشتبہ ہے۔ لہذا جب تک ان خامیوں کی اصلاح نہ ہو، اس سے حاصل ہونے والے منافع کو کلی طور پر حلال نہیں کہا جاسکتا، اور مسلمانوں کو ایسے کاروبار میں حصہ لینا درست نہیں۔

واللہ اعلم



فارن ایکس پنج

بیر ریٹنکلیش کا شرعی حکم

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ



ضبط و ترتیب

محمد عبد اللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

عرض ناشر

”فارن ایک چیخ بیر سرٹیفکیٹ“ جو حکومت جاری کرتی ہے، اس کے
بارے میں ایک صاحب نے شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لئے دارالافتاء
دارالعلوم کراچی میں ایک استفتاء بھیجا، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم
نے اس استفتاء کا تفصیل جواب تحریر فرمایا۔ جو پیش خدمت ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور حضرت مولانا مدظلہم کی عمر میں اور صحبت
میں برکت عطا فرمائے، آمین۔

میمن اسلامک پبلیشورز

فارن ایک پچنچ بیر سرٹیفیکٹ

کا

شرعی حکم

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع تین درج ذیل مسئلہ میں کہ جو لوگ بیرونِ ملک رہتے ہیں اور اپنا زرِ مبادلہ باہر سے لے کر آتے ہیں۔ ان کے لئے حکومت نے "فارن ایک پچنچ بیر سرٹیفیکٹ" کے نام سے ایک اسکیم جاری کی ہے جس کے ذریعہ ان کو باہر سے لائے ہوئے زرِ مبادلہ کے عوض یہ سرٹیفیکٹ جاری کئے جاتے ہیں۔ اور اس کا حامل اس کو اشک ایک پچنچ میں بھی نفع پر فروخت کر سکتا ہے۔ اور خود ایک پاکستانی بینک ایک سال کے بعد سو روپے پر ۱۳۱۵۰ روپے مزید نفع کے ساتھ دو سال کے بعد ۳۱ روپے اور تین سال کے بعد ۵۲ روپے سو دیا نفع کے ساتھ فروخت کر سکتا ہے۔ اور اگر چاہے تو اسی کے ذریعہ بوقتِ ضرورت زرِ مبادلہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔

ان سرٹیفیکٹ کا خریدنا اور ان پر نفع حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟



الجواب

حامد آن و مصلیا

فارن ایکچین بیر سرٹیفیکٹ کے بارے میں تحقیق سے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ جو لوگ پاکستان سے باہر ملازمت کرتے ہیں وہ اگر زرِ مبادلہ پاکستان لے کر آئیں تو حکومت کا قانون یہ ہے کہ وہ بیرونی زرِ مبادلہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرائیں اور اس کے بدلتے حکومت کے طے کردہ نرخ کے مطابق پاکستانی روپیہ وصول کریں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے زرِ مبادلہ اپنے پاس رکھنا قانوناً جائز نہیں۔ اور جب ایک مرتبہ یہ زرِ مبادلہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرادیا جائے تو اس کے بعد کسی وقت اس کو واپس لینا بھی قانوناً ممکن نہیں۔ اب حکومت نے یہ فارن ایکچین بیر سرٹیفیکٹ اس مقصد سے جاری کئے ہیں کہ جو شخص باہر سے زرِ مبادلہ لا کر ان کے بدلتے یہ سرٹیفیکٹ حاصل کر لے تو اس کو تین فواں د حاصل ہوتے ہیں :-

پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سرٹیفیکٹ کو دکھا کر اس کا حامل جب چاہے کسی بھی ملک کی کرنی تبادلے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کر سکتا ہے۔

دوسرा فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سان بھری یہ سرٹیفیکٹ اپنے پاس رکھے تو وہ ساری ہے باہر فیصلہ نفع کے ساتھ پاکستانی روپیہ میں بھنا سکتا ہے۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سال گزرنے سے پہلے یا کسی بھی وقت وہ اس کو بازارِ حص (اشاک ایکچین) میں جس قیمت پر چاہے فروخت کر سکتا ہے۔

چونکہ اس سرٹیفیکٹ کی وجہ سے اس کے حامل کو زرِ مبادلہ حاصل کرنے کا احتراق پیدا ہو جاتا ہے اس لئے عام طور پر اسٹاک ایکچھ میں لوگ اسے زیادہ قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ مثلاً سورپیس کا سرٹیفیکٹ ایک سو دس روپیہ میں بیک سکتا ہے۔

سرٹیفیکٹ کو دیکھنے اور اس کے متعلق مطبوعہ معلومات کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ سرٹیفیکٹ غیر ملکی زرِ مبادلہ کی رسید نہیں، بلکہ اس پاکستانی روپیہ کی رسید ہے جو کسی باہر سے آنے والے کو زرِ مبادلہ حکومت کے حوالہ کرنے کے نتیجہ میں حاصل ہوا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عام پاکستانی روپے یا اس کی نمائندگی کرنے والے تملکات کی بنیاد پر زرِ مبادلہ حاصل کرنے کا کوئی احتراق نہیں ہوتا، لیکن اس سرٹیفیکٹ کے حامل کو زرِ مبادلہ کے حصول کا احتراق حاصل ہوتا ہے۔ لہذا فقہی اعتبار سے اس کی صورت یہ ہی کہ :-

حکومت نے باہر سے آنے والا زرِ مبادلہ پاکستانی روپیہ کے عوض میں خرید لیا، لیکن یہ پاکستانی روپیہ فوراً ادا کرنے کے بجائے اسے اپنے ذمے میں دین بنا لیا اور اس دین کی توثیق کے لئے یہ سرٹیفیکٹ جاری کر دیا۔ اور اس کے حامل کو یہ اختیار دے دیا کہ اگر وہ چاہے تو یہ دین اپنے اصل پاکستانی روپے کی شکل میں وصول کرے یا اگر چاہے تو ادا ایگی کے دن کی قیمت کے لحاظ سے زرِ مبادلہ کی شکل میں وصول کرے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ سرٹیفیکٹ، حامل کے اس پاکستانی روپے کا وثیقہ ہے کہ جو حکومت کے ذمہ دین ہے۔ اب اگر حکومت ایک سال کے بعد یہ سورپے کا وثیقہ ایک سو ساڑھے بارہ روپیہ میں لیتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دین پر ساڑھے بارہ نیصد زیادتی ادا کر دی ہے جو شرعاً واضح طور پر سود ہے۔ اسی طرح اگر اس سرٹیفیکٹ کا حامل یہ وثیقہ بازارِ حص میں اس کی اصل قیمت سے زیادہ قیمت پر فروخت کرتا ہے تو اس کے معنی بھی یہ ہوئے کہ وہ اپنا دین زیادہ قیمت پر دوسرا کو

فروخت کر رہا ہے اور یہ معاملہ بھی سُود ہونے کی بنا پر ناجائز ہے۔

یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہ سرٹیفکیٹ غیر ملکی زرِ مبادلہ کی رسید ہے اور اس وجہ سے اس کو پاکستانی روپیہ میں کسی بھی طے شدہ نرخ پر فروخت کرنا جائز ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ یہ سرٹیفکیٹ غیر ملکی زرِ مبادلہ کی رسید نہیں ہے جس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس سرٹیفکیٹ پر غیر ملکی زرِ مبادلہ کے بجائے صراحت پاکستانی روپے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کے ذریعہ جب کبھی زرِ مبادلہ حاصل کیا جائے تو اتنا زرِ مبادلہ نہیں ملے گا جس کے بدلتے یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہوا تھا۔ بلکہ تبادلہ کے دن، غیر ملکی زرِ مبادلہ کے نرخ کے مطابق زرِ مبادلہ دیا جائے گا۔ مثلاً کسی شخص نے پچھیں (۲۵) سعودی ریال دے کر سورپے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور جو ہر ماہ کے بعد وہ اس سرٹیفکیٹ کے بدلتے دوبارہ سعودی ریال حاصل کرنا چاہتا ہے جبکہ چھ ماہ کے بعد سعودی ریال مہنگا ہو چکا ہے، تو اسے اتنے سعودی ریال دیئے جائیں گے جتنے اس روز پاکستانی سورپے میں حاصل ہوتے ہوں۔ مثلاً اس دن کی شرح تبادلہ اگر ۲۳ ریال ہو تو اسے اس سرٹیفکیٹ کے ذریعہ ۲۳ ریال ہی حاصل ہوں گے۔ پس یہ واضح دلیل ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ، سعودی ریال کا وثیقہ نہیں بلکہ پاکستانی روپے کا وثیقہ ہے۔

لہذا اس سرٹیفکیٹ کو اس بنا پر خریدنا کہ اسے زیادہ قیمت پر اشک ایکچھ میں بچ دیا جائے گا یا سال بھر گزرنے کے بعد اس پر حکومت سے ساڑھے بارہ فیصد نفع حاصل کیا جائے گا، سُودی معاملہ ہونے کی بنا پر قطعاً ناجائز و حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اس غرض سے سرٹیفکیٹ خریدے کہ بوقتِ ضورت اس کے ذریعہ زرِ مبادلہ حاصل ہو سکے اور اسے اشک ایکس چینج میں فروخت کرنے یا حکومت سے اس پر منافع حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو تو اس غرض سے خریدنے کی گنجائش

ہے، لیکن خریدنے کے بعد اسے زیادہ قیمت پر بیچنا یا اس پر حکومت سے منافع حاصل کرنا ہرگز جائز نہیں۔

والله اعلم

احقر

محمد تقی عثمانی عفی عنہ
دارالافتاء دارالعلوم کراچی۔ ۱۳

۱۴۰۸-۸-۲۲



کچھ شہمات

اور

ان کا جواب

”فارن ایکس چینج بیر سریٹیکٹ“ کے بارے میں ”ابلاغ“ میں جب یہ مندرجہ بالا سوال اور جواب شائع ہوئے تو اس پر ایک صاحب کا تفصیلی خط موصول ہوا۔ جس کا تفصیلی جواب حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب ترجمہ نے تحریر فرمایا، وہ خط اور اس کا جواب ذیل میں پیش خدمت ہے۔

معظّم و محترم جناب مولانا محمد تقی عثمانی صاحب۔ السلام علیکم!

گزشتہ ایک سال سے نجیب الحق صدیقی صاحب کی کرم فرمائی کی وجہ سے ”ابلاغ“ زیر مطالعہ ہے، آپ کے مضامین بہت اشتیاق سے پڑھتا ہوں اور روز بروز آپ کی تحریر علمی، زور قلم اور انداز تحریر کا مذاہج ہوتا جا رہا ہوں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ہو۔

شوال المکرم سنہ ۱۴۰۸ ہجری یعنی جون سنہ ۱۹۸۸ء کے ”ابلاغ“ میں فارن کرشنی سریٹیکٹ“ کے بارے میں جناب والا کی تحقیق اور رائے نظر سے گزری۔ اس سلسلے میں کچھ معروفات پیش خدمت ہیں :-

○ یہ مفروضہ کہ ہر پاکستانی کو وطن واپسی پر سارا فارن کرنی
حکومت کے پاس جمع کرانا ہوتا ہے درست نہیں۔ عرصہ دراز
سے حکومت پاکستان نے یہ اجازت دی ہوئی تھی کہ واپس آنے
والے پاکستانی چھ ماہ تک غیر ملکی زرِ مبادله اپنے پاس فارن کرنی
اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ پھر سنہ ۱۹۸۵ء کے او اخیر میں یہ مدت
برھا کر تین سال کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گزشتہ سال
جب فارن کرنی سرٹیفیکٹ جاری کئے گئے اس وقت خریدنے
والے سارے حضرات یا پیشتر حضرات قانوناً اس بات کے مجاز
تھے کہ حکومت کو زرِ مبادله نہ دیں اور اپنے پاس ہی رکھیں اور
جن لوگوں نے یہ سرٹیفیکٹ خریدے ان کے پیش نظر یا تو اور
جگہوں سے زیادہ ملنے والی منافع کی شرح تھی یا وہ اپنے
سرٹیفیکٹ کو اتناک ایکس چینچ میں فروخت کر کے حکومت کی
مقرر کردہ شرح تبادلہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔

○ چنان تک اس بات کا تعلق ہے کہ ”سرٹیفیکٹ کا حامل
جب چاہے کسی بھی ملک کی کرنی تبادلے کے دن کی قیمت کے
اعتبار سے وصول کر سکتا ہے۔“ یہ کچھ حد تک صحیح ہے کیونکہ
حاصل کو یہ کرنی پاکستان سے باہر ہی ملے گی، لیکن اگر وہ اس سے
پاکستان میں فارن کرنی اکاؤنٹ کھولنا چاہے گا تو اسے اس بات
کی اجازت نہ ہو گی۔ البتہ وہ حامل جس کا پہلے سے فارن کرنی

اکاؤنٹ موجود ہے وہ سریفیکٹ اس اکاؤنٹ میں جمع کر سکتا ہے۔

○ گوکہ یہ درست ہے کہ یہ حکومت باہر سے آنے والا زر مبادلہ پاکستانی روپیہ کے عوض خرید کر فوراً ادا کرنے کے بجائے اسے اپنے ذمے دین بناتی ہے لیکن فروخت کرنے والا صرف اس لئے حال کے بجائے مستقبل کے روپے میں (جو کہ افراط زر کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے) اور حقیقی شرح تبادلہ سے کم لینے کو تیار ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں زر مبادلہ لینے کا اتحاقاً برقرار رکھتا ہے۔ ماہرین معاشیات کے مطابق صرف اور صرف (FLOATING RAK) ہی کسی کرنی کی حقیقی قیمت تبادلہ ہوتا ہے۔ حکومتوں کے مقرر کردہ ریٹ کرنی کی صحیح (WORTH) یعنی (INTRINSIC) کو (REFLECT) کو (VALUE) کے مصنوعی طور پر فارن کرنی کے بد لے کم قیمت دے گی تو بازار میں اس پر (PREMIUM) زیادہ ہو گا۔ مثال کے طور پر آج حکومت زبردستی پر اُتر آئے اور ڈالر کی قیمت دس روپیہ طے کر دے تو مارکیٹ میں ڈالر دس فیصد (موجودہ) (PREMIUM) کے بجائے نوے یا سو فیصد پر یہیم پر بکے گا جو اس کی صحیح قیمت ہے۔ میں اس ضمن میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے جب حکومت نے ڈالر کی شرح تبادلہ 14.75 روپیہ مقرر کی ہوئی تھی، ڈالر بازار میں چودہ روپے کا ملتا تھا اور حکومت خود چودہ روپے کی قیمت کو بلا واسطہ بونس واوچ اسکیم کے ذریعے (SUPPORT) کر رہی تھی۔ مختلف

کرنیوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں اُتار چڑھا و آتا رہتا ہے جو کہ ان ممالک میں افراطِ زر اور شرح سود کا ایک (FUNCTION) ہے لیکن جن ملکوں میں کرنی کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں یا جماں حکومت مصنوعی طور پر شرح تبادلہ طے نہیں کرتی وہاں مارکیٹ کی شرح اور حکومت کی شرح تبادلہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ دونوں شرحیں مقامی کرنی کی (INTRINSIC VALUE) کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہی نقطہ نظر سے کسی حکومت کو (جو کہ اسلامی حکومت بھی نہیں) اس بات کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ عوام کو ان کی غیر ممالک میں کمائی کی کم قیمت وے (جبکہ کشم، پولیس، عدالتیں، اکٹم نیکیں غرض ہر ادارہ انہیں لوٹنے پر تیار بیٹھا رہتا ہے) اور اگر وہ کم قیمت دیتی ہے تو عوام اس بات کے کس حد تک مجاز ہیں کہ وہ اپنے زر متبادلہ کی صحیح قیمت (INTRINSIC VALUE) بازار سے حاصل کریں، خصوصاً جبکہ اسی حکومت نے زر متبادلہ کی بازار میں فروخت قانونی قرار دی ہوئی ہے؟

○ دورانِ تحقیق جتاب والا کے علم میں یہ بات ضرور آئی ہو گی کہ حکومت پاکستان کو ہندی کے کاروبار سے ہر سال کروڑوں روپیے کا نقصان ہو رہا تھا کیونکہ لوگ حکومت کی مصنوعی شرح کو چھوڑ کر پرائیوریت اداروں کے ذریعے رقمات کی ترسیل کر رہے تھے۔ پیر فارن ایکس چینج سریٹیکٹ جاری کر کے اور ان کی اشک ایکس چینج میں فروخت کو قانونی بنانا کر دراصل

حکومت نے ہندی کے کاروبار پر ضرب لگائی ہے اور اس بات کا موقع فراہم کیا ہے کہ لوگ زرِ مبادلہ کی صحیح قیمت حاصل کر سکیں (محضے ابلاغ صرف ایک سال سے ہی مل رہا ہے اس لئے میرے علم میں نہیں کہ ہندی کے کاروبار کے سلسلے میں فوجی نقطہ نظر کیا ہے۔ برآہ کرم اس سے بھی آگاہ فرمائیے)۔

ان باتوں کے پیش نظر کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ سرٹیفیکٹ کو بازار میں بیچنے سے جو دس یا بارہ فیصد منافع ہوتا ہے وہ جائز ہے فارن کرنی کی حقیقی قیمت ہونے کی وجہ سے؟ بالکل اسی طرح جس طرح کپنیوں کے حصہ وغیرہ بازار میں (PAR) سے زیادہ یا کم اپنی (INTRINSIC VALUE) کی بناء پر فروخت ہوتے ہیں۔ البتہ اس بات سے مکمل اتفاق کیا جاسکتا ہے کہ سال بھر گزرنے کے بعد اس پر حکومت کی طرف سے جو سائز ہے پارہ فیصد منافع حاصل کیا جائے گا وہ نسودی معاملہ ہونے کی وجہ سے قطعاً ناجائز و حرام ہو گا۔

○ آخری پیراگراف میں جتاب والا نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس غرض سے یہ سرٹیفیکٹ خریدے کہ بوقت ضرورت اس کے ذریلے زرِ مبادلہ حاصل ہو سکے تو اس غرض سے خریدنے کی گنجائش ہے۔ یہ اجازت بھی عام آدمی کے لئے مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص پاکستان واپسی پر صرف اور صرف اسی غرض سے یہ سرٹیفیکٹ لیتا ہے کہ بوقت ضرورت اس سے زرِ مبادلہ حاصل ہو سکے گا لیکن تین سال بعد جب اس کے بدلے زرِ مبادلہ لینا چاہتا ہے تو ایک لاکھ روپیہ کے سرٹیفیکٹ کی (SURRENDER VALUE) ایک لاکھ باون ہزار روپیہ ہو جانے کی وجہ سے اسے زیادہ زرِ مبادلہ ملتا

ہے۔ یہ باون ہزار یقیناً سُود ہے اور اس شخص کے پاس اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ حکومت یہ رقم اسے زبردستی دیگی، ایسی صورت میں کیا وہ سُود وصول کرنے کا گناہ ہگارنے ہو گا؟ حالتِ بجوری کیا وہ باون ہزار روپیہ خیرات کر دے یا جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کو دی تھی، اتنی لے کر باقی خیرات میں دیدے، لیکن ایسی صورت میں روپیہ کی قیمت میں کم سُود سے پوری ہو گی۔ (EXCHANGE LOSS)

امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔

جواب کا منتظر

مختصر
ششم مسعود



الجواب

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مڈھلیم

محترم و مکرم جناب منتظم مسعود صاحب۔ حفظہ اللہ تعالیٰ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

گرامی نامہ ملا۔ جواب کے لئے جس ذہنی یکسوئی کی ضرورت تھی، وہ پچھلے
دنوں منقودرہی، اس لئے جواب میں قدرے تاخیر ہو گئی۔ شرمندہ اور مخذالت خواہ
ہوں۔

آپ نے جس تفصیل کے ساتھ فارن ایکس چینچ بیر سر شیفکیٹ کا پورا پس
منظربیان فرمایا ہے، اس پر میں نہ دل سے آپ کا شکر گذار ہوں، باہر سے زیر مبالغہ
پاکستان نقل کرنے والوں پر جو پابندیاں قانوناً عائد ہیں، اور جن کی وجہ سے وہ

مشکلات کا ذکار ہیں، ان کا کچھ اندازہ پسلے بھی تھا، آپ کی مفصل تشریع سے اور زیادہ ہو گیا۔ لیکن ان تمام باتوں سے فارن ایکس چینچ بیر سرٹیکیٹ کی موجودہ شرعی حیثیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ان مشکلات کا اصل حل تو یہ ہے کہ حکومت زرِ مبادلہ بازاری نرخ پر حاصل کرے۔ یا پھر شرعاً اس بات کی گنجائش بھی نکل سکتی تھی کہ حکومت ان سرٹیکیٹس کو پاکستانی روپے کا نہیں، بلکہ اُس زرِ مبادلہ کا نامانندہ قرار دے جو حکومت کے حوالے کیا گیا ہے۔ اگر یہ سرٹیکیٹ زرِ مبادلہ کا نامانندہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ حکومت کے ذمے زرِ مبادلہ دین ہے۔ اب اس کے بعد حکومت کسی بھی آئندہ مرحلے پر اسے باہمی رضامندی سے طے شدہ قیمت پر خرید سکتی ہے، اور یہ قیمت بازاری قیمت سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ نیز متبادل طور پر یہ بھی ممکن ہے کہ سرٹیکیٹ کا حامل بازار میں اُسے بطورِ حوالہ دے کر اس کے ذریعے زیادہ پاکستانی روپے حاصل کر لے۔

لیکن شرعاً دشواری یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ اس سرٹیکیٹ کو زرِ مبادلہ کے بجائے پاکستانی روپے کا وثیقہ قرار دیا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اسی وقت زرِ مبادلہ کو سرکاری نرخ پر پاکستانی روپے سے خرید لیا ہے، اور اس پاکستانی روپے کے بدلتے یہ سرٹیکیٹ جاری کر دیا ہے۔ اب یہ زرِ مبادلہ اس شخص کی ملکیت میں نہیں رہا جس کی بنیاد پر مذکورہ دو طریقوں سے اس کی بیع ممکن ہوتی۔

رہا یہ کہنا کہ موجودہ صورت میں اشک ایکس چینچ کے اندر جو دس یا بارہ فیصد منافع ہوتا ہے وہ زرِ مبادلہ کی حقیقی قیمت ہونے کی بنا پر جائز ہونا چاہئے، سو یہ توجیہ دو وجہ سے ممکن نہیں ہے۔

اول تو اس لئے کہ وہ زرِ مبادلہ کی نہیں، بلکہ پاکستانی روپے کی قیمت ہے، کیونکہ سرٹیکیٹ پاکستانی روپے ہی کا وثیقہ ہے، اور روپوں کے ہم جس تبادلے میں کمی بیشی جائز نہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ سرٹیفیکٹ پر بازار میں جو دس یا بارہ فیصد منافع ملتا ہے، نہ وہ کلیئے زرِ مبادلہ کے سرکاری اور بازاری زرخوں کے فرق پر مبنی ہوتا ہے اور نہ اس فرق کے مساوی ہوتا ہے۔ اگر یہ منافع دس یا بارہ فیصد ہے تو سرکاری اور بازاری زرخوں کا فرق عموماً اس سے کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرٹیفیکٹ کو بازار میں بینچتے سے حامل کو ہنڈی کے ذریعے زرِ مبادلہ بھینجنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس لحاظ سے جناب کا یہ فرمانا احتقر کے نزدیک درست نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے کھلے بازار میں اس سرٹیفیکٹ کی فروخت کی اجازت بازار سے زرِ مبادلہ کی صحیح قیمت حاصل کرنے کی اجازت کے مترادف ہے۔

اس کے برخلاف صحیح صورتِ حال یہ ہے کہ حکومت نے بازار میں زرِ مبادلہ کو اس کی بازاری قیمت پر بینچتا تو ممنوع قرار دے رکھا ہے، لیکن اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ زرِ مبادلہ سرکار کو کم قیمت پر فروخت کر کے اس قیمت کی بنیاد پر سودی معاملہ کر کے اپنے اس نقصان کی تلافی کر سکتے ہو۔

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ غیر ملکی کرنی کا سرکاری نرخ اُس کے بازاری نرخ سے بہت کم مقرر کرنا، جب کہ کھلے بازار میں زرِ مبادلہ کی خرید و فروخت بھی قانوناً ممنوع ہو، ایک طرح کا ظلم ہے جس کی عام حالات میں ہمیں شرعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت ایک غلط کام کر رہی ہو تو اس سے سودی معاملے کی شرعی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ بدستور ناجائز ہی رہے گا۔

البتہ چونکہ حکومت نے سرٹیفیکٹ کے حامل سے زرِ مبادلہ جبراً کم قیمت پر خریدا ہے اس لئے اگر حکومت اسے سال بھر کے بعد سرٹیفیکٹ پر بارہ فیصد منافع دیتی ہے تو اگرچہ یہ منافع سودہ ہے، لیکن اس میں سے اتنی رقم رکھ لینے کی شرعاً مکنجائش معلوم ہوتی ہے جو سرٹیفیکٹ خریدنے کے دن زرِ مبادلہ کے سرکاری نرخ اور بازاری نرخ کے فرق کے برابر ہو۔ مثلاً کسی نے ایک سو ڈالر دیکر = ۱۰۰۰ پاکستانی روپے کا

سرٹیفیکٹ حاصل کیا، جب کہ اس کی بازاری قیمت = ۱۵۰ روپے تھی۔ اس میں اس کو پچاس روپے کا نقصان سرکاری جبر کی وجہ سے ہوا جس پر وہ دل سے راضی نہیں تھا، اب اگر سال بھر کے بعد حکومت اسے سرٹیفیکٹ کے بدلتے = ۲۳۰۰ روپے تھیں تھا، تو ان روپوں میں سے = ۵۰ روپے اگر وہ ذاتی نقصان کی تلافی کے طور پر وصول کر لے تو شرعاً اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی روپے اس کو اپنے استعمال میں لانے کی اجازت پھر بھی نہیں ہوگی۔

لیکن اگر اسکا ایکس چینچ میں سرٹیفیکٹ بچ کر بارہ فیصد منافع حاصل ہو تو اس میں سے یہ پچاس روپے وصول کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہو گا۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں یہ پچاس روپے کا نقصان اُسی فریق سے وصول کیا جا رہا ہے جس نے یہ نقصان پہنچایا تھا، اور دوسری صورت میں منافع دینے والا فریق وہ نہیں ہے جس نے نقصان پہنچایا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ اگر

الف کسی ناجائز طریقے سے

ب کے = ۱۵۰ روپے غصب کر لے پھر وہی

الف سود کے نام سے اس کو اپنی طرف سے = ۱۵۰ روپے ادا کرے تو

ب کے لئے یہ = ۱۵۰ روپے بھیست سود نہیں، بلکہ بھیست تلافی نقصان لینے کی گنجائش ہے، لیکن اگر

رج اس کو اس کے کسی قرض پر = ۱۵۰ روپے سودے تو اس کا استعمال اس کے لئے

اس بناء پر جائز نہیں ہو گا کہ

الف نے اسے = ۱۵۰ روپے کا نقصان پہنچایا تھا۔

اس تفصیل سے آپ کے آخری سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے، اور وہ یہ اگر کوئی شخص صرف زرمیادہ وصول کرنے کے حق کا تحفظ کرنے کے لئے فارم

ایک چیز سرٹیفیکٹ خریدتا ہے اور سال بھر کے بعد اس پر حکومت سود دیتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سرٹیفیکٹ کی اصل قیمت (FACE VALUE) اپنے استعمال میں لاسکتا ہے، اور اس سے زائد اتنی رقم لینے کی بھی گنجائش ہے جو سرٹیفیکٹ خریدنے کے دن (ذکر منافق وصول ہونے کے دن) اس کے ادا کردہ زیر مبادلہ کی بازاری قیمت اور سرکاری نرخ کے فرق کے برابر ہو، لیکن اس سے زیادہ جتنی رقم حکومت کی طرف سے ملے وہ یقیناً سود ہے، اور اسے ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں، بلکہ اس سے اپنی جان چھڑانے کی نیت سے اسے صدقہ کرونا واجب ہے۔

یہاں یہ بھی واضح رہے کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ :

”بحالستِ مجبوری کیا وہ باون ہزار روپیہ خیرات کر دے یا جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کو دی تھی، اتنی لے کر باقی خیرات میں دیدے۔“

تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کو دی تھی، اتنی لینا درست نہیں، بلکہ اس فارن کرنی کے دیتے وقت اس کی بازاری قیمت سرٹیفیکٹ کی اصلی قیمت (FACE VALUE) سے جتنی زائد تھی، صرف اتنی وصول کرنے کی گنجائش ہے، اس سے زائد نہیں، اور احتیاط تو بلاشبہ اسی میں ہے کہ اصلی قیمت (FACE VALUE) پاس رکھ کر باقی سب صدقہ کرو جائے۔

یہ واضح کرنا بھی مناسب ہے کہ اس رقم کو خیرات کرنے کا مطلب رفاهی کاموں میں لگانا نہیں، بلکہ مستحقِ زکوٰۃ کو مالک بنانا کر صدقہ کرنا ہے۔ البتہ یہ رقم اپنے باپ، بیٹے، شوہر اور بیوی کو بھی دی جاسکتی ہے، بشرطیکہ وہ مستحقِ زکوٰۃ ہوں۔

ایک اور بات آخر میں قابل ذکر یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ افراطِ زر کی بنیاد پر روپے کی قیمت میں کمی کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ادا نیکیوں

میں روپے کی قیمت میں کسی کا بھی لحاظ ہونا چاہئے۔ شرعی نقطہ نظر سے قرض اور دیگر واجبات اور دیون کے لین دین میں افراطِ زر کی شرح میں تبدیلی کا اعتبار نہیں ہوتا، اس نے ادائیگی کے وقت اس پہلو کو مدنظر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس مسئلے کی مکمل تحقیق احقر نے اپنے ایک مفصل مقالے میں کی ہے جو انشاء اللہ عنقریب "البلاغ" میں شائع ہو جائے گا۔

دعا میں یاد رکھنے کی درخواست ہے

والسلام

احقر

محمد تقی عثمانی عفی عنہ

۱۴۰۸-۱۲-۳



اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَأْتِيَنِي
شَرٌّ مِّنْ يَدِي وَمِنْ خَلْفِي وَمِنْ يَمْسَأُ
بِنَسْأَةٍ وَمِنْ تَطَافُعِ النَّاسِ

دود کی اسلامی حیثیت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ

ضبط و ترتیب
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلیشورز

فہرست مضمایں

صفحہ	مضایں
۱۔	انتخابات میں ووٹ کی اسلامی حیثیت ۲۸۵
۲۔	اپنے ووٹ کو استعمال کرنا شرعاً ضروری ہے ۲۸۵
۳۔	ووٹ نہ دینا حرام ہے ۲۸۷
۴۔	انتخابات خالص دنیاوی معاملہ نہیں ۲۸۹
۵۔	نائل کو ووٹ دینا شدید تر گناہ ہے ۲۹۶
۶۔	انتخابی مہم کے دس منکرات ۲۹۲

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انتخابات میں

ووٹ کی اسلامی حیثیت

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَنَا
اما بعد !

موجودہ دور کی گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کے لفظوں کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ان ساتھ مکروہ، جھوٹ، رشوت اور دغاپاڑی کا تصور لازم ذات ہو کر رہ گیا ہے، اسی لئے اکثر شریف لوگ اس جنبخت میں پڑنے کو مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ اور یہ غلط ہی تو بے حد عام ہے کہ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر چند درچند غلط ہنریاں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں ان کا ازالہ بھی ضروری ہے۔

اپنے ووٹ کو استعمال کرنا شرعاً ضروری ہے

پہلی غلط ہی تو سیدھے سادے لوگوں میں اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس کا نشواء اتنا بُرا نہیں، لیکن فتاویج بہت بے ہیں، وہ غلط ہی یہ ہے کہ

آج کی سیاست مکروہ ریب کا دوسرا نام بن چکی ہے، اس لئے شریف آدمیوں کو نہ سیاست میں کوئی حصہ لینا چاہیے، نہ ایکشن میں کھڑا ہونا چاہیے اور نہ دوست ڈالنے کے خرچے میں پڑنا چاہیے۔

یہ غلط فہمی خواہ کتنی تکمیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، لیکن بہر حال غلط اور ملک و ملت کے لئے سخت مضر ہے۔ ماضی میں ہماری سیاست بلاشبہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں گندگی کا ایک تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک کچھ صاف، ٹھہرے لوگ اسے پاک کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھیں گے اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائیگا۔ اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی۔ لذما عقائدی اور شرافت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیاست کی اس گندگی کو دور دور سے بُرا کہا جاتا رہے بلکہ عقائدی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے گذا کر رہے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ کوئین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

﴿الناس إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ قَلُمْ يَا خَذْوَاعْلَى يَدِيهِ أَوْ شَكْ أَنْ
يَعْهِمُ اللَّهُ بِعَقَابٍ﴾

(جمع الفوائد صفحہ ۵۱ جلد ۲ : بحوالہ ابو داؤد و ترمذی)

”اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام نازل فرمائیں۔“

اگر آپ سکھی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، اور انتخابات میں سرگرم حصہ لے کر اس ظلم کو کسی نہ کسی درجے میں مٹانا آپ کی قدرت میں ہے تو اس حدیث کی رو سے یہ آپ کا فرض ہے کہ خاموش بیٹھنے کے بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ

کراس ظلم کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کریں۔
 بہت سے دین دار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہو گا؟ لیکن سنیے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت سلی بن حفیف رضی اللہ عنہ سے مند احمد میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

﴿مَنْ أَذْلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ قَدْرٌ عَلَىٰ أَنْ يَنْصُرَهُ أَذْلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ رُفُوسِ الْخَلَاقِ﴾ (ایضاً صفحہ ۵۱، جلد ۲)

”جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذمیل کیا جائے ہو اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے (قیامت کے میدان میں) بر سرِ عام رسوا کرے گا۔

ووٹ نہ دینا حرام ہے

شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی سی ہے، اور جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح ضرورت کے موقع پر شہادت کو چھپانا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے :

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَاتِلٌ﴾

”اور تم گواہی کونہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے، اس کا دل گناہ گار ہے۔“

اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

﴿مَنْ كَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمْ شَهَدَ بِالرُّورِ﴾

(جمع الفوائد بجواله طبراني صفحہ ۶۲ جلد ۱)

”جس کسی کو شہادت کے لئے بلا یا جائے پھر وہ اسے چھپائے تو
وہ ایسا ہے جیسے جھوٹی گواہی دینے والا۔“

بلکہ گواہی دینے کے لئے تو اسلام نے اس بات کو پند کیا ہے کہ کسی کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی انسان اپنا یہ فریضہ ادا کروے، اور اس میں کسی کی دعوت یا ترغیب کا انتظار بھی نہ کرے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

﴿أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يُاتِي بِشَهَادَتِهِ فَبَلَّ أَنَّ شَاهَاتَهَا﴾

(ایضاً صفحہ ۲۶۱ جلد ۱ بجوالہ مالک وسلم وغیرہ)

”کیا میں تمیں نہ بتاؤں کہ ہترین گواہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو اپنی گواہی کسی کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی ادا کروے۔“

ووٹ بھی بلاشبہ ایک شہادت ہے، قرآن و سنت کے یہ تمام احکام اس پر بھی جاری ہوتے ہیں، لہذا ووٹ کو محفوظ رکھنا دینداری کا تقاضا نہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ صحیح استعمال کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یوں بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر شریف، دیندار اور معتدل مزاج کے لوگ انتخابات کے تمام معاملات سے بالکل یکسو ہو کر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پورا میدان، شریروں، فتنہ پردازوں اور بے دین افراد کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں، ایسی صورت میں کبھی بھی یہ موقع نہیں کی جاسکتی کہ حکومت نیک اور الہیت رکھنے والے افراد کے ہاتھ میں آئے، اگر دین دار لوگ سیاست سے اتنے بے تعلق ہو کر رہ جائیں تو پھر انہیں ملک کی دینی اور اخلاقی تباہی کا لیکوہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا، کیوں

کہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے اور ان کے حکام کا سارا عذاب و ثواب ان ہی کی کرون پر ہو گا اور خود ان کی آنے والی نسلیں اس شروع فادہ سے کسی طرح محفوظ نہیں رہ سکیں گی جس پر بند باندھنے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔

انتخابات خالص دنیاوی معاملہ نہیں

انتخابات کے سلسلے میں اپک دوسری غلط فہمی پہلی سے زیادہ سمجھیں ہے، چونکہ دین کو لوگوں نے صرف نماز، روزے کی حد تک محدود سمجھ لیا ہے، اس لئے سیاست و معاشرت کے کاروبار کو وہ دین سے بالکل الگ تصور کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات دین کی گرفت سے بالکل آزاد ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھتے گئے ہیں جو اپنی نجی زندگی میں نماز، روزے اور وظائف و اوراد تک کے پابند ہوتے ہیں، لیکن نہ انسیں خرید فروخت کے معاملات میں حلال و حرام کی فکر ہوتی ہے، نہ وہ نکاح و طلاق اور برادریوں کے تعلقات میں دین کے احکام کی کوئی پرواکرتے ہیں۔

ایسے لوگ انتخابات کو بھی ایک خالص دنیاوی معاملہ سمجھ کر اس میں مختلف قسم کی بد عنوانیوں کو گوارا کر لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، چنانچہ بہت سے لوگ اپنا ووٹ اپنی دیانتدارانہ رائے کے بجائے شخص ذاتی تعلقات کی نیاد پر کسی نااہل کو دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ دل میں خوب جانتے ہیں کہ جس شخص کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کا اہل نہیں، یا اس کے مقابلے میں کوئی دوسرा شخص اس کا زیادہ حق دار ہے، لیکن صرف دوستی کے تعلق، برادری کے رشتے، یا ظاہری لحاظ و مرتوت سے متاثر ہو کر وہ اپنے ووٹ کو غلط جگہ استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی خیال میں بھی نہیں آتا کہ شرعی و دینی لحاظ سے انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔

جیسا کہ اور پر عرض کیا جا چکا ہے کہ دوست اب کہ شہادت ہے اور شہادت کے بارے میں قرآنِ کریم کا ارشاد یہ ہے۔

﴿فَإِنْ وَلَدَ إِذَا فَلَّمْ فَالْعَدُ لَهُ وَلَدُكَانَ ذَاقْرُبَلِي﴾

”اور جب کوئی بات کہو تو انصاف کرو، خواہ وہ شخص (جس کے غلاف بات کی جاوی ہے) تمہارا قرابت داری کیوں نہ ہو۔“

المذا جب کسی شخص کے بارے میں غیر اور دیانت کا فیصلہ یہ ہو کہ جس شخص کو وہ دے رہے ہو وہ دوست کا مستحق نہیں ہے۔ یا کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے میں زیادہ الہیت رکھتا ہے، تو اس وقت شخص ذاتی تعلقات کی بناء پر اسے دوست دے دینا ”جمہوی گواہی“ کے ذیل میں آتا ہے۔ اور قرآنِ کریم میں جھوٹی کہاں کی نہ ملت اتنی شدت کے ساتھ کی گئی ہے کہ اسے بُت پستی کے ساتھ ذکر نہیا گیا ہے۔ ارشاد ہے :

﴿فَاجْتَبَيْنُوا الرِّجَسَ مِنَ الْأُوْثَانِ وَاجْتَبَيْنُوا نَفْلَ الْأَرْوَابِ﴾

”پس تم پر ہیز کرو بتوں کی نجاست سے اور پر ہیز کرو بھوٹی بات کرنے سے۔“

اور حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر جھوٹی گواہی کو اکبرالکبائر میں شمار کر کے اس پر سخت وعدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اکبرالکبائز (بڑے بڑے گناہ) نہ بتاؤ؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور والدین کی تاریخی کرنا اور خوب اچھی طرح سنو! جھوٹی گواہی، جھوٹی بات! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عکیدہ لگائے ہوئے پیشے تھے، جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو اس کو بیٹھ

گئے، اور ”جموٹی گواہی“ کا لفظ بار بار ارشاد فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم دل میں
کھنے لگے کہ کاش! آپ خاموش ہو جائیں۔

(بخاری و مسلم، جمع الفوائد صفحہ ۱۲۲ جلد ۲)

یہ وعیدیں تو صرف دوٹ کے اس غلط استعمال پر صادق آتی ہیں جو محض ذاتی
تعلقات کی بناء پر دیا گیا ہو؛ اور روپے پیسے لے کر کسی نااہل کو دوٹ دینے میں جموٹی
گواہی کے علاوہ رشتہ کا عظیم گناہ بھی ہے۔

الذرا دوٹ ذاتے کے مسئلہ کو ہرگز یوں نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک خالص
دنیوی مسئلہ ہے، اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یقین رکھئے کہ آخرت میں ایک
ایک شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنے دوسراے اعمال کے ساتھ اس
عمل کا بھی جواب دیتا ہے کہ اس نے اپنی اس ”شہادت“ کا استعمال کس حد تک
روایت داری کے ساتھ کیا ہے۔

نااہل کو دوٹ دینا شدید تر گناہ ہے

بعض حضرات یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر نااہل کو دوٹ دینا گناہ ہے تو ہم کون
سے پاکباز ہیں؟ ہم صحیح سے لے کر شام تک بے شمار گناہوں میں ملوٹ رہتے ہیں۔
اگر اپنے گناہوں کی طویل فہرست میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟

لیکن خوب سمجھ لججئے کہ یہ نفس و شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، اول تو
انسان اگر ہر گناہ کے ارتکاب کے وقت یہی سوچا کرے تو وہ بھی کسی گناہ سے نہیں بچ
سکتا، اگر کوئی شخص تھوڑی سی گندگی میں ملوٹ ہو جائے تو اس کو اس سے پاک ہونے
کی فکر کرنی چاہیئے نہ کہ وہ غلامت کے کسی تالاب میں چھلانگ لگاوے۔

دوسری بات یہ ہے کہ گناہ گناہ کی نوعیتوں میں بھی بڑا فرق ہے، جن گناہوں
کے نتائج بدپوری قوم کو بھکتی پریں، ان کا معاملہ پر ایویٹ گناہوں کے مقابلے میں

بہت سخت ہے۔ انفرادی نوعیت کے جرام، خواہ اپنی ذات میں کتنے ہی گھناوے اور شدید ہوں، لیکن ان کا اثرات دوچار افراد سے آگے نہیں بڑھتے۔ اس لئے ان کی تلافی بھی عموماً اختیار میں ہوتی ہے، ان سے توبہ واستغفار کر لینا بھی آسان ہے، اور ان کے معاف ہو جانے کی امید بھی ہر وقت کی جاسکتی ہے۔ اور اس کے برخلاف جس گناہ کا برا نتیجہ پورے ملک اور پوری قوم نے بھگتا ہو، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، یہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آسکتا، اس لئے اگر کسی وقت انہاں اس بد عملی سے آئندہ کے لئے توبہ کر لے تو کم از کم ماضی کے جرم سے عہدہ برا ہونا بہت مشکل ہے، اور اس کے عذاب سے رہائی کی امید بہت کم ہے۔

اس حیثیت سے یہ گناہ چوری، ڈاکہ، زنا کاری اور دوسرے تمام گناہوں سے شدید تر ہے۔ اور اسے دوسرے جرام پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

یہ درست ہے کہ ہم صحیح و شام بیسیوں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مگر یہ سب گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت توبہ کی توفیق نہیں تو معاف بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی تلافی بھی کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی گردن ایک ایسے گناہ میں بھی پھنسالیں جس کی تلافی ناممکن اور جس کی معافی بہت مشکل ہے۔

بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ لاکھوں ووٹوں کے مقابلے میں ایک شخص کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر وہ غلط استعمال بھی ہو جائے تو ملک و قوم کے مستقبل پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے؟

لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اول تو اگر ہر شخص ووٹ ڈالتے وقت یہی سوچنے لگے تو ظاہر ہے کہ پوری آبادی میں کوئی ایک ووٹ بھی صحیح استعمال نہیں ہو سکے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ووٹوں کی کمی کا جو نظام ہمارے یہاں رائج ہے اس میں صرف ایک ان پڑھ جاہل شخص کا ووٹ بھی ملک و ملت کے لئے فیصلہ کرن ہو سکتا ہے، اگر

ایک بے دین، بد عقیدہ اور بد کروار امیو ار کے بیٹ بکس میں صرف ایک ووٹ
دو سروں سے زیادہ چلا جائے تو وہ کامیاب ہو کر پوری قوم پر مسلط ہو جائے گا۔ اس
طرح بعض اوقات صرف ایک جاہل اور ان پڑھ انسان کی معمولی سی غفلت، بھول
چوک یا بد دیانتی بھی پورے ملک کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس لئے مژووجہ نظام میں ایک ایک
ووٹ قیمتی ہے اور یہ ہر فرد کا شرعی، اخلاقی، قوی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ
کو اتنی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعمال کرے جس کا وہ فی الواقع مستحق ہے۔

انتخابی مہم کے دس منکرات

انتخابات کا ہنگامہ ہمارے معاشرے میں بے شمار گناہوں اور بد عنوانیوں کا ایسا طوفان لے کر آتا ہے جس کی ظلمت پورے ماحول پر چھا جاتی ہے، اور اس میں شریعت، اخلاق، شرافت اور حِرَوت کی بنیادوں پر اتنی متواتر ضریبیں لگتی ہیں کہ پورا ملک روزگرہ جاتا ہے۔ ان گناہوں اور بد عنوانیوں کا انتہائی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دلوں سے ان گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس بھی متاثرا جا رہا ہے اور اقتدار طلبی کی اس اندھی دوڑ میں سب کچھ شیرماڑ بن کر رہ گیا ہے، اور چونکہ معاشرے میں ان برائیوں کا چلن کسی روک نوک کے بغیر اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب کوئی ان برائیوں کے خلاف بولتا بھی نہیں، اس لئے ایسے حضرات کو بھی ان کے بُرا یا گناہ ہونے کا خیال ہی نہیں آتا، جن کی نیت جان بوجہ کر بُرا تی کرنے کی نہیں ہوتی۔ لہذا آج کی محفل میں ایسی چند برائیوں کا ذکر اس جذبے سے کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ان سے فتح کسکے وہ فتح جائے اور دوسرے حضرات کے دل میں کم از کم ان کے گناہ اور بُرا تی ہونے کا احساس پیدا ہو جائے۔

① انتخابات کے تعلق سے جو گناہ اور منکرات ہمارے ماحول میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کی بنیادی ہر ڈ تو اقتدار کی ہوں اور کسی منصب تک پہنچنے کی حرمت ہے۔ جس کا جواز ملاش کرنے کے لئے بعض اوقات ملک و ملت کی خیرخواہی کی مخصوص تاویل کری جاتی ہے۔ حالانکہ حکومت و اقتدار کے بارے میں قرآن و سنت کی ہدایات یہ ہیں کہ وہ کوئی پھولوں کی تیج نہیں ہے جس کی طرف لپکنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی جائے، بلکہ یہ دنیا و آخرت کی ذمہ داری کا وہ جُوا ہے جسے

گردن پر رکھنے سے پہلے انسان کو لرزنا ضرور چاہئے، اور شدید مجبوری کے بغیر اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالنا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لئے نامزد کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے ایک جواب یہ بھی دیا کہ :

”ذمہ داری کا طوق خطاب کے خاندان میں بن ایک ہی شخص (یعنی خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ) کے گلے میں پڑ گیا تو کافی ہے، میں اپنے بیٹے کے گلے کو اس سے گرانیبار کرنا نہیں چاہتا۔

اگر کسی شخص کے دل میں واقعہ اس گرانیبار ذمہ داری کا کماحدہ احساس ہو تو یہ شک اس کا جائز ذرائع سے اقتدار تک پہنچا ملک و ملت کی خیر خواہی کے جذبے سے ہوتا ہے جو اس کی ادا ادا سے جھلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کبھی وہ خرابیاں بد عنوانیاں اور گناہ وجود میں نہیں آتے جن کے زہریلے اثرات سے آج کی سیاسی فضایاں مسوم ہے۔

لیکن جب اقتدار کو ایک منفعت، ایک لذت اور ایک مادی مفاد سمجھ لیا جائے اور اسے حاصل کرنے کے لئے تن من دھن کی ساری طاقتیں لٹائی جانے لگیں تو یہ اقتدار کی وہ حرص ہے، جس کے بطن سے خیر و فلاح برآمد نہیں ہو سکتی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ گناہوں، بُرا یوں، خود غرضیوں اور بد عنوانیوں کو جنم دے کر معاشرے میں شر اور فساد کو پھیلاتا ہے۔

② اسی شروفیاد کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہماری انتخابی مہمات میں ایک دوسرے پر الزام تراشی اور بہتان طرازی کو شیر مادر سمجھ لیا گیا ہے۔ اپنے مقابل کو چوت کر کے اپنی قسم کا ہاتھ بلند کرنے کے لئے اُس پر بلا تحقیق ہر قسم کا الزام عائد کرنا طالب طیب قرار پاچکا ہے، بلکہ یہ اس سیاسی جگ کا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر سیاسی فتح کو ناممکن سمجھا جاتا ہے۔

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی بُرا ہو، لیکن اس پر کوئی ایسا
الوام عائد کرنا ہرگز جائز نہیں ہے جس کی سچائی کی مکمل تحقیق نہ ہو چکی ہو۔ لیکن
انتخابی جلوسوں کی شاید ہی کوئی تقریر اس قسم کے بلا تحقیق الزامات سے خالی ہوتی ہو جو
بہتان کے گناہ کبیرہ میں داخل ہیں۔ پھر بعض اوقات اس بہتان طرازی کے لئے
اتنی گھنیا اور بازاری زبان استعمال کی جاتی ہے کہ وہ دشام طرازی کا گناہ بھی سیٹ
لیتی ہے۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی جان، مال
اور آبو کو کعبۃ اللہ سے زیادہ مقدس قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان
کی جان، مال یا آبو پر ناروا حملہ کرنا (معاذ اللہ) کعبے کو ڈھانے سے بھی زیادہ سختی
گناہ ہے، لیکن انتخابی ہم کے جوش میں مِ مقابل کا کعبہ آبو گلی گلی میں ڈھایا جاتا
ہے، اور اخباروں کے صفحات سے لے کر انتخابی جلوسوں اور کار زیشنگز تک کوئی جگہ
ایسی نہیں ہے جو بہتان تراشی اور دشام طرازی کی غونت سے بدلا دار نہ ہو۔

(۳) پھر چونکہ انتخابات کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ کسی امیدوار کے بارے میں
حقائق مظہر عام پر لانے کی واقعی ضرورت بھی ہوتی ہے، تاکہ عوام کو دھوکے اور
نقصان سے بچایا جاسکے، اس لئے کسی امیدوار کے حقیقی اوصاف بیان کرنے کی توجیہ
کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس کے لئے اول تو یہ ضروری ہے کہ کوئی بات ضروری تحقیق
کے بغیر نہ کسی جائے، اور دیانت داری اور انصاف سے ہر حال میں کام لیا جائے،
دوسرے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ ناگوار فلپٹہ صرف بقدر ضرورت ہی انجام دیا
جائے، اسے محض مزے لینے اور مجلس آرائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے ورنہ اگر وہ بہتان
نہ ہو، تب بھی غیبت کے اس گناہِ عظیم میں داخل ہے جسے قرآن کریم نے مردہ بھائی کا
گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کسی شخص نے تجاج بن
یوسف کی بُرائیاں بیان کرنی شروع کر دیں۔ تجاج کا ظلم و ستم لوگوں میں مشہور تھا، لیکن

چونکہ اس مقام پر بُراٰی کرنے کا کوئی صحیح مقصد یا فائدہ نہیں تھا، اس لئے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ :

”یہ غیبت ہے، اور اگر محتاج نے بہت سے لوگوں پر ظلم کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہر شخص کے لئے اس کی غیبت حلال ہو گئی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر محتاج سے بے گناہوں کے خون کا حساب لے گا تو اس کی ناروا غیبت کا بھی حساب لے گا۔“

(۳) دوسری کی بُراٰی اور ان پر الرام تراشی کے علاوہ انتخابات میں کامیابی کے لئے یہ بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ منہ بھر بھر کر خود اپنی تعریف اور اپنی خدمات کا مبالغہ آمیز تذکرہ کیا جائے۔ یاد رکھئے : خود سنائی، نام و نمود اور دکھاوے کو مدد ہب و اخلاق کے ہر نظام میں گناہ یا کم از کم بُرا ضرور سمجھا گیا ہے، لیکن ہماری انتخابی سیاست کے مذہب میں یہ عمل کسی قید و شرط کا پابند نہیں رہا۔

(۴) عوام کو ووٹ دینے پر ماکل، کرنے کے لئے یہ بھی لازمی سمجھ لیا گیا ہے کہ ان سے سوچ سمجھے بغیر خوشنما وعدے کئے جائیں۔ وعدہ کرتے وقت اس بات سے بجٹ نہیں ہوتی کہ ان کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہو گا؟ اور اقتدار حاصل ہونے کے بعد وہ کس طرح رو بعل لائے جائیں گے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وعدوں کے نیلام میں کس طرح دوسروں سے بڑھ چڑھ کر بولی لگائی جائے؟ ہم بر سر اقتدار اگر غبیبوں کی قسمت بدل دیں گے، ہم پسمندہ علاقوں کو پیرس کا نمونہ بنادیں گے، ہم بر ضلع میں ایک ہائی کورٹ قائم کر دیں گے، ہم غربت اور جہالت کا خاتمه کر دیں گے؟ اس قسم کے بلند و بالگ دعوے اخباری بیانات سے لیکر تقریروں تک ہر جگہ سنائی دیتے ہیں، اور ان جھوٹے وعدوں اور دعووں کے ذریعے سادہ لوح عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

۶ جلے جلوس اور اشتہار بھی انتخابی سرگرمیوں کا ایک لازمی حصہ ہیں، اگر یہ جلے جلوس اخلاق و شرافت کی حدود میں ہوں تو ناجائز بھی نہیں، لیکن جلوس جلوسوں میں غنڈہ گردی روزمرہ کا معمول بن چکی ہے جس کے نزدیک سیاسی حریقوں کی جان، مال اور آباد کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ چنانچہ جس کا داؤ چل جائے وہ دوسروں کو زک پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑتا۔

۷ پھر بعض اوقات انتخابی جلے جلوس ایسے عام اور مصروف راستوں پر منعقد کئے جاتے ہیں جن کی وجہ سے شہر کی آبادی کے لئے نقل و حرکت محال ہو جاتی ہے، اور ٹریفک کا ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جو بے گناہ شہریوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، نہ جانے کتنے ضعیف اور بیمار لوگ اس قسم کی بد نظری کی وجہ سے اپنے علاج سے محروم رہ جاتے ہیں، کتنے ضمورت مند اپنے روزگار تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس طرح عام گزر گاہوں کو بلاک کر کے نہ جانے کتنے انسانوں کو ناقابل برداشت تکلیف پہنچانے کا گناہِ عظیم اس قسم کے جلوس جلوسوں کے حصے میں آتا ہے۔

۸ دیواروں کو انتخابی نعروں سے سیاہ کرنا اور بھی اور سرکاری عمارتوں پر اشتہارات چسپاں کرنا بھی انتخابی ہم کا جزء لا ایفک ہے جس کے نتیجے میں شرکی بیشتر عمارتیں متفاہ نعروں اور اشتہارات سے داندار نظر آتی ہیں، اور کسی اللہ کے بندے کو یہ خیال نہیں آتا کہ کسی دوسرے کی عمارت کو اس کی مرضی کے بغیر استعمال کر کے اس کا خلیہ بگاڑنا در حقیقت چوری اور غصب کے مُtradف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

”کہ کسی دوسرے کی ملکیت کو اس کی خوشی کے بغیر استعمال کرنا حلال نہیں۔“

umarتیں اور دیواریں کسی نہ کسی کی ملکیت ہوتی ہیں، اور ان کو اپنے اشتہار کے لئے استعمال کرنا مالک کی اجازت کے بغیر حرام ہے، چہ جائیکہ ان کو

خراب اور بد نہ بنا بانا۔ لیکن غربت اور جہالت کے خاتمے کے دعویدار بے تکان اس چوری اور غصب کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اگر کوئی شریف انسان اس عمل سے روکنے کی کوشش کرے تو اسے پھروں اور فائرنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

(۹) ووٹوں کی خرید و فروخت اور اس غرض کے لئے لوگوں کو رشتہ دینا، اور جن لوگوں کے قبضے میں بہت سے ووٹ ہوں، ان کے ناجائز کام کرا دینا یا اس کا وعدہ کر لیتا ایک مستقل جرم ہے، جو خدا اور آخرت سے بے فکر امیدواروں میں بہ کثرت رائج ہے اور اس نے معاشرے کو اخلاقی بیانی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے۔

(۱۰) ظاہر ہے کہ ساری انتخابی ہمچلانے کے لئے ہر جماعت کو کروڑوں روپیہ درکار ہوتا ہے۔ اس کروڑوں روپے کے سرمائے کے حصول کے لئے جو طریقے اختیار کئے جاتے ہیں، ان میں غیر ملکی طاقتلوں سے گھٹ جوڑ اور ان کی دی ہوئی لائنس پر کام کرنا ایک ایسی بیماری ہے جو ملک کو دیک کی طرح چاٹ رہی ہے، اور جو لوگ باہر سے سرمایہ حاصل نہیں کرتے، یا نہیں کرپاتے، وہ اپنے ہی ملک کے بڑے بڑے دولت مند افراد سے اپنی جماعتوں کے لئے چندے وصول کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات یہ چندہ درحقیقت اس بات کی رشتہ ہوتا ہے کہ بر سر اقتدار آنے کے بعد چندہ دینے والوں کو خصوصی مُرعاحت دی جائیں گے۔ اور اگر وہ دینے سے انکار کریں تو انہیں طرح طرح سے نگک یا جاتا ہے۔ جو جماعت جتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور اس کے اقتدار میں آنے کے جتنے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اس کی چندے کی اپیل اتنی ہی زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔

یہ دس موٹے موٹے گناہ محض مثال کے طور پر ذکر کئے گئے ہیں، لیکن اگر آپ باریک بینی سے غور فرمائیں تو نظر آئے گا کہ ان میں سے ہر گناہ بذاتِ خود بست سے گناہوں کا مجموعہ ہے، اور انتخابی ہمچلانے کے دوران اسی قسم کے نہ جانے کتنے گناہوں

کا ارتکاب دھڑلے سے ہوتا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ جن حکومتوں کی بنیاد میں جھوٹ، الزام تراشی، بہتان، نیجت، خود سنائی، جھوٹے وعدوں، دوسروں کے ساتھ غنڈہ گردی، تخلوقِ خدا کی ایذا رسانی، دوسروں کی املاک پر ناجائز تصرف جیسے عظیم گناہ داخل ہوں، ان سے ملک و ملت کو سُکھے چین کس طرح نصیب ہو؟ اور جس ماحول میں ان گناہوں کی ظلمت چھائی ہوئی ہو، وہاں سے خیروفلاح کی روشنی نمودار ہونے کی کیا توقع رکھی جائے؟

لیکن ان گذارشات کا مقصد مخفی تقدیر رائے تقدید نہیں، نہ اس کا نشاعر یہ ہے کہ لوگوں میں مايوسی پھیلائی جائے بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنی بیماریوں سے آگاہ تو ہوں، اور ان میں سے جس کسی بیماری کا سدی باب اپنی قدرت میں ہواں سے دربغ نہ کریں، اور کم از کم عام مسلمان اُن گناہوں سے محفوظ رہنے کا اہتمام کریں جن میں وہ بعض اوقات نادانستہ طور پر بتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ اس ہنگامہ خیز طوفان میں ایک تھا شخص خود کسی بُرائی سے رُک جائے تو اس سے معاشرے پر مجموعی طور سے کیا اثر پڑے گا؟ یا اور کہے کہ معاشرے سے گندگی جس چھوٹی سے چھوٹی مقدار میں بھی کم ہو، نیجت ہے، کیونکہ معاشرہ درحقیقت افراد ہی کے مجموعے سے عبارت ہے، یہاں چراغ سے چراغ جلتا ہے لہذا بعض اوقات کسی ایک شخص کا عزم و ہمت بھی معاشرے کی تبدیلی میں فیصلہ کُن کردار ادا کر سکتا ہے۔ ع

ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارا

وَمَا عَلِمْنَا إِلَّا أَنْبَلَغَ



قانون میعاد سماعت کی شرعی حیثیت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ

ضبط و ترتیب
محمد عبد اللہ نیمن

میمن اسلامک پبلشرز

عرض ناشر

۱۹۷۷ء میں ایک صاحب نے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم سے ایک خط کے ذریعہ یہ سوال کیا کہ کیا پاکستان میں جو قانون "قانون نیعاد سماعت" کے نام سے جاری ہے وہ آیا شرعی قانون ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں حضرت مولانا مدظلہم نے ایک تفصیلی خط تحریر فرمایا۔ جو پیش خدمت ہے۔

میمن اسلامک پبلیشورز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قانونِ میعاد و ساعت کی شرعی حیثیت

جناب محترم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

از را و کرم را ہنسائی فرمائیں کہ دنیا کے بعض جدید ترقی یافتہ ممالک میں کیا ہے اور کیا وہ سرا بر غیر اسلامی اصول ہیں؟ اگر یہ اصول و قوانین غیر اسلامی ہیں تو دیوانی و فوجداری مسائل و امور میں چارہ جوئی کی میعاد و نافذ ہیں ان کی تاریخ خرابیاں پیدا کرتا ہے اس کا نتارک کیونکر کیا جا سکتا ہے، خصوصاً اگر اس عدم تعین کو کائنٹ کے (CATEGOMCAL IMPERATIVE) کی حیثیت دی جائے تو جائز و غیر منقولہ کے برسوں پرانے معاملات متاثر ہوتے ہیں۔ اور اگر اصول و قوانین غیر اسلامی نہیں تو ان کے اسلامی ہونے کا کیا جواز ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں شفعت کو چھوڑ کر اس نوعیت کے قوانین کبھی نافذ نہیں رہے؟ اگر عنقریب قوی اتحاد بر سرا قدر آجائے تو پورا کا پورا اسلام کیونکر نافذ

ہو گا اور (LIMITATION ACT) کو کس طرح مشرف بہ اسلام کیا جائے گا۔ یا پھر اسے کس بنا پر ایک کلمہ گو قانون کی حیثیت حاصل ہو گی؟ مفصل جواب سے بلا تاخیر سرفراز فرمائیں۔

واللہم

جعفر قاسمی
 محلہ ریختی چنیوٹ
 ۱۹۷۸ء، ۲۲ نومبر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مذکور

کا جواب

محترم و مکری! السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

خدا کرے کہ مزاج گرامی بہتر ہوں۔ آئین

گرامی نامہ باعثِ سرست و افتخار ہوا۔ آپ کے سوال کے بارے میں عرض

یہ ہے کہ ”قانون میعاد ساعت (LIMITATION ACT)“ سراسر غیر اسلامی قانون نہیں ہے اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اسلام کی تاریخ میں شفعت کو چھوڑ کر اس نوعیت کے قوانین کبھی نافذ نہیں رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی عدالتیں بھی میعاد ساعت کا لحاظ کرتی رہی ہیں خاص طور سے ترکی خلافت کے دور میں عالم اسلام کے تمام قاضی خلیفہ وقت کی مقرر کردہ میعاد ساعت پر عمل کرتے رہے۔ اور فقیہاء اسلام نے ان کے اس عمل کی نہ صرف توثیق و تائید کی ہے بلکہ خلیفہ وقت کے منشور جاری ہونے کے بعد اس کو واجب العمل قرار دیا ہے۔ ”الاشباء والنظائر“ کے مشہور شارح علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے سلاطین نے تمام قانیوں کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ وہ وقف اور راثت کے سوا کوئی دعویٰ بناء و دعویٰ قائم ہونے کے پدرہ سال بعد قابل ساعت نہ سمجھیں۔ اور فتاویٰ حامد یہ میں (جس کی تتفقیح علامہ ابن عابدین

شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے) اس مسئلے پر چاروں مذاہب (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) کے فقہاء کے فتاویٰ نقل کئے ہیں جو اس بات پر یہ کہ سلطان کی طرف سے اس ممانعت کی اجراء کے بعد پندرہ سال بعد کوئی مقدمہ دائرہ کیا جائے۔ البتہ علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ خیریہ میں یہ تصریح فرمائی ہے کہ اس بارے میں ہر غلیظہ کی طرف سے از سرفون حکم جاری ہونا میعادِ ممانعت کی پابندی کے لئے ضروری ہے۔

انہتے مختلف زمانوں میں مختلف میعادیں مقرر کی گئی ہیں۔ فقه حنفی کی کتابوں میں بعض مقدمات کے لئے پندرہ سال، بعض کے لئے تینتیس سال اور بعض کے لئے چھتیس سال کی مدتیں مقرر کی گئی ہیں مثلاً در مختار میں ہے :

”القضاء مظہر لا مثبت ولا يختص بزمان ومكان
وخصوصه، حتى لو أمر السلطان بعد سماع الدعوى بعد
خمسة عشر سنة فسمعاها لم ينفذ، قلت: فلا تسمع الآن
بعد ها إلا بأمر“

اس کے تحت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر کافی مفصل بحث کی ہے اور اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ :

قال المتأخرُونَ مِنْ أَهْلِ الْفَتوَىِ : لَا تَسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدِ
سِتٍ وَّ ثَلَاثِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَدْعُى غَايَةً وَصِيَّا الحَلِّ“

بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مشـ الـ آمـ سـ رـ خـ رـ حـ مـ اللـ عـ لـ عـ کـ مـ بـ سـ وـ طـ سـ نـ قـ کـ یـ اـ ہـ کـ : مبسوط سے نقل کیا ہے کہ :

اَذَا تَرَكَ الدَّعْوَى ثَلَاثَةً وَّ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَّ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا مِنَ الدَّعْوَى

ثُمَّ اذْعُنِي لَا تسمع دعوة

(درخنار کاب القضا مطلب فی عدم سماع الدعوی بعد خمس عشرة
سنتاً - صفحه ۲۴۴ جلد ۴ مطبوعہ دیوبند)

عن اللئے سر خی رحمۃ اللہ علیہ خلافت عباییہ کے دور کے ہیں، جس سے واضح ہوا کہ میعادِ ساعت کا یہ تصور خلافت عباییہ میں بھی موجود تھا۔ افسوس ہے کہ میں اس وقت پاؤں کے ایک زخم کی وجہ سے صاحبِ فراش اور چلنے سے مغدور ہوں، اس لئے دوسری کتابوں کی مراجعت اس وقت ممکن نہیں، ورنہ اس پر شاید اور بھی قدیم حوالے دستیاب ہو جاتے۔ تاہم علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ تصریحات سے بھی اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ میعادِ ساعت کا تصور نہ صرف غیر اسلامی نہیں، بلکہ اسلامی عدالتیں ہر دوسری میں اس پر کسی نہ کسی خلل میں عمل پیرا رہی ہیں۔

البتہ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے اور شاید آپ کو بھی یہی شبہ ہوا ہو کہ مخف تا خیر کی بناء پر ایک صاحبِ حق کو حق سے محروم کرنے کا کیا جواز ہے؟ موجودہ قوانین میں اس سوال کا جواب نصفت (EQUITY) کے ان مقولوں کے ذریعہ دیا گیا ہے کہ :

"THE LOW AIDS THE DILIGENT
AND NOT THE INIDO LENT"

"قانون چوکس لوگوں کی مدد کرتا ہے، غالقوں کی نہیں"

"THERE SHOULD BEAN END
TO LITIGATION"

"عدالتی خاصتوں کی کوئی انتہاء ہونی چاہئے۔"

لیکن یہ مقولے موجودہ قوانین کے حق میں اس لئے پوری طرح اطمینان بخش نہیں ہوئے کہ وہاں دیانت اور قضاء کی کوئی تفریق کم از کم عمل نہیں ہے بلکہ جو حق عدالت سے مسترد ہو گیا عملہ وہ حق ہی نہیں رہا۔ اس کے بجائے اسلامی فقہ میں دیانت اور قضاء کے احکام ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لذا اگر عدالت نے کسی حق کا تصفیہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حق نہیں رہا، بلکہ وہ حق موجود ہے، اور جس کے ذمے حق ہے اس پر دیانتی فرض ہے کہ وہ اُسے صاحب حق تک پہنچائے، خواہ کتنا زمانہ بیت چکا ہو، اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو عدالت خواہ اُسے کچھ نہ کرے، لیکن وہ گہنگا رہو گا۔ اسی لئے فقهاء کا یہ مقولہ "الاشباء والنظائر" وغیرہ میں درج ہے کہ "الحق لا يسقط بقادم الزمان" یعنی حق زمانہ گذر جانے کی بناء پر ساقط نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ میعاد ساعت گذر جانے کے باوجود وہ حق موجود ہے۔ جس کا ایک اثر تو اخربوی ہے کہ اس حق کو تلف کرنے والا گہنگا رہو گا۔ دوسرا اثر دنیوی ہے کہ جس شخص کو بھی اس حق تلفی کا یقینی علم ہو گا وہ اس پر فاسق کے احکام جاری کرے گا جس سے اس کے ساتھ اس کے سارے معاملات متاثر ہوں گے۔ تیرا اثر یہ ہے کہ اگرچہ عدالت اس مسئلے کو سننے سے انکار کر چکی، لیکن اگر خلیفہ کے پاس اپل پہنچ اور وہ محسوس کرے کہ مقدمہ جاندار ہے اور اس میں چال بازی بظاہر نہیں ہے۔ تو فقهاء نے لکھا ہے کہ وہ اُسے کسی قاضی کے پاس بھیج سکتا ہے، اس صورت میں قاضی اس کی ساعت کرے گا۔

(شای صفحہ ۳۲۳ جلد ۲)

نیز ایسی صورت میں صاحب حق قاضی کو ثالث بناؤ کر بھی فیصلہ کر سکتا

ہے۔

لے عمل اس لئے کہا کہ اصولی طور پر موجودہ قوانین میں بھی یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ "میعاد ساعت" سے چارہ جوی (REMEDY) ختم ہو جاتی ہے حق (RIGHT) ختم نہیں ہوتا۔

اس سے صاف واضح ہے کہ صرف زبانی طور پر نہیں، بلکہ عملاً بھی میعادِ ساعت سے حق ساقط نہیں ہوتا۔ البتہ میعادِ ساعت مقرر کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدت دراز گذرنے کے بعد بھی اگر حق ساعت باقی رکھا جائے تو اس سے ایک طرف تو مقدمات میں مکرو فریب اور جھوٹی گواہیوں کا امکان بڑھ جائے گا کیونکہ مدت دراز گذرنے کے بعد واقعے کے عینی گواہ ملنے مشکل ہوتے ہیں، اور مل بھی جائیں تو واقعے کی پوری تفصیلات ذہن میں رہتیں۔ اس لئے اس قسم کے مقدمات عدمتوں میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہو گا کہ مقدمات میں غیر ضروری تعویق ہو اور لا نیخل سائل کھڑے ہو جائیں۔ میعادِ ساعت کی یہی حکمت ہمارے فہماء نے بھی بیان فرمائی ہے۔

خلاصہ یہ کہ قانونِ میعادِ ساعت کو سراسر غیر اسلامی قرار دینا درست نہیں۔ بلکہ اسلامی فقہ میں اسکی بنیاد موجود ہے اور جب کبھی شریعت کی بنیاد پر موجودہ قوانین کی تدوین نوکی جائے گی تو اس قانون کو بالکل یہ مسترد یا منسوخ نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اس پر نہ کوہ فہمی بنیادوں پر نظر ثانی کی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون میں اتنی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگی جتنی دوسرے بست سے قوانین میں ضرورت پیش آئے گی۔

والسلام

احقر محمد تقی عثمانی

۱۴۰۷ھ ابرار رمضان المبارک

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَخْرُجُكُمْ مِّنْ دُولَتِكُمْ وَأَنْهَاكُمْ
وَأَذْوَقُكُمُ الْمُؤْمِنَةَ وَمِنْ حَمْلِكُمْ

کوئے کی حلت پر تحقیق

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ



ضبط و ترتیب

محمد عبداللہ سعیدین

میمن اسلامک پبلشرز

عرض ناشر

آج سے تقریباً ۳۲ سال پہلے ۱۹۶۰ء میں شکار پور سندھ کے بعض علماء نے کوئے کی حرمت پر ایک فتویٰ دیا۔ جو جمہور علماء کے مسلک کے خلاف تھا۔ اس لئے ایک صاحب نے اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب مدظلہم العالی کو ایک استفقاء بھیجا، اور اس کے ساتھ ان علماء کا جواب بھی ارسال کیا۔ حضرت مفتی صاحب مدظلہم نے وہ سوال و جواب حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے سپرد کیا۔ حضرت مولانا مدظلہم نے اس کا تحقیقی جواب تحریر فرمایا جو پیش خدمت ہے۔ شکار پور سندھ کے علماء کا جواب فارسی میں ہے۔

میمن اسلامک پبلشرز

کوئے کی حلت پر تحقیق

کس:

شکر پور سندھ کے علماء نے کوئے کی حرمت پر ایک تحریر لکھی ہے جو اسال خدمت ہے، یہ تحریر چونکہ جمورو علماء کے ملک کے خلاف ہے اس لئے اس سے متعلق بوجلت ممکنہ تحقیق فرمائکر منون فرمائیں۔ اس تحریر کے سوال و جواب حسب ذیل ہیں۔

(س) غراب مکنی حلال است یا حرام، بینوا توجروا۔
 رج: غراب مکنی حرام است از جمله فواسق و موزیات است در
 حدیث شرف فی الموطا امام مالک" عن نافع عن عبدالله ابن
 عمران رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال خمس من الدواب ليس على
 المحرم فی قتلہن جناح الغراب و الحدأة و العقرب و الفارة و
 الكلب العقور دور حاشیہ مصنف علی الموطا قال البغوي
 اتفق اهل العلم علی انه یجوز للمحرم قتل هذه الاعیان ولا شئی علیه
 فی قتلها فی الاحرام و العرم لأن الحديث یشتمل علی اعیان
 بعضها سباع و بعضها ہوم و بعضها لا يدخل فی معنی
 السباع ولا هي من جمله المحرام واما ہوس حیوان مستحبث اللحم و
 تحريم الاكل يجمع الكل و قالت العنبفية لا جزاء بقتل ماورد فی
 الحديث وقادوا علیه الذنب و قالوا فی غير هامن الفهد والنمر و
 الخنزير و جميع مالا یوکل لحمدہ علیهالجزء بقتلها الا ان یبتدیه
 شئی فیدفعه عن نفسه فیقتله فلاشی علیه و فی البحر معنی الفنسق
 فیہن خبیثن دکثرة الغرف فیہن درہدایہ می آردو

والمراد الغراب الذى يأكل الجيف ويخلط لانه يتدى بالاذى وفى بعض النسخ او يخلط كما نقل عبارتها فى البحر اد بخلط الحب بالنجس معناه يأكل الحب تارة والنجس تارة كذا فى الحاشية للسيد الشامى على البحر قل عن النهر عن البدائع - قال ابو يوسف الغراب المذكور فى الحديث الذى يأكل الجيف او يخلط لان هذا النوع هو الذى يتدى بالاذى در مكين شرح كنز تحت قول ولائى بقتل الغراب مى آرد والمراد به الا بقى الذى يأكل الجيف و يخلط النجس مع الطاير فى التناول ودر حاشية علامه البى السعودى نوبسى الواو بمعنى او اذلا حاجة بضم الخلط الى اكلها (اي اكل ما خاله) كما ذكره الجموى انتهى -

وقتاء كرام دو نوع غراب را از غراب که در حدیث شرف مذکور است استثنى ساخته اند، یکي غراب الزرع و دیگر عقعق کمانی عامته الکتب بقتل ایس هردو نوع بر محروم جزا واجب است - در دالمحتاز در تعریف غراب الزرع می فویسد و هو الذى يلقط الحب دلا يأكل الجيف دلا یایی في القرى والا مصار - در تعریف عقعق می آرد ہو طائر نحو العجمة طویل الذنب فيه بیاض و سواد و ہونوع من الغربان یتشام به و یععق بصوت یشبه العین و القاف پس ایس هر دونفع حلال اند وازیں جا است که فتقاء كرام در کتاب ما یجعل اكله وما لا یجعل همین دو نوع غراب راحلال نوش اند در تنویر الابصاری نو یسد و حل غراب الزرع الذى يأكل الحب والارنب و الععق و هو غراب یجمع بين اكل جيف و حب ولا شك ان غراب

ديارنا غير العقعق وغير غراب الزراع فيكون داخل في الغراب
 المذكور في الحديث فيكون فاسقاد حراما كسائر نظائره و
 آنچه بعض فضلاء ايس غراب ملکي را حلال دانسته و مسک
 گرفت آنچه بعبارات فضلاء دانع شده نوع يا كل الحب
 مرة والآخر جيفة غير مكرره عند الامام الاعظم فانه يتوجهون منه في بادي
 الرأي ان الغراب المعروف في ديارنا غير مكرره عند الامام لأنه يخلط
 بين الحب والنجاستة فقول ان الفقهاء الكرام حصر واخذ النوع في
 العقعق قال في العناية شرح الهدایة اما الغراب الا بقع والا سود
 انواع ثلاثة نوع يلتقط الحب ولا يا كل الجيف وليس بمكرر
 نوع لا يأكل الا الجيف وانه مكرر ونوع يخلط باكل الحب مرة بـ
 الجيف اخرى وهو غير مكرر عند الامام ومكرر عند ابي يوسف وفي
 الحاشية السعدية للحلبي اقول قال الزيلعي نوع يختلط
 بينها وهو بكل عندا ابي حنيفة رح وهو العقعق كما في المتن وسيان
 وفي حاشية شرح الوقاية نوع يجمع بين الحب والجيف وهو
 جلال عندا ابي حنيفة وهو العقعق الذي يقال له بالفارسية عكه
 وفي تكملة البحر للعلامة الطرطوسى في شرح قوله الا بقع والغراب
 ثلاثة انواع الى قوله نوع يخلط بينهما وهو ايضا يوكل
 عند الامام ويسو العقعق پس ظاهر شد که ايس نوع که جامع است
 در میان حب وجيفة وآل نزد امام حلال است منحصر است در عقعق او موزی
 نیست و آنچه در هر یاری و شرح مسکین آورده و يخلط مراد از اس آل
 است که او موزی باشد و آس حرام است پس غراب که جامع باشد در میان حب
 وجيفة دو صنف است که صنف که او موزی نیست و آس حال است منحصر
 است در عقعق و صنف دیگر او موزی است حرام است

در تيسير القارى شرح صحیح البخاری می آرد فاصل بودن غراب از انت
که پشت مجروح دواب را و چشم شتر را می کند انت همی بزبان سندھی مشهور است که کا
نو کر کی گذه کنسی یعنی وقتیکه غراب آواز دهد حیوانے که ریش دارد می لرزد در
صداق آں در دیار ماہیں غراب معروف است چنانچه در اوصاف ذمیس او ظاهر
است و در رد المحتار می آید تحت قوله دلاشی لقتل غراب
الا العقعق لان الغراب دانما تقع على دبر الدابة كما في خاتمة البيان
از ایں عبارات واضح گردید که ایں غراب که در دیار ما است موزی است ریش دار
را می کند و در بردا به می افتد و چشم شتر را می کند حرام است و عقعق غیر آنست
— عقعق را در سندھی متاه گویند — واللہ اعلم بالصواب —

المحرر فقیر عبدالحکیم

صدر مدرس مدرسه اشرفیہ شکار پور

اسماء گرامی مصدقین باللفاظ المذکورة فی الاصل - محمد فضل اللہ مستسم
 مدرس اشرف شکار پور - عبد القادر ثانی مدرس - الفقیر عبدالفتاح - مولوی
 عبدالحق - مولوی غلام مصطفیٰ - مولوی عبد المالک - مولوی تاج محمد - مولوی
 مظفر دین سورو - مولوی عزیز اللہ - الفقیر محمد عظیم - عبدالحی جتوئی -
 عبدالکریم چشتی - محمد عارف چشمی - امید علی جیکب آباد - محمد اسماعیل
 عودوی ثم الشکار فوری - انا عبد العزیز الباندی - العبد عبدالغنی - حامد اللہ بلوچستانی
 اجسیری - عطاء اللہ انقلابی - مولوی مظہر الدین مدرسہ ہاشمیہ عبد العزیز جتوئی -

العبارات والروايات المزيدة

(عامگیری اردو صفحہ ۳۲۰) جو پرندے نجس و مردار خوار
 ہیں جیسے رسی کوا، اس کو طبیعت پاکیزہ پلیدو خبیث جانتی ہے۔
 انتہی - عن ہشام عن عروة عن ابی انه سئل عن اكل
 الغراب فقال ومن يأكله بعد ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فاسقاً يرید بـ العدیث المعروف خمس فواسق يقتلن في العمل
 والحرم -

وَفِي الْمُوَعْدَ الْأَبْقَعِ هُوَ الَّذِي فِي صَدْرِهِ بِيَاضٍ - قَالَ فِي
 الْمُحْكَمِ غَرَابٌ أَبْقَعٌ يَخْالِطُ فِيهِ سَوَادٌ وَبِيَاضٌ وَهُوَ خَبِيثٌ
 رُوَالْمُحْتَارِ إِذْ عَنَاهُ تَلَقَّ كَرْدَهُ نُوعٌ لَا يَا كُلُّ أَلَا عَجِيفٌ وَهُوَ الَّذِي
 سَمَاهُ الْمُصْنَفُ الْأَبْقَعُ وَانْهُ مُكْرُوهٌ الْخَ حَقِيقَتُهُمْ إِنْ اسْتَكْرِهَ
 يُكَلُّ غَرَابٌ أَبْقَعٌ سَوَائِيْ جِيفٌ فِي خُورٍ وَمَرَادٌ عَنَاهُمْ نُوعٌ اسْتَكْرِهَ حَدِيثُ ازْ
 غَرَابٌ أَبْقَعٌ هَالٌ مَرَادٌ اسْتَكْرِهَ كَهْرَدٌ خَلَطَهُ كَنْدَ كَمَافٌ تَبَيَّنَ الْحَقَائقُ وَالْمَرَادُ بِالْأَبْقَعِ
 مَا يَا كَلُّ عَجِيفٍ دِيَخْلُطُ كَذَافِ الْهَدَايَهَ -

جواب از حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم

الجواب :- اقول وبا لله استعين۔ فاضل مجیب نے ملکی کوے کے حرام ہونے پر جو استدلال کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ فقہاء نے کوے کی جو ایک یہ قسم بیان فرمائی ہے کہ وہ نجاست وغیرہ میں خلط کرتا ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔

(۱) عقعق، جو موزی نہیں (۲) وہ کو اجو خلط کرتا ہے اور موزی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم تو حلال ہے لیکن دوسری قسم حرام ہے اور چونکہ ملکی کو ادوسری قسم میں داخل ہے اس لئے وہ حرام ہو گا۔ موزی ہونے یا نہ ہونے کی تفصیل پر انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ جس جگہ فقہاء کرام یہ تحریر فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں کوئے کا قتل کرنا جائز ہے اور اس پر کوئی جزا نہیں، اس کے تحت اس کوے کو ابعاع اور اس قسم کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں جو نجاست اور زرع میں خلط کرنے کا عادی ہو اور اس کے بعد عقعق کو اس سے مستثنی کر لیتے ہیں۔ ان کے اس فعل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلط کرنے والے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو موزی ہے، اس کو قتل کرنے سے جزا واجب نہیں۔ دوسری قسم: عقعق کو وہ بھی خلط کرتا ہے۔ مگر چونکہ موزی نہیں اس لئے اس کے قتل پر جزا واجب ہے۔

موزی کوے کے حرام ہونے پر فاضل مجیب نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے مسوی میں لکھا ہے کہ جن پانچ چیزوں کو حدیث میں عام حکم سے مستثنی کر کے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے قتل سے کوئی حرج نہیں، وہ سب کی سب حرام ہیں، ان کا کھانا جائز ہے۔ اور جب فقہاء کی عبارتوں سے یہ معلوم ہو چکا کہ ان چیزوں میں وہ موزی کو ابھی داخل ہے جو خلط کرتا ہو تو مسوی کی اس عبارت سے اس کوے کا حرام ہونا بھی معلوم ہو گیا۔

خلاصہ کے طور پر استدلال ان مقدمات پر موقوف ہے۔

(۱) خلط کرنے والے کی دو قسمیں ہیں۔ موزی اور عقعق جو موزی نہیں۔

(۲) موزی کوے کو قتل کرنے سے محروم پڑا واجب نہیں اور غیر موزی کے قتل پر جزا آتی ہے۔

(۳) مسوئی کی عبارت میں ہے کہ تمام "فواض خس" جن کے قتل سے محروم پڑا نہیں آتی وہ حرام ہیں۔

اس استدلال کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کا دارود مدارج و کوئی ان مقدمات پر ہے اس لئے ہم ان میں سے ہر ایک مقدمہ پر بحث کریں گے۔

پہلا مقدمہ

ان میں سے پہلا مقدمہ علی الاطلاق صحیح نہیں کیونکہ عقوق بھی کبھی ایذا پہنچاتا ہے۔

صاحب ہدایہ کے قول "المراد بالغраб الذى يا كل الجيف او يخلط لانه يبتدى بالاذى اما العقوق غير مستحب لا نه لا يسلى غرابا ولا يبتدى بالاذى الخ" کے تحت علامہ اکمل الدین بابری "لکھتے ہیں قیل فعلی هذا يكون في قوله في العقوق ولا يبتدى بالاذى لانه يقع على دبر الدابة انتظر (مایہ علی ہاشم اللخ بلد ۲ ص ۳۶۴)۔

اور مولانا عبدالحق صاحب " نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ انه دائماً يقع على دبر الدابة (ماشیہ ہدایہ ج ۱ ص ۳۷۱)۔

اسی طرح علامہ زین الدین بن نجم نے بھی ہدایہ کی اس عبارت پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے فيه نظر لانه دائماً يقع على دبر الدابة، كما في شایة البيان والجرالائق (ص ۳۶۲ ج ۳) اگرچہ علامہ شامی نے بحر کے حاشیہ پر اور روالمحترار میں صاحب بحر کے

اس اعتراض کو رد کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”اشارہ المراجع الی دفع ماقی غایۃ البیان بانہ لا یفعل ذلک غالباً“ لیکن اس سے بھی عقعق کے اصلاً موزی نہ ہونے کا ثبوت نہیں ملتا کیونکہ صاحب مراجع نے غالباً کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کبھی ایذا پہنچاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ خود علامہ شامی ”نے آگے چل کر لکھا ہے۔“ ثم رأيته في الظاهرية

قال وفي العقيق روایتان و الظاهر انه من الصيدود —
وبه ظهران ما فی الهدایة هو ظاهر الروایة (منح علی البحر ص ۳۶۲ ج ۳)۔ علامہ عثمانی ”نے بھی فتح الملہم میں ظہیریہ کا قول نقل کیا ہے (ص ۱۳۱ ج ۳) جس سے معلوم ہوا کہ ایک مرجوح روایت عقعق کے بارہ میں بھی یہ ہے کہ اس کے قتل سے حرم پر جرا نہیں، ظاہر ہے کہ اس روایت کی بنائی ہے کہ عقعق موزی ہوتا ہے، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک خس فاسق کے قتل پر جرا نہ ہونے کی علت مشترکہ ایذا ہے، جیسا کہ علامہ ابن رشد نے بدایۃ المجتهد ص ۴۷۰ ج ۱ میں نقل فرمایا ہے۔

(وسیابی نصہ) پس ثابت ہوا کہ عقعق بھی کسی درجہ میں موزی ہے۔ اگر آپ کے قول کی بناء پر موزی ”کوا“ حرام ہے تو عقعق بھی حرام ہونا چاہئے۔ (وذالک خلف)

بہرحال، مقدمہ اولیٰ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں بعض حضرات کی رائے مختلف ہے اور جو حضرات اسے موزی نہیں کہتے وہ بھی کبھی کبھی اس کی ایذا رسانی کے قائل ہیں۔

مقدمہ ثانیہ

یہ مقدمہ راجح قول کی بناء پر صحیح ہے، اگرچہ علامہ ابن نجیم ”اس

سلسلہ میں تمام لوگوں میں متفرد ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ
دا طلق فی الغراب فشل الغراب بانواعہ الثالثۃ مگر اس کو
صاحب نہ، علامہ حصکفی، "علامہ شاہی" اور مولانا عثمانی " نے رد
کیا ہے (شاہی م ۲۰۷ ج ۲، مولانا عثمانی م ۲۲۱ ج ۲)۔

تیرا مقدمہ

یہ مقدمہ ہرگز صحیح نہیں اور اس کی عدم صحت مسوئی کی اصل عبارت دیکھتے
ہی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ امر بہت افسوس ہاں اور حیرت انگیز ہے کہ فاضل مجیب نے
مسوئی کی عبارت نقل کرنے میں مجرمانہ قطع درید سے کام لیا ہے، جو علماء کی شان
سے از بس بعید اور بہت لکھنا و نا اقدام ہے۔ ہمارے ذہن نے اس فعل کی تادیل
ٹلاش کرنے میں بہت قلابازیاں کھائیں مگر کوئی راہ دکھائی نہ دی، ذرا مسوئی کی اصل
عبارت پر ایک نظر ڈال لی جائے۔

قال البعوی اتفق اهل العلم على انه يجوز
للمرحم قتل هذه الاعیان المذکورة في الخبر دلاشی عليه في
قتلها وقادس الشافعی رح عليها كل حیوان لا يوكل لرحمه فقال
لاغدیة على من قتلها في الاحرام والحرم لأن الحديث يشتمل
على اعیان بعضها سباع وبعضها هوم وبعضها لا يد خل في
معنى السباع ولا هي من جملة الهموم واما هو حیوان
مستحبث اللحم وتحريم الاكل يجمع الكل فاعتبروه و قال
الحنفیة حج لجزاء بقتل ماورد في الحديث وقا سوا عليه الذئب
وقالوا في غير هامن الفهد والنمر والنمر والنمر الخنزير وجميع مالا يوكل
لرحمه عليه العجزاء بقتلها الا ان يبتديه شيئاً فيد فده

عن نفسه الخ - (سوى مع مصنيفه مصطفى ص ۲۹۲ ج ۱)۔

خط کشیدہ جملے فاضل مجیب نے نقل نہیں فرمائے جس سے یہ تبادر ہوتا ہے کہ "تحریم الاکل بجمع الكل" کا حکم خنیہ نے دیا ہے۔ حالانکہ اصل عبارت دیکھنے سے ہر کس و ناکس سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ انام شافعی کے قیاس میں مطابق بیان ہو رہا ہے۔

ہم ذاتیات پر حملہ کرنے کے عادی نہیں مگر اننا عرض کرونا ضروری سمجھتے ہیں کہ یوں تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہر وقت اپنی عاقبت کو سامنے رکھے۔ لیکن فتویٰ جیسے نازک مقام پر یہ فرض زیادہ موکد ہو جاتا ہے۔

ایسی بزدلی کا مظاہرہ فتویٰ میں ایک اور جگہ بھی ہوا ہے کہ فاضل مجیب نے

حر کی عبارت کا ایک نکلا (و معنی الفتن فیہن خبیثہن و کثرة الغرر فیہن) نقل فرمایا اور اس سے کچھ آگے سے صاحب ہدایہ کا مذکورہ بالاًقل بھی، تاکہ صاحب بحاظہ ہرستو اعلوم ہوں۔ حالانکہ یہ اتنی مضمکہ خیز اور انہوں ناک حر کرت ہے کہ ناگفتہ بہ، کیونکہ خود صاحب بحر کے پورے کلام سے فاضل مجیب کے ایک مزعومہ کی تردید ہو رہی ہے۔ صاحب بحر نے لکھا ہے واطلق فی الغراب فشیل الغراب بانواعہ الشلاتة اور اس کے بعد صاحب ہدایہ پر بھی اعتراض کر دیا ہے کہ انه دانما یقع على دبر الدابتة (کامر آنفا) جس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صاحب بحر کے نزدیک تمام اقسام غراب کا حکم ایک ہی ہے اور یہ بھی کہ ان کے نزدیک عقعق بھی موزی ہے۔ لہذا اگر ایسا ہی علت حرمت ہوتی تو عقعق بھی ان کے نزدیک حرام ہو جاتا۔ حالانکہ عقعق کی حلت پر تمام فقہاء خنیہ کا جملہ ہے (الابابیوسف) اس کے باوجود فاضل مجیب نے ان کو بھی اپنا ہم خیال ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ "سبحان الله هو بهتان عظيم"۔ "نہ جانے

و اذا قلت لهم فاعدلوا ولو كان ذاقرلي كارشاد کون سے لوگوں کے لئے ہے۔

برکیف: مسوی کی جس عبارت سے فاضل مجیب نے استدلال فرمایا تھا وہ تو
اللہ شافعی "کامسلک مللت ہوا، لب زرالس بلہ میں حنفیہ کامسلک دیکھ لجئے حنفیہ" کے
نزدیک ان پانچ فواسن کو قتل کرنے کی علت ابتداء بالاذمی ہے، اکل نجاست یا اخلاق
نمیں ہے اور نہ حلت و حرمت سے اس کا کوئی تعلق ہے جیسا کہ خود مسوی کی مذکورہ
عبارت کے آخری جملوں سے مستفاد ہوتا ہے۔ وقالوا فی غیر
هائی الفهد والنمر والخنزير و جميع مالا يوكل لحمه عليه الجزاء بقتلها
الا ان يبتديه شئي فیدفعه عن نفسه فيقتلها فلا شئي عليه" یعنی
اگر کوئی جانور ابتداء بالاذمی کرے اور واقع میں اسے قتل کر دے تو کوئی
جزوا جب نمیں۔ معلوم ہوا کہ ابتداء بالاذمی علت ہے۔ اور علامہ ابن رشد
نے بھی حنفیہ اور مالکیہ کا ملک سی نقل فرمایا ہے۔
وقال (في المسئلة الثالثة) وهي اختلافهم في الحيوان النامور
بقتله في الحرام وهي الخمس المنصوص عليها، الغراب و
الحداء و الفارة و العقرب و الكلب العقور فان قوما
فهموا من الامر لها مع النهي عن قتل البهائم المباحة الاكل
ان العلة في ذلك هو كونها محمرة وهو مذهب الشافعی
وقوما فهموا من ذلك معنى التعدى لا معنى التحرير وهو
مذهب مالک وابي حنيفة وجمهور اصحابه

(بداية المجهود ص ۳۷۰ ج ۱)۔
اس عبادت میں وضاحت کے ساتھ حنفی کا یہ ذہب تحریر کیا گیا ہے کہ حدیث نبی ملک اللہ القتل فربانے کی علت ابتداء بالاذنی ہے اور اس حدیث سے کسی خاص شے کی حرمت پر دلیل قائم نہیں کی جاسکت، اس کے علاوہ تمام فرقہ اکی عبادتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ کچھ کہ کسی خاص باخورد کو

قتل کرنے سے جزاً واجب ہونے یا نہ ہونے کے بارہ میں ابتداء بالاذن کو مدار ثقیراتے ہیں،
کسائی البدایہ والبعرو العناية وغيرها۔

جب یہ میلت ہو گیا تو ساقعہ علی یہ بت بھی واضح ہو گئی کہ کوئے کے طالب یا حرام ہونے کا مسئلہ
ہمیں کتاب الحجہ میں نہیں ذکر ہوا چاہئے بلکہ اس کا صحیح مقام کتاب التذییل کی وجہ گرد ہے جو فتاہ
غراہ کی نزاکت و اقسام پر بحث کرتے ہیں۔ سیکھی بندی غلطی ہے کہ ایک مسئلہ کو اس کے صحیح مقام سے بٹا
کر دوسری فیصلے متعلق جگہ پر تلاش کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ کتاب التذییل میں فتاہ کی مدلولات واضح ہیں اور
آن سے تکلی کوئے کی ملت میلت ہوتی ہے۔

(۱) ملک العلماء کاسانی "تحریر فرماتے ہیں

"والغراب الذي يأكل الحب والزرع والعقوق وتحوهها
حلال بالأجماع (بدائع ص ۳۹ ج ۵)

(۲) شمس الأئمہ سرخسی تحریر فرماتے ہیں۔

خمس فواسق لقتلن في الحرم والمراد به ما يأكُل
الجيف داماً الغراب الزرعى الذى يلقط الحب فهو طيب
سباح لا نه غير مستحبط طبعاً وقد يأكُل الادمى كا
لحمام فهو و العقوق سواء ولا باس باكل العقوق و ان كان
الغراب بحيث يخلط فيما يأكُل الجيف تارة والحب تارة فقد
روى عن ابي يوسف رح انه يكره وعن ابي حنيفة انه لا باس باكله
وهو الصحيح على قياس الدجاجة، وانه لا باس باكلها وقد اكلها
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قد تخلط ايضاً
وهذا لأن ما يأكُل الجيف فلحمه ينبع من الحرام فيكون

خبيثاً عادةً وهذا لا يوجد فيما يخلط

(بساط سرخسی م ۲۲۶ ج ۱۱)۔

(۳) عالمگیریہ میں فتاویٰ قاضی خاں سے نقل کیا ہے

”عن ابی یوسف رح قال سئلت ابا حنیفة رح عن العقق فقال لاباس به قلت انه يا كل التجاصل فقال انه يخلط التجاصل بشئي اخر ثم يا كل مكان الاصل عنده ان ما يخلط كا لدجاج لاباس“

(عالمگیریہ کتاب النبأج ص ۲۲۱ ج ۵)

خط کشیدہ جملوں پر خصوصیت کے ساتھ غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہر خلط کرنے والا کو احلال ہے۔ رہایہ اعتراض کہ فقیاء رحمہم اللہ نے خلط کرنے والے کوے کے بارہ میں جو حکم دیا ہے کہ وہ حلال ہے۔ اس کو پھر عقق کے ساتھ محصور کر دیا ہے۔ سواں کی بناء صحیح نہیں۔ کیونکہ اس کی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ فقیاء خلط کرنے والے کوے کی نوع بتا کر آگے فرمادیتے ہیں ”وهو العقد“ اور یہ دلیل چند وجہ سے باطل ہے۔

(۱) وهو العقد کے الفاظ حصر کے ہرگز نہیں، اگر محصور کرنا معصود ہوتا تو بسراحت کما جاتا کہ هذا النوع محصور فی العقد۔ کیونکہ حلت و حرمت کا اہم مسئلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام فقیاء نے ایسا نہیں کیا کہ آخر میں عقق کی تصریح کر دی ہو، جیسے کہ عنایہ، بسط اور بدائع وغیرہ میں ہے، سلام ہو اکر یہ قید اتفاقی ہے احترازی نہیں۔

(۲) اس کے برخلاف بسط، بدائع اور عالمگیریہ کی عبارات عقق اور غیر عقق میں تفصیل نہ ہونے پر واضح ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر خلط کرنے والا کو احلال ہے خواہ عقق ہو یا نہ ہو۔

(۳) دراصل عقق کے کو اہونے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ اسے غرب میں داخل مانتے ہیں اور بعض نہیں، جیسا کہ لوبس ملوف یوسی لے اپنی لغت کی مشہور کتاب میں لکھا ہے۔

العقق طانر علی شکل الغراب اوهوالغراب (مندرجہ ص ۵۲۲)۔ چنانچہ صاحب ہدایہ کے نزدیک عقق غرب نہیں، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے اما العقق غير مستثنی لا نه لا یسمی غرابا (ہدایہ محبتی ص ۵۲۲ ج ۱)۔

اور دوسرے بعض فقیماء کی عبارات سے اس کا غرب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تواب جن لوگوں نے عقق کو غرب میں داخل نہیں مانا، وہ حضرات غرب کی انواع بیان کر کے گزر جاتے ہیں، اور وہ عقق نہیں کہتے بلکہ یا تو سرے سے اس کا ذکر نہیں کرتے یا وکذا العقق وغيرها کہتے ہیں، اور جنہوں نے عقق کو غرب میں شامل کیا ان حضرات نے خلط کرنے والے کوے کام ہی عقق رکھ دیا، اس لئے اس سلسلہ میں فقیماء کی عبارتوں میں کچھ تفاوت نظر آتا ہے۔

بہریف! معلوم ہو گیا کہ وہ عقق کہنے سے خلط کرنے والی نوع کا حصہ عقق میں نہیں کیا گیا۔

العبارات المزیدہ کا جواب

فوٹی کے آخر میں جو "عبارات مزیدہ" پیش کی گئی ہیں ان میں سے کتاب المختصر للاند لسی سے جو عبارت نقل کی گئی ہے، مندرجہ بالا بحث کے بعد قابلِ اعتماد نہیں رہتی کمالاً یخفی، البتہ چند روایات نقل کرنے کے بعد فاضل محب نے جو تحقیق فرمائی ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ اباقع کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک

خلط کرنے والا اور ایک صرف نجاست کھانے والا۔ کیونکہ تمیں الحقائق میں ہے والمراد بالا بقع الذی یا کل العجیف ویخلط کذا فی الهدایۃ۔ اور پھر وہ دلیل پیش کی کہ اباقع حرام ہے کیونکہ حدیث میں غراب سے مراد اباقع ہے اور عروہؓ فرماتے ہیں ومن یا کله بعد مسماه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسقا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ”اباقع“ لغتہ اس کوے کو کما جاتا ہے کہ جس میں سیاہی اور سفیدی دونوں موجود ہوں، لہذا اس کا اطلاق کوں کی تینوں قسموں پر ہو جاتا ہے۔ صرف دانہ کھانے والے کوے کو بھی اباقع کہہ سکتے ہیں، خلط کرنے والے کو بھی، اور صرف نجاست کھانے والے کو بھی۔ چنانچہ علامہ شامیؓ غراب الزرع کی تشریع کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال القہستانیؓ

واربید به غراب لم یا کل الا الحب سواء کان اباقع او اسود او زاغا و تماہی فی الذخیرۃ (شامی ص ۲۸۸ ج ۵)۔ دوسرے یہ کہ اگر واقعۃ ایسا ہوتا تو تمام فقیہاء اس کو بصراحت تامة تحریر فرماتے کیونکہ معاملہ اہم ہے۔ خصوصیت سے کتاب النبائیؓ میں تو پوری تفصیل سے مذکور ہونا چاہئے تھا۔ حالانکہ فقیہاء اباقع کو عام طور سے صرف نجاست کھانے والے میں خاص کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عالمگیریہ کی یہ عبارت ملاحظہ ہو،

هو الغراب الاباقع وهو ما یا کل العجیف۔

(عالمگیریہ ص ۲۸۸ ج ۱)

رہا حضرت عروہؓ کا قول، تو اس سلسلہ میں ہم صرف اتنا عزم کرتے ہیں کہ شخص الائمه سرخسی نے جو کچھ کوے کے بارہ میں لکھا ہے وہ یہ۔ یہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، ان کی پوری عبارت اس طرح ہے، (وعن) هشام بن عروہ عن ایہ انه سئل عن اکل الغراب فقال ومن یا کله بعد مسماه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسقا یريد به الحديث المعروف خمس

يقتلن في الحرام، والمراد به ما يأكل الجيف أما الغراب الزرعى الذى يلقطه الحب النع (سيوط سرخسى ص ۲۲۶ ج ۱۱)۔

اس لئے اس میں کسی بحث کی مبنیات باقی نہیں رہتی، البتہ عالمگیری اردو کی جو عبارت پیش کی گئی ہے۔ وہ زیر بحث مسئلہ میں صریح ہو سکتی تھی۔ مگر افسوس کہ عالمگیری اردو ہمارے پاس نہیں اور عربی کی اصل عالمگیری میں تنقیح کے باوجود اس مطلب کی کوئی عبارت نہیں ملتی، بلکہ اس کے خلاف ایک صراحت ملتی ہے جسے ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ جب تک اصل عبارت ہمیں نہ ملتی، اس وقت تک ہم کوئی فیصلہ قطعی اس عبارت کے بارہ میں نہیں کر سکتے۔ لا سیما اذا جربنا جربنا۔ اور اگر یہ عبارت بالفرض صحیح بھی ہو تو جتنی صراحتیں ہم نے پیش کی ہیں۔ اس کے بعد اس کی کوئی معتبرہ حیثیت نہیں رہتی جب کہ اس کے خلاف خود عالمگیری ہی میں اس قدر صریح نص موجود ہے۔

خلاصہ کلام

یہ ہے کہ فاضل محدث نے تمام استدلال کی بنیاد کتاب الحج کی عبارات کو بنایا ہے۔ حالانکہ یہ بنیادی غلطی ہے۔ کیونکہ حرم یا حالت احرام میں قتل کی اباحت کی علت ایذا ہے۔ (کما صرح به ابن رشد و يستفاد من سائر کتب الفقه) حرمت یا اكل نجاست و خلط نہیں ہے، بخلاف کوئے کی حرمت و حلت کہ وہاں علت بصرف نجاست کھانا یا خلط کرنا ہے (کما صرح به فی المہدیۃ والمبسوط) اس لئے ایک کاجوڑ دوسرے سے ملا کر کوئی حکم لگا رہنا کسی طرح سے صحیح نہیں ہو سکتا۔

بلکہ کوئے کی حلت و حرمت کافیصلہ معلوم کرنے کے لئے کتاب الذبائح میں وہ جگہ دیکھنی چاہئے جہاں فقماءؓ نے اس مسئلہ کا ذکر کر کے مختلف انواع غراب

اور ان کے احکام ذکر فرمائے ہیں۔ اور ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر خلط کرنے والا کو حلال ہے خواہ وہ موزی ہو یا نہ ہو۔ اور یہی فعلہ ہمارے اکابر مثلاً حضرت مولانا گنگوہیؒ وغیرہ سے منقول ہے۔

هذا ما بدالی بعد تحقیق۔ و فوق كل ذی علم علیم

احتر
محمدی عثمانی ز غفرانی شد
۲۸ نومبر ۱۴۰۷ھ
دارالعلوم کراچی

تحریر و تصدیق

حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب مدظلہم العالی

حامداً و مصلیاً، اما بعد، قال فی العناية و اما الغراب الاسود والابق فهو انواع ثلاثة نوع يلقط العب ولا يأكل الجيف وليس بمکروه ونوع منه لا يأكل الا الجيف وهو الذي سماه المصنف الابق الذي يأكل الجيف وانه مکروه ونوع يخلط يأكل العب مرة والجيف اخري ولم يذکرہ فی الكتاب وهو غير مکروه عند ابی حنیفته رح مکروه عند ابی یوسف

(العنایة علی باش الشعائر ج ۲۲ ص ۸۷)

نوع منه لا يأكل الا الجيف اور اس کی تفسیر ”هو الذي سماه العَب“ سے ثابت ہوا کہ صرف دہ ابق حرام ہے جو حکم نجاست کھاتا ہو۔ نیز ونوع يخلط (الی قوله) ولم یذکرہ فی الكتاب سے معلوم ہوا کہ ہر خلط کرنے والا کو احلال ہے، اس میں عقعق کی کوئی تخصیص نہیں۔ یہ عبارت نہ صرف یہ کہ عقعق کی تخصیص سے ساکت ہے بلکہ عدم تخصیص پر باطق ہے، اس لئے کہ عقعق کا ذکر توہیدیہ میں اسی موقع پر موجود ہے پس ولم یذکرہ فی الكتاب نفس صریح ہے کہ نوع يخلط سے مراد عقعق نہیں، بسوط اور بائع کی عبارت سے بھی یہ ثابت کیا جا چکا ہے۔ مخدوم عبد الواحد سیوطیانی ”نے بھی غراب اہلی کی حلت کی تصریح فرمائی ہے۔ ملاحظہ ہو۔ کس:- ماحکم خرء الغراب الذي یطیر فی الامصار و

القرى و يخلط بين التقاط العب و العذرات وما حكم سورة؟
الجواب:- النظاہران الغراب الابع الذى فيه سواد و
 ياض و پوسکروه عند الصاحبين وغير مكروه عند الامام کماں السراجیة
 والا بقع الاسود ان کان يخلط فيا کل الجيف ويا کل العب قال
 ابوحنیفه لا يكره وقال صاحباه يكره انتهى، فيكون ما کول اللحم (الى
 ان قال) وان لم يكن لخرئه رائحة كريهة يكون طاہرا الكون خرئه
 خره ما کول اللحم من الطيور التي ترزق في الهواء الغ
 (نماذی واحدی ص ۹۳)۔

عبارات بالا کے علاوہ متدرج ذیل نصوص میں بھی اس کی تصریح ہے کہ
 حلت و حرمت کامدار خواراک پر ہے۔

(۱) **واصل ذالک ان یاکل الجيف فلعلمه بت**

من الحرام فيكون خبيثا عادة وما یاکل العب لم يوجد ذالک فيه وما
 خلط کالدجاج والمعقع فلا باس با کلمه عنداکی حنیفة رج و هو الاصح لأن
 النبي صلی الله علیہ وسلم اکل الدجاجة وہی مما يخلط
 (العاشرۃ مع البحص ص ۶۲ ج ۸)

(۲) **فكان الاصل عنده ان ما يخلط کالد جاج لا**
 باس (عالملکیریہ ص ۳۲۱ ج ۵)۔

آخر میں ابو حنیفہ عصر، فقیر النفس حضرت مولانا رشید احمد صاحب
 گنگوہی کافیصلہ بھی تذكرة الرشید سے نقل کیا جاتا ہے: جب یہ فیصلہ خود کتب قدم
 میں نہ کوئی ہے کہ مداراس کی خواراک پر ہے۔ پس یہ کو اجوان بستیوں میں پایا جاتا ہے
 اگر یہ عقعق نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شبہ نہیں ہے۔ اس نے کہ جب وہ بھی
 خلط کرتا ہے اور نجاست و غله و دانہ سب کچھ کھاتا ہے تو اس کی حلت بھی مثل

عقوق کے معلوم ہو گئی خواہ اس کو عقوق کہا جاوے یا نہ کہا جاوے۔ فقط والہ اعلم، رشید احمد گنگوہی عنی عنہ۔

عبارت مذکورہ کے حاشیہ پر ہے۔ جب مخالفین کا اس مسئلہ پر غونما زیادہ ہوا تو ستر سے زائد علماء کا موافعہ سے ایک رسالہ بیان فصل الخطاب شائع کیا۔ نیز ایک حاجی نے علماء حرمیں سے اس کی حلت کا فتویٰ لیا، وہو ہے — الحمد لله وحده، رب زدن علماء الغراب المذکور حلال من غير كرامة عنداني حنفية رح وهو الاصح وہسو المسئی بالعقل بتصريح فقهائنا رحمةهم الله واصاب من افتى بحله وجوازاً كله وكيف يلام الحنفی على اكل ما هو حلال عند امامه من غير كراهة والاصل في حل الغراب وحرمةه الغذاء وكونه ذا مخلب لا بصورة ولو نه كما يدل عليه تصريحات فقهائنا في غالب معتبرات المذهب كمأوى البحر الرائق والدر المختار والعنایة وغيرها وفيما نصه جامع الرموز اشعار بانه لو اكل كل من الثلاثة الجيف و الحب جميعاً حل ولم يكره وقالاً يكره والا دل اصح فثبت مما صرح به علمائنا ان الغراب بانواعه سواء كان عققاً او غيره اذا كان يجمع بين جيف وحب يجوزاً كله عند امامنا الاعظم والله اعلم، (قاله بقلمه و امر بر قلمه عبدالله بن عباس بن صدیق مفتی مکہ المشرفة۔) اسی مضبوط کا علماء مدینہ منورہ کا بھی فتویٰ موجود ہے (تذكرة الرشید حصہ اول ص ۱۷۸)۔ اس تحریر کے بعد مسئلہ ایسا واضح ہو گیا کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔

فبای حديث بعد: يومئون -
 للشّدّ در المحبّب دل دارشاد الشّید
 الشّافی حیث اوضحوا الحجّ والصّریب
 بحیث لا یبقی منه رسیب مرتاب -

بنده محمد شفیع عفاف الشّاعر
 دارالعلوم کرجی س: ۳
 ۱۴ ربیع الاول ۱۳۸۰

فقط والشّدّ الحادی الى بیان الرّشد
 رشید احمد عفی عن
 دارالعلوم کرجی س: ۳
 ۱۵، ربیع الاول ۱۳۸۰

خطبائت عثمانی

(۳ جلدیں)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد عثمانی مدرسہ

کے خطبات کا دوسرا مجموعہ:

خاص ایڈیشن : = 1200 روپے

عام ایڈیشن : = 800 روپے

میر امبل پبلیشورز